

مَرْحَمَةُ كَلْبَانِ عَمَلِ الْأَبْدَانِ وَعَيْلَةُ الْأَرْيَانِ  
مُعَالَجَاتُ وَجَعَانِي وَطَبِّیُّ پَرِشْتَمَلِ اَیْکِ نَادِرِ کِتَابِ

# مَجْرِبَاتِ اِمَامِ سَيُوطِي <sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup>

— تصنیف —

قَدْوَةُ الْاِنَامِ حَضْرَةُ اِمَامِ جَلَالِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَيُوطِي رَحْمَةُ عَلَيهِ

— ترجمہ —

جناب مولانا حکیم عبد الہادی مرحوم و مغفور

— ناشر —

شعبہ برادری ۲۰ - اردو بازار لاہور

نام کتاب	مجربات امام سیوطی
مصنف	امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
ناشر	شبیر برادرزہ۔ لاہور
مطبع	اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز
تعداد	
قیمت	80 روپے

## فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۳	امراضِ سوداویہ کا علاج	۱۲	دریاجہ
۲۴	طبائعِ اربعہ کا علاج	"	علمِ طبیب کے بیان میں
"	تمغیہ عجیبہ	۱۴	در بیان اخلاطِ اربعہ
۲۵	لاغر جسم کو موٹا کرنے کے بیان میں	"	مزاجوں کے بیان میں
۲۶	ان امور کے بیان میں جو حالتِ صحت	۱۵	غذا کے بیان میں
"	میں بدن کے لیے ضروری ہیں۔	۱۸	خلطِ صفرا کی زیادتی
۲۹	پانی پینے کی تدبیریں	"	خون کی زیادتی
"	حرکت کی تدبیریں	۱۹	بلغم کی زیادتی
۴۲	ان مراسم کے بیان میں جو قروح و	"	خلطِ سودا کی زیادتی
"	جروح و دماہیل میں کام آتی ہیں	۲۰	شرائطِ طبیب
۴۹	دماغ کی خشکی کے علاج میں	"	طبائع کے بیان میں
۵۰	مائیخولیا کا علاج	۲۱	انذیہ کے طبائع کے بیان میں
۵۱	امراضِ سر کے بیان میں	۲۳	گوشت کا بیان
۵۱	دردِ سر صفراوی کے بیان میں	۲۶	ادویہ کے بیان میں
۵۲	سر درد اور آنکھوں سے آنسو بہنے کے	۳۱	مفرد مسہلات کے بیان میں
"	علاج میں	"	مکب مسہلات کے بیان میں
۵۴	دردِ دماغ کا علاج	۳۲	صفراؤ - سودا - خون اور بلغم کا علاج
۵۵	دردِ سر کا علاج لکھنے سے	۳۳	امراضِ صفراؤ کا علاج
۵۶	بابِ دسواں سرد کا علاج	"	امراضِ دمویہ کا علاج
۶۰	گیارہواں بابِ قرع گنج	"	بلغمی امراض کا علاج

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۷۳	رد کا علاج	۶۱	سر کے زخموں کے علاج میں
۷۴	آنکھ کی سرخی اور ڈہلکے کا علاج لکھنے سے	۶۱	سر اور بدن کی جوڑوں کا علاج
۷۴	آنکھ کی سرخی وغیرہ کا علاج دوائیوں سے	۶۲	بالوں کی اصلاح میں جو سر یا دڑھی سے
۷۵	بیاض عین کے بیان میں		گڑھیں۔
۷۷	آنکھ کے ڈہلکے کے بیان میں	۶۲	بالوں کے گرنے کا علاج
۷۷	تیزی بصارت کے بیان میں	۶۳	بالوں کے گرنے کا بیان
۷۷	آنکھوں کے پردے اور تاریکی کے	۶۳	بالوں کے نہ اگنے کا بیان
۷۷	علاج میں	۶۳	بالوں کے لمبا کرنے کے بیان میں
۷۸	آنکھ کی خارش کے علاج میں	۶۳	بالوں کے رنگنے اور سیاہ کرنے کے
۷۸	آنکھ کے مردہ گوشت کے علاج میں		بیان میں
۷۸	نزول الماد کے علاج میں	۶۴	صفراء کے ساکن کرنے کے بیان میں
۷۹	آنکھ کے زخموں کے علاج میں	۶۵	کان کی درد اور بہہ پن کا علاج
۷۹	پڑواں کے علاج میں	۶۶	کان کی درد کا علاج
۸۰	ناخونہ کے بیان میں	۶۶	بہہ پن کا علاج
۸۰	لطمہ کے علاج میں	۶۶	آنکھ کے دردوں کے بیان میں
۸۱	چشم بد کے علاج میں	۶۶	آشوب چشم
۸۲	نیز نظر لگنے کا علاج	۶۷	آنکھوں کے علاج اور سرموں کے
۸۶	صیفر یعنی یرقان کے علاج میں		بیان میں
۸۷	کلف و غش کے علاج میں	۶۷	غریبوں کے لیے سرمہ
۸۷	اس سیاہی دماغ کو دور کرنے	۶۷	ضحارت عین کے بیان میں
۸۷	میں جو چھپک کے بعد پڑ جایا کرتا	۶۷	آنکھ کا علاج تعویذات اور عزیمت سے
۸۷	ہیں۔	۶۷	آشوب زدہ آنکھ کے علاج میں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۹۶	بغل گند کا علاج	۸۸	تکسیر و ناک کے علاج میں
"	جمہرہ سرخ دانے کا علاج	"	زکام کے علاج میں
۹۸	علاج اس ریح کا جو مفاصل ہاتھوں اور بازوؤں میں بیٹھ جاتی ہے۔	۸۹	شفاق لب کے علاج میں
"	ریح المفاصل والورک کا علاج اس	"	منہ کے زخم و ورم کے علاج میں
۹۹	زردی کے علاج میں جو ہاتھ پاؤں پر ہو جائے۔	۹۰	گوشت خورہ کے علاج میں
"	ہاتھ پاؤں کے پھٹ جانے کا بیان	"	دانتوں کی درد و زردی کے علاج میں
"	مستوں کے علاج میں	"	دانتوں کے علاج میں
۱۰۰	انگلیوں کے ورم اور داخن چندرہ کے علاج میں	۹۱	ضرس یعنی داڑھ کے درد کے علاج میں
۱۰۱	وجع الطہر، وجع الورک، وجع المفاصل	۹۲	داڑھ کا علاج کتابت کے ساتھ
"	نقرس کے علاج میں	۹۳	دانتوں کے سفید کرنے میں
۱۰۲	مرفق در کبر رکنی و گھٹنے کے ورم کے علاج میں	"	ورم لسان کے علاج میں
"	گھٹنے کی رینچی درد	"	لبات زبالوں کے ورم کے علاج میں
۱۰۳	کہنیوں کی ورم عظیم کا علاج	"	منہ کی بدبو کے علاج میں
"	ورم ساقین و وجع قدین کے علاج میں	"	اور ام حلق کے علاج میں
"	قدم اور پنڈل کے درد کا علاج	"	الطباق المری کا علاج
"	شفاق الرجلین یعنی پاؤں کے پھٹ جانے کے علاج میں	"	بجو حہ الصوت رگلا بیٹھ جانا کے علاج میں
۱۰۴	قولنج کے علاج میں	"	داد الثعلب کے علاج میں
"	قولنج کے علاج میں	"	خازیر کے علاج میں
"	قولنج کے علاج میں	"	داد کے علاج میں
"	قولنج کے علاج میں	"	بہق کے علاج میں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۱۷	اس مریض کا علاج جس کی ٹانگیں ہاتھ پاؤں، تمام بدن ڈھیلا ہو گیا ہے۔	۱۰۴	رشتہ راعضاد کا کانپنا کے علاج میں
"	تمام امراض کا علاج	۱۰۵	جسم کے پھول جانے کے بیان میں
۱۲۰	ہر بیماری کا علاج دواسے	"	وجع الصدہ (درد سینہ) کے علاج میں
۲۴	طاغون و منفس رچیپس کے علاج میں	"	ذات البخت (درد پلو) کے علاج میں
۱۲۵	زحیر (مروٹا) کے علاج میں	"	برد قدیم (پرانی سردی) کے علاج میں
۱۲۶	درد شکم کا علاج	۱۰۶	بوطابق (مرگی) کے علاج میں
۱۲۷	اسہال کے روکنے کے بیان میں	"	ضیق النفس (دوسرے) کے علاج میں
"	نفع بطن ریٹ کا پھونکے علاج میں	۱۰۷	ضیق و سعال (درد کھانسی) کے علاج میں
۱۲۸	اسہال خون کے علاج میں	"	دہلی و اورام (قروح) چھوڑوں درموں
"	معدہ و درد شکم کے علاج میں	"	زخموں کے علاج میں
"	غشیانہ و تفس کے علاج میں	۱۰۹	وجع السترہ (درد زناں) کے علاج میں
۱۲۸	معدہ کے اضطراب کے علاج میں	"	ورم لیر (بڑا ورم) کے علاج میں
"	وجع الفواد (کوڑھے) کے علاج میں	۱۱۰	جوش خون، شکستہ دار الفیل کوڑھے
"	نفث الدم (خون تھوکانا) کا علاج	"	کی ضرب، ورتق مدق (ناروا) کے علاج میں
۱۲۹	درد جگر کے علاج میں	۱۱۱	حرق النار و حرارت الشمس اور اس حرارت کے علاج میں جو موسم گرما میں گنتی ہے۔
۱۳۰	گردہ کا علاج	۱۱۲	جدری (چھپک) کے علاج میں
"	طحال کے علاج میں	۱۱۳	چھپک و اسے کی آنکھ کا علاج
۱۳۱	طحال کا علاج کتابت سے	"	فاو فارسی یعنی جمرہ کے بیان میں
۱۳۲	وجع القلوب و حفقان کے بیان میں	"	ابولیس یعنی شب کوری کے بیان میں
۱۳۳	دل کا علاج کتابت اور عزیمت کے علاج میں	۱۱۴	طیر یعنی آنکھ کے علاج میں
"	وجع المعده کے علاج میں	۱۱۵	جرب و حکہ (فٹک) ذرا خارش کے علاج میں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
	گئی ہو، کا علاج ادویہ سے	۱۲۵	فواق یعنی ہچکی کا علاج
۱۵۶	مربوط کا علاج کتابت و عزیمت سے	۱۲۶	جوندک کے حلق میں چلے جانے کا علاج
۱۵۷	شہوت بستہ کا علاج ادویہ سے	۱۲۷	ویدان رپیٹ کے کپڑے مثل کدوانہ
۱۵۸	معقود کا سحر باطل کرنے میں	۱۲۸	چونے، ملبہپ کے علاج میں
۱۶۱	تقویت باہ رجن سے جماع کی طاقت	۱۲۹	استسقا کے علاج میں
	بڑھے کے بیان میں	۱۳۰	سعالی یعنی کھانسی کے علاج میں
۱۶۶	عورت کی شہوت بستہ کرنے میں تاکہ اس پر کوئی قادر نہ ہو سکے۔	۱۳۱	اس کھانسی کا علاج جس میں خون کی آمیزش ہو
۱۶۸	لذت جماع کے بیان میں	۱۳۲	فصد و حجامت کے علاج میں
۱۶۹	عورت کی شہوت تیز اور کم کرنے کے	۱۳۳	رنج و غم کے علاج میں
	بیان میں	۱۳۴	حمیات رنجاروں کے علاج میں
	عضو خاص کی کمزوری کا علاج	۱۳۵	طوارق حمیات رنجاروں کے حملے کا علاج
۱۷۰	فرج بارو سیلان رحم، صیق و بدبو زائل کرنے کے بیان میں	۱۳۶	حرارت غریبہ کے بھانے میں جو حالت مرض میں بھڑک اٹھتی ہے۔
۱۷۱	نابالغ لڑکی کے بانغ کرنے اور اس کے رحم سے خون جاری کرنے کے بیان میں	۱۳۷	عطش مفراط یعنی بے حد پیاس اور معدہ کی سوزش بھانے کا علاج بھوک و پیاس کا علاج
	ثیب کے بکریاں سے یعنی وطنی کردہ شدہ عورت کو نواری کی مانند کر دینا۔	۱۳۸	سرخار کا علاج بذریعہ ادویہ و تعویذات
۱۷۲	سلس البول کے علاج میں	۱۳۹	حمی باروہ کا علاج کتابت سے
	تقطیر البول و حرقت البول کا علاج	۱۴۰	حمی حادہ کے علاج میں
۱۷۳	تنگی بول کے علاج میں	۱۴۱	عشق اور محبت کے فراموش کرنے کے علاج میں
۱۷۴	سنگریزہ و ریگ مثانہ کے علاج میں	۱۴۲	مربوط یعنی سست نامرد جسکی منی باندھی

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۹۲	جنین کی حفاظت میں	۱۷۵	اس شخص کا علاج جو خون اور پیپ کا بول کرتا ہو۔
۱۹۳	عسر نفاس یعنی تنگی ولادت کے علاج میں	۱۷۶	خروج مقدر (کانچ نکلنا) کے بیان میں
۱۹۴	در درحم کے علاج میں	۱۷۷	وجع خستین (درد خصبہ) کے علاج میں
"	حیض جاری کرنے کے بیان میں	۱۷۸	ذکر و فرج کے درد و زخم کے علاج میں
۱۹۷	کثرت طمث کا علاج یعنی حیض کے خون کی کثرت کو روکنے کے علاج میں	۱۷۹	بواسیر کے علاج میں۔
۱۹۷	کثرت طمث کا علاج کتابت و تعویذ سے	۱۸۰	عرق انس اور ریگن واؤم کے علاج میں
۱۹۹	اس شخص کے علاج میں جس کو دیوانہ کتا کاٹ گیا ہو۔	۱۸۱	فالچ (اوزنگ) کے علاج میں
۲۰۰	سگ گزیدہ کا علاج منتر سے	۱۸۲	برص کے علاج میں
۲۰۰	سموم یعنی زہر خوردہ کا علاج	۱۸۳	جذام کے علاج میں
۲۰۱	افنی (سانپ) پھو وغیرہ موزی تشرات الارض کے ڈنگ مارنے کے علاج میں	۱۸۴	جنون و وسواس کے علاج میں
۲۰۲	پھروں، گبریلوں، مکڑیوں، سانپوں، سپوں وغیرہ موزی جانور گھروں سے نکلنے کے بیان میں	۱۸۵	اختلام کے دفع کرنے میں
۲۰۵	کھبوں کو گھر سے نکالنا	۱۸۶	ملعونہ یعنی آکلم گوشت خورہ کے علاج میں
"	پھروں کو بھگانا	۱۸۷	بہت جننے وال عورت کے بیان میں اس بات کے معلوم کرنے میں کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔
"	چھیلی کے ہانکنے کا علاج	۱۸۸	حمل نہ ہونے کے علاج میں یعنی حمل ٹھہرانے کے علاج میں
۲۰۶	کھبوں کا بھگانا	۱۸۹	جنین راقد یعنی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں سویا ہو اس کے بیدار کرنے کے علاج میں
		۱۹۱	جنین و شمبہ یعنی جھلی کے ساقط کرنے



صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۳۶	عبدالسلیمان علیہ السلام کے بیان میں	۲۰۶	چوہوں کے قتل کرنے کی تدبیر
۲۴۰	ام الصبیان کے بیان میں	"	بچھوڑوں کے ہانکنے میں
۲۴۶	چھوٹے بچوں کے امراض کے بیان میں	"	جب یعنی مرد و عورت کی باہمی محبت باکمی
۲۴۹	بچے کی تپنے کے واسطے -	"	عورت کو اپنی طرف مائل کرتے کے بیان میں
"	بچوں کی ڈائٹن کا علاج	۲۰۷	امرار عجیبہ
۲۵۰	بچے کی سہکی کے واسطے	۲۰۸	مرد و عورت کی بغیرت و دشمنی کو رفع کرنے
"	نیند میں ڈرنے کے واسطے	"	کے بیان میں
۲۵۲	چشم بد کے واسطے	۲۰۹	سوٹے ہوئے سے بائیں کرانے کے بیان
"	اس بچے کے لیے جو چارپائی پر بول کر	"	میں
"	وے -	۲۱۱	کتے کی زبان بند کرنے کے بیان میں
"	اس بچے کے لیے جو مٹی کھاتا ہو	۲۱۲	چوری دریافت کرنے کے بیان میں
"	عورت کا دودھ زیادہ کرنے کے واسطے	۲۱۵	گھی، مکھن، شہد، سرکہ بنانے میں
"	بچے کا دودھ چھڑانے کے واسطے	۲۱۸	مصروع (مرگی والا) کے علاج میں
۲۵۳	بچے کے رونے کا علاج	"	آسیب یعنی من کی تکلیف سے بے ہوش
۲۵۴	غضب و غصہ دور کرنے کے واسطے	"	ہو جانے والے کا علاج کتابت سے
۲۵۵	طوسی و مینڈک وغیرہ موزوں سے کھیت کی حفاظت	۲۲۵	صیحح سالم شخص کو بھید معلوم کرنے کے لیے بے ہوش کرنا۔
"	بکریوں کی چمپک کے دفعیہ میں	۲۲۶	عقاقراد و بیہ کے ساتھ جنوں کا جلانا
"	بکریوں کے پاؤں میں جو پھوڑا نکل آتا ہے	۲۲۸	سرک کا علاج آیات و ادویہ کے ساتھ
"	اس کا علاج	۲۳۳	تابع یعنی ام الصبیان کے علاج اور
"	کھیتی و باغ سے بھڑیے و خنجر وغیرہ موزی جانور کے ہانکنے کے واسطے -	"	اس گفتگو کے بیان میں جو اس موزیہ اور سلیمان علیہ السلام کے مابین واقع ہوئی

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۴۷	جوہر بنانے کے بیان میں	۲۵۷	درخت سے چوٹی قطع کرنے کے واسطے
۲۴۸	بقول و محبوب و معاون سے تیل نکلانے کے بیان میں۔	۱۱	درختوں و کھیتوں کی برکت کے لیے پھل
۲۴۹	ایسی دوا جو پانی پر چلے اور ایسا پانی بنانا جو کپڑے کو جلنے سے بچائے۔	۲۵۸	اس گائے کی وحشت دور کرنے کے لیے جو اپنے بچے سے نفرت کرے۔
۲۵۰	ایسے لفظ بنانا جن میں کونہ ہو	۱۱	درخت کی جڑ سے چوٹیاں دور کرنے کیلئے
۱۱	ایسی آگ بنانا جو پانی پر شعلہ رسے	۱۱	کھیتی سے ٹڈی دور کرنے کے لیے
۱۱	شکر بنانے کی ترکیب	۱۱	جونک کے دور کرنے کے لیے
۲۵۱	اور یہ یعنی ایسی دوا بنانا جس سے بدن انسان پر جو چاہیں لکھ لیں۔	۲۵۹	اس درد کے دور کرنے کیلئے جو بہائم کے پاؤں میں ہو جایا کرتی ہے۔
۱۱	لوہے کو فولاد ہندی بنانے کے بیان میں	۱۱	چوٹوں کے دور کرنے کے لیے
۲۵۱	کلاک و صابون سازی بنانے کے بیان میں	۱۱	زمین سے کپڑوں کو بھگانے کے لیے
۲۵۳	نوشادر، صبر، سفیدہ بنانے کی ترکیب	۱۱	اس حیوان و انسان کے لیے جس کا بچہ گر جاتا ہو
۲۵۴	نقصانِ حفظ و فہم کے علاج میں	۱۱	بکریوں کو شیر یا بھڑیٹے سے بچانے کے لیے
۲۸۰	طعام وغیرہ اشیاء میں برکت ڈالنا	۲۶۰	کوتروں کو مکان سے ہانکنے کے بیان میں
۲۸۲	مسائل متفرقہ کے بیان میں	۱۱	پزندوں اور مچھلیوں کے شکار کرنے میں
۲۸۳	فائدہ دعائے مستجاب	۲۶۱	سنہری سیاہی بنانے کے بیان میں
۲۸۴	ہر ایک خون و خطر سے بچنے کے لیے	۱۱	کالی سیاہی بنانے کے بیان میں
۲۸۵	دشمنوں کو بھگانے کے لیے	۲۶۳	سرخ و سبز و نیلی سیاہی بنانے کے بیان میں
۱۱	جن وغیرہ موزی دشمنوں سے حفاظت کے واسطے	۱۱	بیس بنانے کے بیان میں
۲۸۶	عورت کو محبت میں پھنسانے کے لیے	۲۶۴	زنگار بنانے کے بیان میں
	حفاظت کے واسطے۔	۲۶۵	زرد سیاہ رھوڑی تیار کرنے اور عقیق و

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۹۲	علوی الحکاوی کی ترکیب	۲۸۷	ناقص و غیر مروج سکھ یا چیز کو رواج دینا
۲۹۳	معجون جالینوس	۲۸۸	زوج و زوجہ کے مابین صلح و محبت کے واسطے۔
"	معجون مسمن یعنی فرہ کرنے والی معجون		
"	دوا الکبریت	۲۸۹	چمڑا رنگنے کے بیان میں
"	معجون حلیمت	۲۹۰	چند مفید شربتوں کے بیان میں
۲۹۴	معجون ملح ہندی	"	شریت بنفشہ بنانا
"	معجون فیروز نوش	"	شریت ہند بالغی کا سنی
"	معجون پودنیہ	۲۹۱	شریت لعناع کی ترکیب
"	معجون بر شمشاد	"	معاجین نافعہ کے بیان میں
		"	معجون لعناع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 ویباچہ از طرف مصنف

عالم علامہ امام شیخ جلال الدین سیوطی نے کہا ہے کہ میں نے اس کتاب کو ابو طیب اور دیگر بزرگوں کی کلام اور مختلف کتابوں سے منتخب کیا ہے اور اس سے پہلے کہ نفس مضمون کو شروع کیا جاوے اللہ تعالیٰ کی تعریف ضروری ہے جس نے عدم سے موجودات اور موجودات سے کائنات کو پیدا کیا اور اپنی حکمتِ کاملہ اور صنعتِ بالغہ سے کائنات کے طبائع میں تاثیر اور تاثیر کی خاصیت ودیعت کی اور اجسام مرکبات کو چار مختلف طبائع پر پیدا کیا۔ اور ہر ایک کے نفع اور نقصان اور فائدہ اور زیان کا اندازہ لگایا۔ اور ہمارے آقا اور سید اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرکات و سکنات کے اندازہ سے درود و سلام ہو۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ یہ مختصر کتاب علم طب کے بیان میں ہے جس کے اغراض کو میں نے جامع و مانع بنا دیا ہے تاکہ اس کی شستگی اور جامعیت سے شائقین کے دل بٹاش ہوں اور آنکھیں تروتازہ۔ اور طالب کے لیے اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا آسان ہو۔ میں نے اپنے خیال میں کامل غور اور فکر کے بعد اس کے اصول اور فروع کو کدورت سے صاف کر دیا ہے اور اس کا نام کتاب الرحمۃ نے الطب والحکمت رکھا ہے اور اس کے بنانے سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہے میں نے اس کتاب کو ۱۹۵ باب پر تقسیم کیا ہے۔

## پہلے باب علم طبیب کے بیان میں

یہ باب تمام ابواب سے مہتمم بالشان ہے۔ کیوں کہ جو شخص علم طبی میں ماہر ہو جاتا ہے اس پر معدنیات اور نباتات کا علم اور ترکیب اور منافع اور مضار آسانی سے منکشف ہو جاتے ہیں اب جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ حرارت کی

طبیعت ہے اور اس کا اصل حرکت کونیہ، جس کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور وہ (قدرت) تمام اشیاء متحرک کی علت العلل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بروودت کی طبیعت کو پیدا کیا اور اس کا اصل سکون کونی سے ہے۔ جس کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور وہ (قدرت) تمام اشیاء ساکنہ کی علت العلل ہے۔ پس یہ دو سب سے اول چیزیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ (ترجمہ) ہم نے ہر چیز سے جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت کپڑو۔ پہر گوم سرد پر متحرک ہو۔ اور آپس میں مل گئے۔ پس حرارت سے پیوست پیدا ہوئی اور بروودت سے، رطوبت، پس ایک روحانی (بسیط) جسم میں چار الگ الگ طبیعتیں پیدا ہو گئیں۔ اور یہی پہلی بسیط مزاج ہے۔ پھر حرارت رطوبت کو لے کر اڑی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے حیات اور اعلیٰ افلاک کی طبیعت پیدا کی۔ اور بروودت پیوست کے ساتھ نیچے کی طرف اتری تو اس سے سوت اور اسفل افلاک کی طبیعت پیدا ہوئی۔ پھر اجسام کو ان ارواح کی ضرورت پڑی جو ان سے مصدر ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے دوسرے دورہ میں فلک اعلیٰ کو بنایا تو حرارت بروودت کے ساتھ اور رطوبت پیوست کے ساتھ مل گئی اور اس سے اربعہ عناصر پیدا ہوئے کیونکہ حرارت کی مزاج پیوست کے ساتھ مل جانے سے عنصر نار پیدا ہوا اور حرارت کی مزاج رطوبت کے ساتھ مل جانے سے عنصر ہوا پیدا ہوا اور بروودت کی مزاج کے رطوبت کے ساتھ مل جانے سے عنصر مادی (پانی) پیدا ہوا۔ اور پیوست کی مزاج کے بروودت کے ساتھ مل جانے سے عنصر ارضی (مٹی) پیدا ہوا۔ پس یہ تمام مخلوقات کی مزاج ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس سے عالم علویہ پیدا کیا اور معدنیات کو مرکب کیا۔ پس یہ سو الیڈ ثلاثہ کا پہلا مرکب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے دورہ میں فلک اعلیٰ سے اسفل تک بنایا اور اس سے نباتات اور حیوانات بھی (چار پائے) بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھے دورہ میں فلک اعلیٰ سے نہایت اسفل تک بنایا اور اس سے حیوان مطلق یعنی انسان پیدا ہوا اور یہ سب مرکبات سے ترکیب میں آخر و احسن اور اکمل ہے اور اس علم طبعی سے جس کے نیچے ہم گئے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصود بالذات یہی حضرت انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چار چیزوں، پانی، مٹی، آگ اور ہوا سے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب پانی کا حصہ زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان حافظہ، اور عالم اور

فقیہ اور شریف ہو جاتا ہے اور جب مٹی کا حصہ بڑھ جاتا ہے۔ تو خوزیز، خبیث، سخیل ہو جاتا ہے اور جب آگ کے اجزاء بڑھ جاتے ہیں تو ظالم اور بہادر بن جاتا ہے اور جب ہوا کا حصہ بڑھ جاتا ہے تو کتاب بن جاتا ہے۔

## فصل در بیان اخلاطِ اربعہ

پہلی خلطِ صفرا ہے۔ اور وہ گرم خشک ہے اور وہ عنصرِ نارِ طبعی سے پیدا ہوتی ہے اور وہ انسان کے جسم میں مرارہ دہرے کی تھیلی میں رہتا ہے اور دوسری خلطِ خون ہے۔ اور گرم تر ہے۔ اس کی اصل عنصرِ ہوا طبعی ہے۔ اور اس کا مسکن انسان کا جگر ہے۔ تیسری خلطِ بلغم ہے اور وہ سرد تر ہے اور اس کا اصل عنصرِ مٹی طبعی ہے اور اس کا مسکن انسان کا پھیپھڑہ ہے۔ چوتھی خلطِ سودا ہے اور وہ سرد خشک ہے اور اس کا اصل عنصرِ ارضی طبعی ہے اور اس کا مسکن انسان کے جسم میں طحال ہے اور انہی اخلاط سے بدن کا قوام ہے اور انہی سے اس کی خرابی ہے۔

## فصل مزاجوں کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ ابدان میں مزاجِ طبعی معتدل واقع نہیں ہوا۔ بلکہ بعض اجزاء گرمی میں کم و بیش ہوتے ہیں اور بعض برودت میں۔ اور بعض رطوبت میں اور بعض یوبست میں۔ پہلی مزاجِ صفراوی ہے اور یہ وہ ہوتی ہے جس میں گرمی اور خشکی زیادہ ہوتی ہے اور رطوبت اور برودت کم ہوتی ہے اور صفراوی کی علامت تمام احوال اور حرکات ہیں۔ تیزی اور جواغردی اور بہادری اور غلبہ اور فہم کی تیزی اور جسم کی لاغری اور نیند کی کمی ہوتی ہے۔ اور جب اس مزاج میں حرارت بہ نسبت یوبست کے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور جب یوبست حرارت سے زیادہ ہوتی ہے تو رنگ گندم گون مائل بہ سرخی ہوتا ہے اور جب دونوں مساوی ہوتے ہیں تو زرد رنگ ہوتا ہے دوسری مزاجِ دموی ہے اور یہ وہ ہے جس میں حرارت رطوبت کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے اور برودت اور یوبست کم ہوتی ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس مزاج کے آدمی کا بدن موٹا گوشت زیادہ، خون زیادہ، خوش و

خرم، نیک اخلاق، اور متوسط الفہم ہوتا ہے۔ اور جب حرارت رطوبت سے زیادہ ہوتی ہے تو رنگ زرد ہوتا ہے اور جب رطوبت حرارت سے زیادہ ہوتی ہے تو سفید رنگ مائل بہ سرخی ہوتا ہے اور جب مساوی ہوتے ہیں۔ تو اشقر (گنگا درمیان سفیدی اور سرخی) ہوتا ہے۔ تیسری مزاج بلغمی ہے اور یہ وہ ہے جس میں برودت اور رطوبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور حرارت اور یوست کم ہوتی ہے۔ اور اس قسم کا آدمی بھی موٹا، چربی دار۔ زیادہ رطوبت والا۔ بہت سونے والا سست رفتار۔ کند ذہن، بہت بولنے والا ہوتا ہے۔ اور کسی خبر کو جلدی سے نہیں سمجھ سکتا۔ اور جب اس حالت میں برودت بہ نسبت رطوبت کے زیادہ ہو۔ تو رنگ سفید ہوتا ہے۔ اور جب رطوبت برودت سے زیادہ ہو۔ تو اس کی سفیدی بصر کے قریب قریب ہوتی ہے۔ اور جب دونوں مساوی ہوں تو رصاصی اللون (قلبی کا رنگ) ہوتا ہے۔ چوتھی مزاج سوداوی ہے اور یہ وہ ہے جس میں برودت اور یوست زیادہ ہوتی ہے۔ اور حرارت اور رطوبت کم اور اس قسم کا آدمی لاغر جسم، دبل بدن۔ کم سونے والا ہوتا ہے۔ اور جماع کے بغیر صبر نہیں کر سکتا اور جب اس میں برودت یوست سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو رنگ اکمر (فاکستری) ہوتا ہے۔ اور جب یوست برودت سے زیادہ ہوتی ہے تو جسم کا رنگ اغبر (غبارناک) ہوتا ہے اور جب دونوں مساوی ہوتے ہیں۔ تو جسم کا رنگ رصاصی ہوتا ہے۔ پانچویں مزاج وہ ہے جو کہ طبیعت کے اعتدال میں معتدل ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس مزاج کا آدمی ذکی الفہم معتدل الاعضاء، متوسط الحالات تیزی اور سستی میں درمیانہ بہادری اور بزدلی میں میانہ اخلاق میں متوسط اور تمام امور میں متوسط البیت ہوتا ہے۔

## فصل غذا کے بیان میں جو بدن انسان میں تصرف کرنوالی ہے

جاننا چاہیے کہ بدن کا قوام اور جسم میں روح کا ثبات غذا کے ذریعہ سے ہے اور اسی سے بدن کی اصلاح (بہتری) اور خرابی ہوتی ہے۔ اور یہ فصل نہایت مہتم بالشان ہے جس کے جاننے سے کسی عقلمند کو مستثنیٰ رہے پرواہ نہ رہنا چاہیے۔ اور یہ اس طرح پر ہے کہ غذا جب ہضم ہو جاتی ہے اور تمام آلات ہضم میں تصرف کرتی ہے تو طبیعت بیدار ہوتی ہے۔ اور کھانے

کا تقاضا کرتی ہے اور اس کا نام بھوک ہے۔ پھر جب طبیعت کو غذا کا مادہ نہیں ملتا تو اصل رطوبتوں کے کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور جب رطوبت اصلینہ فنا ہو جاتی ہے تو حرارت غریزہ منطقی رہ جاتی ہے اور ہلاکت کا باعث بنتی ہے اور اگر غذا کا مادہ حاصل ہوتا رہے تو انسان کے قائم رکھنے والے مادے قائم رہتے ہیں جس سے طبیعت اپنے فعل پر قادر رہتی ہے۔ اور مادہ غذا کو انسان کی زبان جس کو اللہ تعالیٰ نے معرفت طعام اور ترجمان الکلام بنایا ہے۔ اس کو دائیں بائیں الٹی رہتی ہے تاکہ دانت اس کو پستے رہیں۔ اگر غذا یا بس ہوتی ہے۔ تو اس کے تر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کے نیچے دو تہریں پیدا کر دی ہیں جس سے اس کو رطوبت پہنچتی رہتی ہے۔ پھر جب زبان کی اس حرکت سے غذا بخوبی حلطلط ہو جاتی ہے۔ تو طبیعت اس کو مری کی طرف دھکیں دیتی ہے اور یہ مری معدہ کا اوپر کا حصہ ہے۔ معدہ فارورہ کی طرح (فارورہ وہ شیشی ہوتی ہے جس کی شکل کدو کی سی ہوتی ہے) مخلوق ہے۔ اس کے لیے گردن اور پیٹ ہے جب غذا آہستہ آہستہ معدہ کے جوف میں اترتی ہے۔ اور معدہ اس سے بھر جاتا ہے۔ تو اسے سیری کہتے ہیں۔ اور معدہ کے اسفل (نیچے) میں ایک وسیع سوراخ ہے۔ جو سبر ہونے کے وقت بند ہو جاتا ہے اور حرارت غریزہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس کے ذریعہ سے غذا تحلیل ہوتی ہے اور رطوبت اصلینہ کے واسطے سے لطیف ہوتی ہے۔ پھر جب غذا ہضم ہوتی ہے تو اس سوراخ سے تھوڑی تھوڑی انتڑیوں کی طرف اترتی ہے۔ اور جب معدہ میں رطوبت کم ہوتی ہے تو طعام اس میں خشک رہ جاتی ہے اور حرارت بڑھ جاتی ہے۔ جس سے رطوبت میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ اور پانی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام پیاس ہے۔ اگر پانی کا مادہ حاصل نہ ہو تو حرارت تمام رطوبات اصلینہ کو خشک کر دیتی ہے۔ اور ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اگر پانی کا مادہ حاصل ہو جائے۔ تو طبیعت رطوبت کے ذریعہ سے عمل کرتی ہے۔ اور باقی طعام امعاد کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ انتڑیاں معدہ کے نیچے بائیں طرف واقع ہیں۔ پھر طبیعت اس مادہ غذا کو دوبارہ امعاء میں پکاتی اور اس حالت میں وہ مادہ ایک لطیف سفید رنگ کا پانی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو طبیعت انتڑیوں کی نالیوں کے ذریعہ سے جگر کی طرف دفع کرتی ہے۔ اور جگر دل کے نیچے اس



کی دائیں طرف ایک قسم کا سرخ رنگ کا گوشت ہوتا ہے۔ پھر اس مادہ لطیفہ کو جگر کی طبیعت اچھی طرح پکاتی ہے۔ اور وہ سرخ رنگ کا خون بن جاتا ہے۔ جس کی چار قسمیں ہوتی ہیں، پہلی قسم ایک قسم کی صفراوی جھاگ ہوتی ہے۔ جس کی جگہ سرارہ ہوتی ہے اور یہ ایک قسم کی تھیلی ہے جو جگر اور معدے کے درمیان عائل ہے۔ اس کا منہ جگر کے ساتھ ملا ہوا ہے جس سے وہ صفراوی جھاگ کو چوستا رہتا ہے اور اس کو ضرورت کے وقت معدے کی طرف دھکیلتا رہتا ہے اور معدے کے ہضم پر کثرت حرارت سے مدد دیتا ہے۔ دوسرا حصہ فضلہ سوداویہ ہے اور یہ خون کی تلچھٹ ہے جس کے رہنے کی جگہ طحال ہے اور اس کے تین منہ ہیں۔ ایک تو جگر کی طرف جس سے اس کے فضلات رویہ کو چوستی رہتی ہے اور کچھ اس میں سے معدے کی طرف دفع کرتی رہتی ہے۔ دوسرا منہ وہ ہے۔ جو معدے کی طرف کھلا ہوا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ تلی اپنی تیزی اور قبض کے سبب معدے کے ہضم کو بڑھاتی ہے اور طاقت دیتی ہے۔ تیسرا منہ انتریلوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جس کے ذریعہ سے باقی فضلات ان میں آگرتا ہے اور پانچانے کے ساتھ وضع ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم فضلہ مایہ لیسدار سفید رنگ ہے۔ جس کے رہنے کی جگہ گردے ہیں۔ جس کو گردے جگر سے چوستے رہتے ہیں۔ اور اس سے گردے کی چربی اور گوشت کا مادہ بنتا ہے۔ اور جو کچھ گردے کی خوراک سے باقی رہ جاتا ہے وہ مٹانے کی طرف اتر جاتا ہے اور طبیعت اس کو دفع کرتی ہے اور اس کا نام بول ہے۔ چوتھی قسم غذا خالص ہے جو ان فضلات رویہ سے پاک و صاف ہو جاتی ہے اس کو تمام جسم میں پھیلانے کے لیے جگر کے محذب حصے میں یعنی اس کے اوپر کے حصے میں ایک بڑا سوراخ ہے جو کہ خالص غذا کو جگر سے تھوڑا تھوڑا چوستا رہتا ہے۔ پھر اس کو دو درگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جن میں سے ایک اعلیٰ بدن کی طرف چڑھتی ہے۔ اور اس سے بہت سی رگیں چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی چھوٹی ہیں اور ہر ایک ان میں سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اپنا حصہ لے لیتی ہے اور یہی خون اور گوشت کا مادہ بنتا ہے اور اسی سے بدن کا قوام اور روح کا ثبات زندگی تک رہتا ہے۔ پس اگر غذا معتدل اور عمدہ ہو تو اس سے صحت حاصل ہوتی ہے اور طبیعت اس سے اچھے بخارات کو دل کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر وہ بخارات دماغ کی طرف چڑھتے ہیں۔ جس

سے بدن ہمیشہ صحیح و سالم رہتا ہے۔ اور اگر بعض اخلاط بعض پر غالب ہو جائیں۔ تو مرض کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔

## خلط صفراء کی زیادتی

جب انسان تغذیہ صفراء پر گرم خشک مثل شہد۔ لسن۔ گوشت وغیرہ کے بکثرت کھانا ہے تو طبیعت معدہ سے دماغ کی طرف بخارات صفراء وغیرہ معتدلہ کو اٹھاتی ہے۔ اور اس سے سر کا درد اور شقیقہ اور نیند کی کمی رگوں کا سکڑنا۔ اور لمس کی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ پس اگر انسان کنپٹیوں کو ملنے اور سرد تر اشیاء کے کھانے اور گرم خشک اشیاء کے پرہیز کرنے سے طبیعت کو اعتدال پر لاوے۔ تو جلدی آرام ہو جاتا ہے۔ اور اگر سستی کرے اور مادہ زیادہ پیدا ہو جاوے تو اس سے امراض خطرناک مثل حمہ اور یرقان اصفر اور سخت اور ام اور حملہ غب پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر سستی سے امراض میں سے کوئی پیدا ہو جائے تو اس وقت ان ادویہ کی ضرورت پڑتی ہے جو صفراء کو نکلانے والی ہوں جن کا ذکر آئندہ کیا جائے گا۔

## خون کی زیادتی

جب انسان خون بڑھانے والی چیزیں مثل اشیا پرب دار۔ علوار وغیرہ گرم تر چیزوں کی کثرت کرتا ہے تو طبیعت خون کی کثرت سے بدن میں بھڑک اٹھتی ہے اور اس سے دماغ کی طرف گرم تر بخارات صعود کرتے ہیں اور اس سے سرد درد اور رگوں کا پھیلنا اور گرمی کا جوش اور بدن کا ٹوٹنا اور حواس کی کندی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ عوارض کنپٹیوں کے ہما دار اور سرکہ اور ترش انار کے کھانے پینے اور قابض ترش اشیاء کے کھانے سے دفع کئے جائیں تو طبیعت اعتدال کی طرف راجع ہو جاتی ہے۔ اور اگر سستی کی جاوے اور اشیا گرم تر کثرت سے استعمال کی جاویں تو بڑے خطرناک امراض مثل جوش خون اور آنکھوں کی سرخی اور آشوب چشم اور پھوڑے پھنسی اور نرم اور ام پیدا ہو جاتے ہیں اور اس وقت فصد و حجامت وغیرہ خون نکلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔

## بلغم کی زیادتی

جب انسان بلغم اقرا اور اشیاء مثل دودھ- ترمیو کے اور ہر ایک سرد تر چیز کھانے کی کثرت کرتا ہے تو طبیعت سرد تر بخارات کو دماغ کی طرف اٹھاتی ہے اور اس سے جسم میں سستی اعضا شکنی اور حواس کا بھاری ہونا پیدا ہو جاتا ہے جس سے امراض بلغمی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان عوارض کو شہد، زنجبیل، فلفل۔ اور ہر ایک گرم خشک چیز سے اعتدال پر لایا جاوے۔ تو بدن میں صحت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ خلط زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور امراض مزمنہ (دیر سے اچھا ہونے والی) مثل برص، فالج، سکتہ، حمی مطبقہ وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر معدہ کی حرارت عظیم سے دماغ اور تمام بدن کی طرف اس کا برا اثر پھینکا شروع ہوتا ہے جن کا نتیجہ یا خلاصی ہوتی ہے۔ یا ہلاکت اور اکثر اسی غفلت سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پس انسان کو چاہیے کہ جہاں بلغمی مرض پیدا ہو۔ تو بلغم نکلانے والی ادویہ کا استعمال کرے جنکو ہم آئندہ بیان کریں گے۔

## خلط سودا کی زیادتی

جب انسان سودا بڑھانے والی اغذیہ مثل، مسور، گائے کا گوشت، بیگن وغیرہ سرد خشک کثرت سے استعمال کرتا ہے تو امراض سوداویہ اس پر غلبہ کرتے ہیں۔ اور بدن میں سستی اور پیاس کی کثرت اور زیندگی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس حالت میں ماد العسل سے طبیعت کو معتدل کرنا چاہیے۔ جس کی ترکیب یہ ہے کہ شہد سے اس کی جھاگ دور کی جاوے۔ اور ہر آدھے پیر میں ایک درم زنجبیل، اور ایک درم فلفل اور ایک درم مصطکی کوٹ کر ملاوی جاوے۔ اور گائے کے دودھ سے جس میں بیٹھا پڑا ہوا ہو پیا جاوے۔ اگر عوارض سوداویہ سے سستی کی جاوے تو اس سے امراض خطرناک مزمنہ عیسۃ البر، مثل جذام، خارش، فالج، سکتہ، دق، ہل، حمی۔ ربح وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس حالت میں ادویہ دافع سودا استعمال کیا جاوے۔ جس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے۔

## شرائط طبیب

طبیب ماہر و حکیم حاذق کا یہ فرض نہیں ہے کہ بیمار کو ضرور سہی اچھا کر دے چہ جائیکہ اس کی عمر کو بڑھا سکے۔ لیکن بیماری کے تمام حالات کو فوراً سے دیکھنا اور مریض کے عادات و حالات پر غور کرنا اس کا فرض عین ہے۔ جب مرض کا سبب یقینی طور سے معلوم ہو جاتے تو علاج شروع کرے۔ اور اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کرے اگرچہ آرام و عافیت اللہ تعالیٰ کے ارادہ پر موقوف ہے اور اگر سبب مرض مریض پر غالب آچکا ہے۔ اور ہلاکت کا وجود کئی وجوہ سے کافی معلوم ہوتا ہو تو اس کے علاج سے دست بردار ہو جاوے اور ہلاکت کے بڑے اسباب تین ہوتے ہیں۔ ایک سبب اتفاقی ناگہانی جیسے قتل یا مکان کا گر پڑنا۔ یا جل جانا یا ڈوب جانا وغیرہ اور اس وقت ہلاکت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح ایسے واقعہ کے وقت سارے کا سارا دل کی طرف جمع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس سے دفعتاً نکلنا چاہتا ہے۔ جو ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

**دوسرا سبب** | اخلاط اربعہ کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی خلط اپنی ضد پر غالب آجاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ

بھی اس کے ہلاک کرنے کا ہوتا ہے۔ تو رطوبتِ اصلیہ فنا ہو جاتی ہے اور ضرورتِ عزیز یہ منطفی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ تکلیف بدرجہ کمال پہنچ جاتی ہے۔ اور روح جسم سے نکل جاتی ہے۔

**تیسرا سبب** | موتِ طبعی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے احوال اربعہ منقضی ہو جاتے ہیں بچپن میں انسان کی طبیعت گرم تر ہوتی ہے۔ جو بلوغت

تک بڑھتی رہتی ہے۔ اور یہ بلوغت پندرہ سال سے شروع ہو کر بیس پر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد طبیعت پر گرمی خشکی غالب ہوتی ہے اور یہ جوانی کا زمانہ ہے جو بیس سے شروع ہو کر چالیس پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد طبیعت پر مائیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اور قوت گھٹتی شروع ہوتی ہے۔ اور طبیعت سرد تر ہو جاتی ہے اور یہ زمانہ کہوت کا ہے جو چالیس سے شروع ہو کر سترائسی سال پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد طبیعت

پر سردی خشکی غالب ہوتی ہے۔ اور حیاتی کی طبیعت بر باعث ضعف طبیعت کے گھٹتی جاتی ہے۔ اور یہ زمانہ شیخوخت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس میں رطوبتِ اصلیہ اور حرارتِ عزیزہ گھٹتی جاتی ہے یہاں تک کہ فنا آجاتی ہے۔ اور یہ زمانہ اسی سال سے لے کر اکثر سو تک اور نادر ایک سو بیس تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں ہوتا ہے ظہور میں آتا ہے۔

## باب ثانی طبائع کے بیان میں ورائے میں تین فصل ہیں

### فصل اول اغذیہ کے طبائع کے بیان میں

غذا وہ کھانے پینے کی چیز ہے۔ جو جزو بدن بن سکے اور جس سے بدن کا قوام ہو۔ ان میں سے ہم صرف کثیر الاستعمال اغذیہ کا ذکر کریں گے۔  
گندم۔ گرم وزرا اور ثقیل و ملین ہے۔ اس کے ستوشکر کے ساتھ سینہ کو نرم کرتے ہیں۔ دماغ و آنکھ کے جوہر کو بڑھاتے ہیں۔ معدہ کو تقویت دیتے ہیں۔ اعضاء ضعیفہ کو طاقت دیتے ہیں۔ گندم کی فطیری روٹی ثقیل ہوتی ہے۔ اور خمیری معتدل۔  
چاول۔ سرد خشک و معتدل ہوتے ہیں۔ کسی قدر خفیف و لطیف ہوتے ہیں۔ جب دودھ اور چوزہ کے گوشت کے ساتھ پکائے جائیں اور شہد و شکر دہلی کے ساتھ کھائے جائیں تو ان سے غذا جلد پیدا ہوتی ہے۔ اور جب ترش دودھ کے ساتھ جس سے مکھن نکالا گیا ہو پکائے جائیں تو اطلاقِ بطن (اسہال) کو روکتے ہیں۔

جواری، سرد خشک معتدل ملین خفیف سریع الہضم ہے اور اس کے ستوشکر کے ساتھ اکثر امراض کا قلع و قمع کر دیتے ہیں اور حرارت و سوزش اور پیٹ کی جلن کو بھادیتی ہے۔ اس کی روٹی جب گائے کے دودھ اور شکر کے ساتھ کھائی جائے تو ہضم قوی ہو جاتا ہے اور غذا جلد پیدا ہوتی ہے۔

جو۔ سرد خشک قابض کسی قدر ثقیل معدہ ہیں۔ اس کے ستو اسہال کو روکتے ہیں جب کوٹ کر پکا کر اس کا شیرہ شکر کے ساتھ پیا جائے تو پیٹ کی حرارت و سوزش کو فرو کرتے ہیں

اس کی روٹی ثقیل ہوتی ہے اگر شہد اور شکر و چوزوں کے شوز بہ سے کھائی جاوے تو اس کا نقصان دفع ہو جاتا ہے۔

**باجرہ** - گرم خشک معدے کے لیے ثقیل بطنی المہضم ہے۔ امراض سوداویہ کو ترقی دیتا ہے۔ اس کا کھانا سوائے محنت مزدوری کرنے والوں کے دوسرے کے لیے مناسب نہیں۔ اگر تازہ دودھ شکر تری و چوزہ کے شوز بہ اور روغن زرد کے ساتھ کھائی جاوے تو معتدل ہو جاتی ہے بھونا ہوا باجرہ اسہال کو روکتا ہے۔

**مسور** - سرد خشک ہے۔ معدہ پر ثقیل ہے۔ اس کے ستوا سہال کو روکتے ہیں۔  
**لوبیا** - اس کا دانہ سرد خشک روی کیفیت۔ ثقیل ہوتا ہے۔ اور سودا کو زیادہ کرتا ہے اس کا شوربا گرم تر خفیف ہوتا ہے اور جب روغن زرد اور شکر تری کے ساتھ پیا جائے تو سینے اور عروق اور اعضا کی پوست کو دور کرتا ہے۔

**پنبہ وانہ** - گرم خشک ہلکا ہے۔ جب اور گھی کے ساتھ پکا یا جاوے تو گرم تر ہو جاتا ہے اور سینے اور رگوں کو نرم کرتا ہے۔

**باقلا** - سرد خشک ثقیل، ردی ہوتا ہے اور اکثر مقشر کر کے شکر تری کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے تو اس کا ضرر دور ہو جاتا ہے۔

**چنا** - گرم تر۔ جب شکر تری کے ساتھ کھایا جاوے تو سنگریوں کو توڑتا ہے اور باہ کو بڑھاتا ہے۔

**اخروٹ** - گرم تر۔ چرب، جب شکر تری کے ساتھ کھایا جاوے تو جوہر دماغ اور قوت بصارت کو بڑھاتا ہے اور باہ کو طاقت دیتا ہے اور غذا جدید پیدا کرتا ہے۔

**بادام** - گرم تر۔ چرب۔ زیادہ کھانے سے غیشانہ (جی متلانا) پیدا کرتا ہے اور معدے کو ڈھیدا اور ضعیف کرتا ہے اور شہوتِ طعام کو کم کرتا ہے۔ اس کی اصلاح اس طرح پر ہے کہ تھوڑی مقدار میں شکر تری کے ساتھ کھایا جاوے۔

**دودھ** - سب سے افضل دودھ چار پائوں کا دودھ ہے۔ اور ہر ایک دودھ میں تین جوہر ہوتے ہیں۔ ایک جوہر مائی، دوسرا جوہر جینی۔ ہر ریشک اور قابض ہوتا ہے۔ تیسرا جوہر

زیدی، جو گرم تر اور ملین ہوتا ہے۔

**گائے کا دودھ:** یہ سب دودھ سے افضل ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گائے کا دودھ پی کر و۔ کہ اس کے دودھ میں شفا ہے۔ اور اس کا گھی دوا ہے۔ اور اس کا گوشت بیماری ہے۔ گائے کا دودھ جب تھنوں کے نیچے سے گرا گرم شکر تری کے ساتھ پیا جائے تو بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اور رنگ کو صاف کرتا ہے اور باہ کو بڑھاتا ہے اور طبیعت کو نرم کرتا ہے اور اعضائے ضعیفہ کی قوت کو بڑھاتا ہے اور جب صاف کیا جاوے تو سرد تر اور ثقیل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی اصلاح اس طرح ہے کہ آگ پر پڑھایا جائے یہاں تک کہ اس کی ماہیت دور ہو جائے اور پھر استعمال کیا جائے۔

**کھٹا دودھ:** جمہور سرد تر ہو جاتا ہے۔ جو حرارت کو فائدہ دیتا ہے اور سینے کے جلن کو تسکین بخشتا ہے اور اسہال کو بند کرتا ہے۔

**کھٹی لسی کا پانی:** سرد خشک قابض ہوتا ہے۔ اگر اس پانی میں جوار پکا کر گرم گرم کھاٹا جائے تو سفید دستوں کو روکتی ہے۔

**بھیر کا دودھ:** گرم تر خفیف ملین ہوتا ہے۔ اس کا گھی اور گوشت بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ البتہ گائے کے دودھ میں چربی زیادہ ہوتی ہے۔ اور خشکی کے لیے گائے کا دودھ زیادہ مفید ہوتا ہے۔

**بکری کا دودھ:** سرد خفیف ہوتا ہے۔ اگر تھنوں کے نیچے سے پیا جائے تو بیماریوں اور تشدد دستوں پر دو کو فائدہ دیتا ہے اور ہر قسم کے بدن کے لیے مفید صحت ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہالیوں استعمال کی جائے تو پیٹ کا رنج کو خارج کرتا ہے اور معدہ کو طاقت دیتا ہے۔

**اونٹنی کا دودھ:** گرم خشک جب مع بول پیا جائے تو وہ بازوہ کے پیٹ سے ویا کو نکال دیتا ہے اور کھٹا دودھ سرد خشک ثقیل اور قابض ہوتا ہے۔ اگر آگ پر گرم کیا جائے تو خفیف ہو جاتا ہے اور اسہال کو روکتا ہے۔

**پنیر:** سرد خشک قابض اسہال کو بند کرتا ہے (کھن) گرم تر ملین ہے جب

شکر تزی کے ساتھ ملا یا جائے اور اس پر گائے کا دودھ دوہا جائے تو جو ہر دماغ و قوت بھارت کو بڑھاتا ہے اور خشک طبیعت کو نرم کرتا ہے اور خارش کو دور کرتا ہے۔ اور پیٹ کی بیرونی عرادہ کو قطع کرتا ہے اور تمام امراض سوداویہ کو سفید ہے۔

روغن زرد۔ گرم تر ہے۔ بہ نسبت مکھن کے گرم و خشک ہے۔ اگر اس میں اس کے مساوی پانی شامل کر کے آگ پر پکایا جاوے یہاں تک کہ پانی خشک ہو جائے تو مکھن سے زیادہ مفید ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اغذیہ و ادویہ سے زیادہ مفید ہے۔

## گوشت کا بیان

یک سالہ دینے کا گوشت عروق مفاصل و اعضا کو طین کرتا ہے۔ قوت بڑھاتا ہے گوشت پیدا کرتا ہے۔

بکری کا گوشت۔ بھیر کے گوشت سے اس کا گوشت سرد تر ہے۔ بدن کو مضبوط کرتا ہے۔ گوشت پیدا کرتا ہے موسم گرما میں اس کا کھانا مفید و مناسب ہے۔

گائے کا گوشت۔ یہ بہت بھیرے گوشت کے سرد خشک ثقیل ردی ہے۔ امراض سوداویہ کو بھڑکاتا ہے۔ اصلاح اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہسن، فلفل، زنجبیل وغیرہ تیز گرم مصالحہ کے ساتھ استعمال کیا جاوے اور اس کا شور بہ شہد کے ساتھ پیا جاوے۔

اونٹ کا گوشت۔ بمقابلہ بھیرے گوشت کے سرد خشک ثقیل ردی ہے اور ہرن خرگوش۔ بارہ سنگا۔ وغیرہ شکاری جانوروں کا گوشت باقی انعام (چار پا پیہ) کے گوشت سے سرد خشک ہے پرندوں کا گوشت انعام وغیرہ چار پا پیوں کے گوشت سے سبک ہوتا ہے اور چوزوں۔ تیتروں، بیروں کا گوشت گرم تر خفیف معتدل ہوتا ہے۔ مچھلی گوشت سرد تر ہے تازہ مچھلی عمدہ ہوتی ہے۔ جب روغن زرد پیاز مصالح گرم سے پکائی جاوے تو معتدل ہو جاتی ہے اور قوت باہ کو بڑھاتی ہے۔ نمکین مچھلی بہ نسبت تازہ مچھلی کے گرم ہوتی ہے۔

انڈے۔ انڈے کی سفیدی سرد تر ہوتی ہے اور زردی گرم تر اور صر زردی کا کھانا مناسب ہے۔ کیوں کہ سفیدی ردی ہوتی ہے اور حسیب زردی روغن زرد کے ساتھ پکائی



جاوے اور مہری یا شکر تری سے استعمال کی جاوے تو منی اور جوہر دماغ قوت بصارت کو بڑھاتی ہے۔

میوے اور حلوے۔ سب سے عمدہ اور میٹھی چیز وہ فالودہ ہے جس میں شہد اور شکر ڈالی ہو یہ عقل، جوہر دماغ، قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ اور مفاصل اور اعضاء کو قوت دیتا ہے اور یہ کھانے کے بعد کھانا چاہیے۔ کیوں کہ اگر تیار کھایا جاوے گا تو آلات ہضم کپنے سے پہلے ہی جگر کی اشتیاق کے باعث جلدی سے جذب کریں گے اور اس سے غذا کے رتوں کو سدہ پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ پس شہد دار فالودہ اور ادھیڑوں اور پورھوں کے واسطے مناسب ہے اور شکر دار جوانوں کے لیے اور بچوں کے واسطے میٹھی چیزوں کا استعمال ہفتہ میں ایک دو دفعہ حد میں دفعہ ہونا چاہیے۔ اور وہ بھی تھوڑا سا۔ جو شکر تری سے بنایا گیا ہو۔ نہ کہ شہد سے۔

شکر سرخ۔ گرم تر، خفیف ہوتی ہے اور قصبہ سیر ہو کی نالی کو صاف رکھتی ہے جو اس کو درست رکھتی ہے۔ سینہ کو ملین رکھتی ہے کھانسی کو فائدہ دیتی ہے۔  
رگنا، یہ بھی تاثیر میں شکر سرخ کی مانند ہے۔ مگر اس سے حرارت میں کم ہے اگر پھل کر گرم پانی سے دھویا جاوے اور اس کا پانی پھوٹا جاوے تو تاثیر میں شکر سرخ کے مساوی ہو جاتا ہے اور تلبین میں پڑھ جاتا ہے۔

انگور: عمدہ انگور وہ ہے جو میٹھا اور زیادہ گودہ والا ہو۔ اور یہ گرم تر چرب دار ہے قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ اعضاء کو طاقت دیتا ہے۔ گوشت پیدا کرتا ہے اور عمدہ غذا بناتا ہے۔  
منقے۔ گرم تر ملین ہوتا ہے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے۔ تھکان کو دور کرتا ہے خوشبودار ہوتا ہے۔ معدہ کو طاقت دیتا ہے۔ اس کی گٹھلی سرد خشک اور قابض ہوتی ہے۔  
کھجور۔ گرم تر خفیف ہوتی ہے۔ اعضاء کو طاقت دیتی ہے۔ گوشت پیدا کرتی ہے۔  
بن کو موٹا کرتی ہے۔ باہ کو بڑھاتی ہے۔ غذا صالح پیدا کرتی ہے۔

چھوہارا۔ گرم خشک خفیف ہوتا ہے۔ رطوبت بلغم کو قطع کرتا ہے۔ معدہ کو طاقت دیتا ہے شکم کے کیڑوں کو قتل کرتا ہے۔ لیکن کسی قدر نفاخ ہے۔ اس کی اصلاح اس طرح پر

ہوتی ہے۔ کہ گکڑی یعنی تڑکے ساتھ کھایا جاوے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوہارے کو گکڑی کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی سردی اس کی گرمی کو معتدل کر دیتی ہے۔ اور اس کی گرمی اس کی سردی کو معتدل کر دیتی ہے۔

کیلا۔ گرمی کے موسم میں گرم تر خفیف ہوتا ہے سینہ کو ملین کرتا ہے اور عمدہ غذا پیدا کرتا ہے۔ اور سردی میں سرد تر اور ثقیل ہوتا ہے۔ اس کی اصلاح یہ ہے کہ شہد کے ساتھ استعمال کیا جاوے اور اس کو کھانے کے پہلے یا اس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے نہ غذا کے بعد کیوں کہ ثقیل ہو جاتا ہے۔

میٹھا انار۔ گرم تر ہوتا ہے۔ سینہ کی تلبین اور اس کی اصلاح کرتا ہے۔ دل کو خوش کرتا ہے۔ تندرست اور مریض ہر دو کے لیے مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کے ہر ایک انار میں جنت کا دانہ ہوتا ہے۔ اس پر مناسب ہے کہ سارا کھایا جاوے تاکہ اس مرض سے جو پیٹ میں پوشیدہ ہو۔ شفا ہو جاوے۔

ترش انار: سرد خشک، قابض خفیف ہوتا ہے۔ اگر اس کا پانی خلو معدہ میں شکر تری کے ساتھ پیاجاوے تو بخار کو دور کرتا ہے۔ اور جب کھٹا انار جمع چھلکا اور گودہ کے چوڑ کر پیاجاوے تو مسترخی معدہ کو طاقت دیتا ہے۔ اور معدہ کی درد کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر خشک انار یعنی نیپال) جلا کر سرسہ کی مانند بنا کر خبیث زخموں پر جو علاج ہو چکے ہوں۔ دھوٹا جاوے تو اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔

بہی۔ سرد خشک قابض خفیف ہے۔ طبیعت کو خوش کرتا ہے اور دل کی اصلاح کرتا ہے اور اسپاں کو روکتا ہے۔

ارو۔ سرد تر معدہ پر ثقیل ہوتا ہے۔ بلغم کو بڑھاتا ہے۔ جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ سکڑی۔ یعنی تڑ۔ سرد تر، معدہ پر ثقیل۔ جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ اس کی اصلاح یہ ہے کہ چھوہارے کے ساتھ استعمال کیا جاوے۔

خریزہ۔ گرم تر بطنی ہضم۔ اگر اس پر کھانا کھایا جاوے۔ تو اس کو خراب کر دیتا ہے اور طعام پر تیز تارتا ہے اور جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ جب شکر تری کے ساتھ استعمال کیا جاوے

تو معدہ کی حرارت کو بھجاتا ہے۔

مولیٰ۔ سرد تر، ثقیل، ہضم کرنے والی، رومی۔ معدہ پر ثقیل۔ باقی میوجات سارے کے سارے سرد ہیں لیکن ان میں سے بہ نسبت بعض کے خفیف ہیں۔ جب کوئی شخص میوسے یا سبز ترکاری کھائے تو اس پر پانی نہیں پینا چاہیے۔ ورنہ امراض رویہ کا سبب ہو جائیگی۔ اور بجائے نفع کے نقصان دیں گے۔

## فصل ادویہ کے بیان میں

دوائی وہ چیز ہوتی ہے جس سے مرض کا علاج کیا جاوے اور ہم ان میں سے وہ ادویہ جو شیر المنافع اور اس مختصر رسالہ کے مناسب ہیں اور سہل الحصول اور مجرب ہیں۔ ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب دواؤں کی سردار ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ **شہد** شِفَاءٌ لِلنَّاسِ یعنی اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو شفاؤں یعنی قرآن اور شہد کو لازم پکڑو اور نیز فرمایا ہے کہ سنا اور شہد کو لازم پکڑو۔ کہ دونوں موت کے سوا ہر ایک بیماری کے دور کرنے والی ہے اور یہ گرم خشک ہے۔ پلغم کو دور کرتا ہے اور جسم کی رطوبت رویہ کو دور کرتا ہے۔ اور فاسد زخموں کو صاف کرتا ہے اور جب اس کی جھاگ دور کی جاوے تو گرم تر ہو جاتا ہے اور امراض سوداویہ کو قطع کرتا ہے اور عروق میں ٹھس جاتا ہے۔ اور تمام بیماریوں کے مادہ فاسدہ کو صاف کرتا ہے اس میں نمک ملا کر اگر ایسے نیچے کی زبان کے نیچے جو جلدی نہیں ہوں سکتا۔ ملا جاوے تو اس کی زبان کھل جاتی ہے اور فصاحت بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک غریب حدیث میں ہے جو شخص مر جائے اور اس کے جسم میں کچھ بھی شہد ہو تو اس کو آگ نہیں لگے گی۔

ہم اس کی طبیعت اور اس کے منافع کو دودھ کے ذکر میں انذیبہ کے باب میں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں بطور ادویہ کے بیان کرتے ہیں۔ جب کہ ہم کو **گھی** حدیث صحیح سے معلوم ہوا ہے کہ اسے بوگو! گائے کے دودھ کو لازم پکڑو کہ اس کے دودھ میں شفا ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ اہل عرب گھی

سے زیادہ کسی چیز کو بطور دوا استعمال نہیں کرتے یہ گرم تر معدہ پر ثقیل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہضم ہو جائے تو سب چیزوں سے زیادہ مفید ہے اور امراض سوداویہ میں بہت مفید پڑتا ہے۔ اور یہ تمام چربہ چیزوں سے زیادہ چرب ہے اور جب مریضوں میں داخل کیا جاوے تو فاسد گوشت کو دور کرتا ہے اور صالح گوشت پیدا کرتا ہے۔

**لسن** یعنی تھوم بقراط حکیم نے فرمایا ہے کہ یہ تمام زہروں کی تریاق ہے۔ گرم خشک اور تیز ہے۔ جب شہد کے ساتھ خالی معدے استعمال کیا جاوے تو بلغم اور طوہات فاسدہ کو قطع کرتا ہے اور معدہ کو طاقت دیتا ہے۔ اور پیٹ کے کپڑوں کو قتل کرتا ہے اور بواسیر کو دور کرتا ہے اور منہ کی خوشبو بڑھاتا ہے۔ اور جھمی ہوئی ریح کو تحلیل کرتا ہے۔ اور اس کے استعمال کرنے والے کو زہر نقصان نہیں دیتا اور جب نمک طعام کے ساتھ پیا جائے اور بواسیر پھٹا دیا جاوے تو ان کو تحلیل کر دیتا ہے اور کاٹ دیتا ہے۔ اگر سانپ اوز بچھو اور کتے کے ڈنگ اور ہر ایک زہریلے جانور کے ڈنگ پر ضا د کیا جاوے تو درد اسی وقت ٹھہر جاتا ہے۔

**کلونجی** رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلونجی کو لازم پکڑو کہ موت کے سوا اس میں تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی معدہ پر شہد میں کلونجی ملا کر چاٹا کرتے تھے۔ یہ گرم خشک ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ گرم تر ہے۔ جب خالی معدہ صاف شدہ شہد کے ساتھ استعمال کیا جاوے تو بلغم اور طوہات فاسدہ کو قطع کرتی ہے اور پیٹ کی منجھرتی کو تحلیل کرتی ہے اور پٹھیکہ کے درد اور جوڑوں کے درد کو آرام دیتی ہے۔ اور جسم میں بیماریوں کو پیدا کرنے سے روکتی ہے۔

**مصبر** یعنی ایلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مصبر اور ہالیوں میں شفا ہے۔ مصبر طوبت میں معتدل ہے اور بہ مریضوں اور دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے جب معجونوں اور سفوفات میں شامل کیا جاوے تو پیٹ کی تمام بیماریوں کو آرام دیتا ہے۔ اور فاسد زخموں اور جراحتوں کو صاف کرتا ہے اور پیٹ کی ریح کو خارج کرتا ہے۔ اگر ہر روز ایک درم کھایا جاوے تو پیٹ کی تمام بیماریوں کو دفع کرتا ہے۔ اور خبیث ناروا کو

قطع کرتا ہے۔ اور پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔

یہ گرم خشک ہے۔ بعضوں کے نزدیک گرم تر اور ضعیف ہے۔ زنج کو خارج کرتی ہے۔ بلغم کو قطع کرتی ہے۔ اگر خالی معدہ پھانکی جائے تو دستوں کو روکتی ہے۔ **لابیوں** معدہ کو طاقت دیتی ہے اگر پیس کر پانی اور صاف شہد کے ساتھ چٹنی بنا کر استعمال کی جائے تو طبیعت کو نرم کرتی ہے اور پیٹ کے کیڑوں اور کدو دانہ کو خارج کرتی ہے اور بخار کو قطع کرتی ہے اور مقدار شربت خوراک ۳ درم ہے۔

گرم خشک ضعیف تیز ہے۔ بلغم کو قطع کرتی ہے۔ رطوباتِ فاسدہ کو زائل کرتی ہے اور لیسار سردوں کو کھوتی ہے۔ پیس لگاتی ہے جب معجزوں اور سفوف میں شامل کی جاتی ہے۔ اور ان کا نفع زیادہ ہو جاتا ہے۔ **فلقل**

گرم خشک ضعیف محلل ادرام ہے اور ریح کو خارج کرتی ہے اور جب شہد کے ساتھ اس کا مرہ بڑا لاجائے تو بلغم کو قطع کرتی ہے۔ کھانسی کو دور کرتا ہے۔ سینہ کو نرم کرتا ہے اور انسان کا سہاکی نالی کو صاف کرتا ہے اور آواز کو اچھا کرتا ہے منہ کی خوشبو کو بڑھاتا ہے اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ **زنجبیل**

سرد خشک قابض ہے۔ فروح اور جروح کو تسکین دیتا ہے اور ان کی رطوباتِ فاسدہ کو قطع کرتا ہے۔ خصوصاً جب گھی، مصبر اس کے ساتھ ملایا جاوے تو صالح گوشت پیدا کرتا ہے اور فاسد گوشت کو کھا جاتا ہے۔ **مردہ سنگ**

سرد خشک قابض، زخموں کے خون کو قطع کرتا ہے۔ اور نکسیر کو فی الفور بند کرتا ہے اور بدن کے خون کے جوش کو قطع کرتا ہے اور دہوی بیماریوں کو قطع کرتا ہے۔ **سمرکہ**

جب لسی کا پانی اور سمرکہ جوش دے کر گرم پئے جاوے تو اسہال کو روکتے ہیں اور جب گھی کی جھاگ میں ملا کر آگ سے جلی ہوئی جگہ پر لگایا جاوے تو فی الفور درد کو روکتا ہے اور دم کو تخفیف کرتی ہے اور جب افیون کے ساتھ کنپٹیوں پر ضا د کیا جاوے تو فی الفور سرد درد کو تسکین دیتا ہے اور جب مریموں میں ڈالا جاوے تو فاسد زخموں کو صاف کرتا ہے اور طحال کی بڑھائی کو دور کرتا ہے اور گرمی کے موسم میں اس کا استعمال کرنا معدہ کو طاقت دیتا ہے۔

اور جب سالن میں ڈالا جاوے تو ہر بیماری سے امن دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سالنوں کا سردار سرکہ ہے اور اس میں بہت سے فائدے ہیں۔

**میتھی** | گرم تریب روغن زرد کے ساتھ پکا کر استعمال کی جاوے تو عروق کے خشک مفاصل کو نرم کرتی ہے۔ اور عسر البول کو فائدہ دیتی ہے۔ اور تھیری کو توڑتی ہے اور ایک غریب حدیث بھی ہے اگر لوگ میتھی کے فائدے جانتے تو اس کو سونے کے وزن سے خریدتے اور اس کے پکانے کی ترکیب یہ ہے۔ کہ پیسے آگ پر پکائی جائے اور پانی گرایا جاوے اسی طرح سات دفعہ یہ عمل کیا جاوے پھر نہایت باریک رگڑی جاوے اور گھی کے ساتھ ملائی جاوے، پھر نرم آگ پر رکھی جائے اور اس میں ہالیوں اور سیٹھا ڈالا جاوے پھر اچھی طرح ملا کر نیچے اتار کر استعمال کی جائے۔

**مصطکی** | گرم خشک قابض ہے۔ کمزور معدے کو طاقت دیتی ہے۔ شہوت طعام کو بڑھاتی ہے اور بلغم قطع کرتی ہے اور منہ کی خوشبو کو بڑھاتی ہے ان شرطوں کو صاف کرتی ہے۔ اور رطوبات فاسدہ کو پاک کرتی ہے۔

**کندر** | یوبان زکو کہتے ہیں اور یہ گرم خشک بلغم کا قاطع ہوتا ہے۔ کھانسی کو مفید ہے دل کو طاقت بخشتا ہے۔ فہم کو تیز کرتا ہے۔

**لونگ** | گرم خشک تیز۔ خفیف لطیف ہوا کے خارج کرنے والا ہوتا ہے۔ معدے کو طاقت دیتا ہے۔ غثیان کو دور کرتا ہے۔ بلغم کو قطع کرتا ہے منہ کی خوشبو کو بڑھاتا ہے۔

**بنولہ** | سرد تر ہوتا ہے۔ جب ٹھنڈے پانی میں مہری میں تقووع کر کے عرق کلاب کے ساتھ پیاجاوے تو درد کو تسکین دیتا ہے اور ورم کو ہلکا کرتا ہے۔

**نمک طعام** | اگر یہ اجسام کی رطوبت فاسدہ کو دفع نہ کرتا رہتا تو جسم بگڑ جاتے یہ گرم خشک لطیف خفیف ہوتا ہے۔ اگر گرم پھکیوں میں داخل کیا جائے

تو معدہ کو طاقت دیتا ہے اور بلغم کو قطع کرتا ہے۔ رطوبات فاسدہ کو خشک کرتا ہے اور ہوا کو تحلیل کرتا ہے۔ اگر پانی میں حل کر کے پیاجائے تو صفراء اور بلغم اور سودا کو خارج کرتا ہے۔

## مفرد مسہلات کے بیان میں

**ہلیہ زرد** سرد خشک، معتدل بلین صفرا کو خارج کرتا ہے۔ مقدار خوراک قوی کیلئے پانچ درم اور ضعیف کے لیے تین درم سفوف کر کے مصری اور شہد سے گوندھ کر خالی معدے استعمال کرنی چاہئے۔ نہایت مفید و مجرب ہے۔

**ہلیہ کابلی** سرد خشک بعض کے نزدیک گرم خشک بلین معتدل۔ نسبت ہلیہ زرد کے اچھی ہوتی ہے۔ بلغم کو خارج کرتی ہے۔ مقدار خوراک قوی کے لیے پانچ درم اور ضعیف کے لیے تین درم باریک کوٹ کر نہا استعمال کرنی چاہئے۔ سفوفات اور معاجین میں داخل کی جاتی ہے۔ اس حالت میں اس کا نفع زیادہ ہو جاتا ہے اور پیٹ کی پوشیدہ بیماریوں کو مفید پڑتی ہے۔

**سنا** گرم خشک معتدل بلین صفرا۔ سودا۔ اور بلغم کو خارج کرتی ہے۔ مقدار خوراک قوی کے لیے پانچ درم ضعیف کے لیے تین درم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سنا اور شہد کو لازم پکڑو کہ اس میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔

## مرکب مسہلات کے بیان میں

ترسندی سرخ رنگ ریشوں اور گھٹلی سے صاف تین اوقیہ۔ شکر مرخ یا سفید تین اوقیہ برگ تناکمی پانچ درم۔ ہلیہ زرد اسہال صفرا کے واسطے ہلیہ کابلی بلغم کے لیے ہلیہ سیاہ سودا کے لیے یہ خوراک قوی کے لیے ہے۔ اگر مریض کمزور ہو تو سنا اور ہلیہ تین تین درم ڈالنا چاہئے یہ سب ادویہ ایک برتن میں ڈال دیں اور تین پادو نچتہ پانی ڈال کر نرم آرنج پر پکائیں جب ایک تہائی رہ جائے تو چھان کر استعمال کریں اس سے خوب اسہال ہوں گے خوبی اسہال کی علامت یہ ہے کہ سخت پائیں لگے اس وقت تیش دودھ یا دہی سے اس کو بند کر دینا چاہئے اس کے بعد چوزوں کا غونزبا پینا چاہئے گندم کی خمیری روٹی اس شوربا کے ساتھ کھانا تمام مسہلات کے واسطے مفید ہے۔

## صفراء سودا، خون اور بلغم کا علاج

اس باب میں چار اصول بیان کئے جائیں گے جو نہایت ہی محرب اور مفید ہیں جاننا چاہیئے کہ تمام مسہلات اور استفرغات کی مثال بدن کے لیے ایسی ہے۔ جیسے کپڑے کے لیے صابون جس طرح صابون کی کثرت کپڑے کو تلف کر دیتی ہے۔ اسی طرح مسہلات کی کثرت بدن کو کمزور کر دیتی ہے۔ چوں کہ اکثر مسہلات زیر قاتل کی اقسام میں سے ہوتے ہیں بشرطیکہ استعمال کا اندازہ معلوم نہ ہو اور بعض مسہلات اخلاط رومیہ کو بھرہ کا دیتی ہے اور اس سے خوفناک بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس واسطے زیادہ استفرغات ترک کرنا اچھا ہوتا ہے۔ سوا اشد ضرورت کے مسہلاتِ قویہ کا استعمال مناسب نہیں اور ضرورت کے وقت بمقدار ضرورت ان استفرغات میں سے جنکا ہم اس مختصر سالہ میں بیان کرتے ہیں استعمال کرنا مفید ہوگا۔ اور اکثر اخلاط رومیہ کے اخراج کے واسطے نافع ہوگا۔

## امراض صفراء کا علاج

پہلا نسخہ جو تمام امراض صفراء و پیک کے لیے مفید ہے مارا لجن ایک رطل نم ہندی پانچ درم مارا لجن میں مل کر شکر تری سے میٹھا کر کے نہایت دن یا سات دن استعمال کرنا چاہیئے اور غذا گائے کے دودھ میں جوار کی روٹی ڈال کر میٹھا کر کے استعمال کرنا چاہیئے اور اس کے علاوہ سب چیز سے پرہیز کرنا چاہیئے اگر آرام ہو جائے تو قبہا ورنہ سات روز کے بعد مسہل صفراء استعمال کرنا چاہیئے جس کی ترکیب یہ ہے۔ سا کوٹی ہوئی دودھ ہللیہ زرد کو فتر پانچ درم دونوں کی پھکی بنا کر شہد کے ساتھ نہار کے وقت استعمال کرنا چاہیئے۔ اس سے خوب اسہال ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہی پہلا نسخہ استعمال کرنا چاہیئے۔



## امراضِ دمویہ کا علاج

تیز سرکہ مقدار ضرورت ہر روز نہار کے وقت استعمال کیا جاوے۔ یہ نسخہ تین دن یا سات دن استعمال کرنا چاہیے اور غذا میں مزورات میں سرکہ یا ترش انار ڈالنا چاہیے اور اس کے سوا ہر چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر اچھا ہو جائے تو فہما ورنہ حجامت یا فصد کروانا چاہیے اور اس کے بعد وہی پہلا نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔

## بلغمی امراض کا علاج

تمام امراضِ بلغمی کے قطع کرنے کے لیے یہ نسخہ مفید ہے۔ بسن مقشر بمقدار ضرورت خوب باریک پیس کر شہد میں ملا کر ہر روز نہار کے وقت بمقدار دو اوقیہ استعمال کرنا چاہیے یہ علاج تین دن یا سات دن کریں اور غذا صاف گندم کی روٹی دبنے کے گوشت کے ساتھ جس میں تیز گرم مصالح پڑے ہوئے ہوں ہونی چاہیے۔ اگر اس سے فائدہ ہو جاوے تو فہما ورنہ سہل بلغم جس کی ترکیب یہ ہے۔ کام میں لاویں۔ سنا کو فتنہ دو درم، ہلیہ کا بلی کو فتنہ پانچ درم صرف دونوں ملا کر نہار کے وقت شہد کے ساتھ استعمال کریں خوب اسہال ہوں گے۔ اس کے بعد وہی سابقہ غذا کام لاویں۔ اگر مرضِ بلغمی مزمن ہو جیسا کہ برس جدام وغیرہ تو ہر ہفتہ۔ ایک دفعہ، یا مہینہ میں ایک دفعہ یا دو دفعہ مریض کی طاقت کے موافق اسہال کریں یہ نسخہ نہایت مفید و مجرب ہے۔

## امراضِ سوداویہ کا علاج

تمام امراضِ سوداویہ کے لیے نسخہ ذیل کام میں لاویں۔ روغن زرد صاف شدہ شہد مصفا دونوں کو ملا کر آگ پر چڑھائیں یہاں تک کہ گرم ہو جاوے پھر اس پر گائے گا دودھ ڈالا جاوے اور سب پیا جائے یہ نسخہ تین دن یا سات دن کریں اگر آرام ہو جائے تو فہما ورنہ سہل سودا جس کی ترکیب یہ ہے استعمال کریں۔ سنا کو فتنہ دو درم ہلیہ سیاہ کو فتنہ پانچ درم دونوں کو شہد میں ملا کر نہار استعمال کریں خوب اسہال ہوں گے۔ پھر اس کے بعد وہی غذا

سابقہ کام میں لاویں کہ نہایت مفید مجرب ہے۔ اگر بیماری بڑی اور پرانی ہو جیسے جذام تو ہر ہفتہ میں ایک دفعہ یا ہر مہینہ میں ایک دفعہ یا دو دفعہ مریض کی صنعتِ قوت کے مطابق اسہال کریں۔

## طبائع اربعہ کا علاج

طبائع اربعہ کے تنقیہ کے لیے نہایت عجیب ہے اطر لقیل غار لقیون ہر ایک سے ایک حصہ۔ تخم ترب (چہارم ہرام) زنجبیل ۲ حب السلاطین، سناکی، تمر ہندی۔ خیارشنبہ ہر ایک مساوی الوزن حب السلاطین کو دیر کریں۔ باقی سب چیزیں کوٹ چھان کر کھجور یا زیتون کے تیل میں گوندیں اور بمقدار خود گولیاں بنالیں اسہال کے وقت بقدر طاقت مریض کو استعمال کرائیں اور ہوا سے بچائیں۔

تمام امراض کے مادہ فاسدہ کو خارج کرتا ہے سناکی دو تولہ، حب السلاطین ایک تولہ، فرنیون چھ ماشہ سب کو باریک کوٹ کر زیتون کے تیل یا شہد سے معجون بنالیں اور اسہال کے واسطے جوان کے لیے بقدر دو ماشہ استعمال کریں اور ہوا سے بچائیں۔

ایضاً۔ منقہ تولہ گل کلاب ۵ تولہ دونوں کو پانی میں پکا کر جب باقی نصف یعنی پڑھ جائے استعمال کریں۔

ایضاً۔ خیارشنبہ تمر ہندی۔ غار لقیون سب کو تین پاؤ پانی میں پکا کر جب نصف رہ جائے تو استعمال کریں۔ یہ مسہل درد کم درد زانو درد زان کو مفید ہے اور کھڑوں کو نکالتا ہے۔ ایضاً زعفران ایک درم لوہان ۴ درم صمغ عربی ۲ درم فرنیون ایک درم زنجبیل ایک درم سب کو کوٹ چھان کر زردی انڈہ میں ملا کر استعمال کرے خوب اسہال لاتا ہے۔ ایضاً۔ حب السلاطین۔ تیج، فرنیون، ہر ایک ہم وزن تھوڑا سا زنگار سب کو کوٹ چھان کر بقدر خود تیار کریں اور تخم کے ساتھ دو یا تین گولی استعمال میں لائیں پیٹ کے کپڑے وغیرہ نکلنے میں نہایت مفید ہے۔

ایضاً۔ ریوند چینی نصف اوقیہ مصطلکی ایک اوقیہ زروبان ۱/۲ اوقیہ زیرہ سیاہ

۲۲ اوقیہ سنا کی ۲۲ اوقیہ شہد خالص چالیس اوقیہ شہد کے سوا سب چیزوں کو کوٹ چھان کر شہد میں ملا دیں اور اس میں سے صبح شام ایک اوقیہ کام میں لاویں۔

ایضاً۔ یہ نسخہ ایسے مریض کے لیے ہے جس کے ہاتھ پاؤں بلکہ تمام بدن ڈھیلا پڑ گیا ہو مہربن اوقیہ۔ غاریقون تین اوقیہ اور تھوڑا سا زعفران حب السلاطین، سنا کی، فرقون ہر ایک سے ایک اوقیہ سب کو کوٹ چھان کر خالص شہد سے معجون بنا دیں اس میں سے ہر روز بمقدار نخود استعمال کریں اور ہمیشہ استعمال کرتے رہیں اللہ کے فضل سے اچھا ہو جائے گا۔

ایضاً۔ یہ نسخہ اس شخص کے لیے ہے جس کی کمر میں درد ہو یا اعصاب ڈھیلے ہوں یا بار و مزاج ہو غفل بقدر ضرورت لیں اور چھوٹے ٹمٹے کر کے اچھی طرح پکائیں، پھر نیچے اتار کر ٹھیرائیں تاکہ پانی صاف ہو جاوے پھر دوبارہ پکائیں پھر صاف کریں اور پھر شہد ملا کر تیار کے وقت اس میں سے مقدار ایک اوقیہ استعمال کریں انشاء اللہ تین دن تک آرام ہو جاوے گا۔

ایضاً۔ ایضاً یہ نسخہ ضعیف مریض کے لیے ہے۔ معجون تشمیری اس کے واسطے مفید ہے ایسے ہی مرد مہربن بقدر ضرورت یعنی میں ملا کر استعمال کریں کہ یہ بھی اسہاں لانا ہے۔

## دوسرا باب لاغر جسم کے موٹا کرنے کے بیان میں

بدن کو فربہ کرنے کا نسخہ یہ نسخہ بدن کو موٹا کرتا ہے۔ رنگ کو صاف کرتا ہے قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور اس سے غذا جدید پیدا ہوتی ہے جلیبہ یعنی میٹھے بقدر ضرورت لے کر پانی ڈال کر پکائیں اسی طرح چار پانچ دفعہ کریں اور ہر ایک دفعہ تازہ پانی ڈالیں، پھر باریک پس کر اس کے مساوی آرد گندم ملا دیں اور گائے کا دودھ ڈال کر دونوں کو پکادیں یہاں تک کہ حلوا کا قوام ہو جاوے پھر اس پر شہد شکر و روغن زرد ڈالا جاوے اور تھوڑا سا ملا کر اتار لیا جاوے اور اس میں سے ہر روز بقدر برداشت طبع کھایا جاوے۔

ایضاً۔ عروق دریا سی چار اوقیہ لے کر اس سے آٹھ گنا جو کے ساتھ جوش دیں جب جو میں خوشبو آجاوے اور دانہ پھٹ جاوے تو دانہ جو کو اتار کر خشک کر کے اس کے سٹاکی

روٹی سات دن کھاٹی جاوے۔

ایضاً۔ سو سمار کی چربی لے کر اس میں زیرہ کرمانی و پاڑی نمک و آرد گندم ملا دیں اور سب کو پس کر سات دن مرغی کو کھلائیں یہاں تک کہ موٹی ہو جاوے پھر ذبح کر کے لاغر جسم کو کھلا دیں تو اللہ کے فضل سے فریب ہو جاوے۔

ایضاً۔ اگر لاغر جسم عورت فریب ہونا چاہے۔ تو ہالیوں کو کوفتہ کر کے اس میں سے بقدر ضرورت نہار کے وقت گائے کے دودھ اور گھی کے ساتھ استعمال کرے اور کئی روز تک متواتر جاری رکھے۔

ایضاً۔ دانہ حرمل کو گندم کے ساتھ خوب پکا دیں اور مرغی کو کھلا دیں تاکہ موٹی ہو جاوے پھر اس کو ذبح کر کے حمام کرنے کے بعد کھا دیں اللہ کے فضل سے جسم فریب ہو جاوے اور صحت و جمال میں ترقی ہو جاوے۔

## تیسرا باب ان امور کے بیان میں جو حالت صحت میں بدن

### کے لیے ضروری ہیں

یہ باب علم طبابت میں نہایت ضروری و مہتمم بالشان ہے کیوں کہ حالت صحت میں پرہیز کرنا مرض کے وقت دوا پینے سے بہتر ہے۔

اور عقلمند وہ ہے جو بیماری میں واقع ہونے سے پہلے صحت کا خیال کر کے اس کی تدبیر کر لیتا ہے اور طب کی دو قسمیں ہیں ایک موجودہ صحت کی حفاظت جس کو ہم اس باب میں بیان کریں گے۔ دوسری مفقودہ صحت کا واپس لانا جس کو اس کے بعد بیان کریں گے اب جاننا چاہیے کہ صحت موجودہ کی حفاظت کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جن میں سے دس چیزیں بدن کی صحت اور حفاظت کے واسطے نہایت ضروری ہے اور وہ چیزیں کھانا پینا حرکت سکون خواب بیداری جماع ہوا عوارض نفسانیہ اور بدن کے اعضا کی تدبیر ہیں۔ پہلی ان میں کھانے کی تدبیر ہے۔ یہ کہ بقدر ضرورت کھانا چاہیے۔ جو سیری کی حد تک نہ چنچے اور انسان اس سے اپنا پیٹ پر نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے

لیے پیٹ بھر کر کھانے سے زیادہ کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ انسان کے لیے اتنے  
 نفعے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکیں یعنی معدہ کا ایک حصہ طعام کے لیے اور ایک  
 حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا  
 ہے کہ معدہ تمام امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دواؤں کا سر ہے۔ اور ہر ایک بیماری کا اصل  
 بزور ت ہے۔ پس ہر حکیم کا علاج اس چیز سے شروع کرو جس کا وہ عادی ہو۔

اکثر انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ کھاتے اور ردی اور غلیظ کھانوں کے عادی  
 ہوتے ہیں۔ پس ان میں اگر وہ تندرست بھی ہوں امراض پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس واسطے  
 بہتر یہ ہے کہ کھانے پینے میں اعتدال کا لحاظ رکھا جاوے۔ ایسے لوگوں کے لیے جن کو جسمانی  
 محنت و مشقت سے زیادہ کام نہیں پڑتا۔ تخفیف غذاؤں مثل چاول سوہی کا آٹا۔ بیسروں و چوزوں  
 کا گوشت مناسب ہے۔ اور گائے یا بکری کا دودھ پستانوں کے نیچے سے ہی پینا  
 مفید ہے اور جفاکش محنتی لوگوں کے واسطے اغذیہ ثقیلہ چمداں مضر نہیں ہیں۔ تاہم معتدل  
 غذا مناسب و موافق ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس میں آرام و عافیت ہے۔ کھانے کے واسطے  
 علاوہ اوقات مقرر کئے ہیں بعضوں نے کہا ہے دو رات و دن میں تین دفعہ کھانا چاہیے۔  
 بعضوں کا خیال ہے کہ ایک رات و دن میں ایک دفعہ کھانا چاہیے۔

ان اوقات مقررہ کے علاوہ اگر صبح و شام چاشت وغیرہ کسی وقت تھوڑا سا کھانے کی  
 عادت کر لی جائے تو کچھ عرج نہیں۔ غذا خوب چبا کر کھانی چاہیے تاکہ معدہ کو مضہم کرنا آسان ہو  
 جاوے کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے اور لہم اللہ سے شروع کرنا چاہیے اور الحمد للہ پر ختم کرنا چاہیے۔  
 مضر اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باسی طعام اور جس کو طبیعت پسند نہ کرے اس سے بھی احتراز  
 کرنا چاہیے اور جب تک پہلا طعام مضہم نہ ہو لے اس پر دوسرا طعام داخل نہ کرنا چاہیے کیوں کہ  
 اس طرح سے بیماری کے جلدی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ہلاکت کا سبب  
 ہو جاتا ہے۔ کسی نے اس کے متعلق یہ شعر کہا ہے۔

ثَلَاثٌ مِّنْ مَّبْعِلَكَةِ الدَّيَا مِ  
 وَدَاعِيَةِ الصَّحِيحِ إِلَى التَّيَامِ  
 دَوَامُ الدَّامَةِ وَدَوَامُ وَطَائِرِ  
 وَادِّخَالِ الطَّعَامِ عَلَى الطَّعَامِ

تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں اور تندرست کو بیماری میں مبتلا کرتی ہے۔ ہمیشہ شراب پینا۔ ہمیشہ جماع کرنا اور طعام پر طعام داخل کرنا۔

اخف بن قیس کا قول ہے کہ حکماء نے چار ہزار حکمت کی باتیں منتخب کیں پھر ان میں سے چار سو چھاپٹیں، پھر ان میں سے چالیس۔ پھر چالیس سے چار چیزیں پسند کیں۔ اول یہ کہ عورتوں پر اعتبار نہ کرو، دوم یہ کہ معدہ پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ سوم یہ کہ کثرت مال سے مغرور نہ ہو جاؤ، چہارم یہ کہ اتنا علم کافی ہے جتنا کہ نفع دے سکے۔ نوشیرواں بادشاہ کے پاس چار حکیم، عراقی، رومی، ہندی، اور سوڈانی جمع ہوئے۔ بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ ہر ایک کوئی ایسی دوا بیان کرو جس کے استعمال سے بیماری پیدا نہ ہو سکے۔ عراقی نے کہا ہر روز صبح کے وقت گرم پانی کے چند گھونٹ پینے سے یہ بات حاصل ہو جاتی ہے۔ رومی نے کہا ہر روز تھوڑی سی ہالیوں کی پھنکی کا استعمال رکھنے سے یہ مدعا حاصل ہو سکتا ہے۔ ہندی نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہر روز صبح کے وقت ہلیہ سیاہ کے تین دانہ کھالیے جائیں۔ سوڈانی خاموش تھا حالانکہ ان سے حافظ تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تم کیوں نہیں بولتے کہا جناب آغا گرم پانی گروں کی چربی کو گھلاتا ہے۔ اور معدہ کو سست کرتا ہے اور ہالیوں صفراء کو برا ٹکنگتہ کرتی ہے اور ہلیہ سیاہ سودا کو بھڑکاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تمہارے خیال میں وہ کونسی چیز ہے کہا وہ یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں اور ابھی بھوک باقی ہو کہ ہاتھ کھینچ لیں۔ اس طرح کرنے سے موت کے سوا کوئی بیماری نہیں آتی سب نے کہا سچ ہے۔ ایک قسم کے دو طعاموں کو جمع نہ کریں اور نہ دو گرم چیزوں کو جمع کریں۔ مثلاً انڈا اور گوشت اور نہ دوسرے کو جیسے پھلی اور دودھ اور نہ دو خشک کو، جیسے کنگنی اور مسور، سخت چیز زیادہ لیس دار اور جس کا کاٹنا مشکل ہو۔ ان سب کا استعمال نہ کریں کیوں کہ ان کا ہضم کرنا معدے کے واسطے بڑا دشوار ہوتا ہے اور جب تک طعام معدہ میں ساکن نہ ہو لے پانی نہ پییں۔ کیوں کہ یہ عادتیں معدے کے واسطے مضر ہیں۔ تمام علماء و اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام امراض چھ چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اول کثرت جماع۔ دوم رات کے وقت زیادہ پانی پینا۔ سوم رات کے وقت کم سونا، چہارم دن کے وقت زیادہ سونا پنجم جہرے ہوئے معدے پر کھانا کھانا، ششم بول کا روکنا۔

## دوسری فصل پانی پینے کی تدبیریں

جب تک پیاس غالب نہ ہو پانی نہ پیئیں۔ پانی شیریں سرد نہر کا ہونا چاہیے یا بہت پانی والے کنویں کا پانی ایک دم سے نہ پینا چاہیے بلکہ تین سانس سے۔ اور ہر دفعہ بسم اللہ کہنی چاہیے اور اخیر میں الحمد للہ پڑھنا چاہیے۔ اور مٹی کے برتن میں پینا چاہیے۔ اس قسم کا پینا ہنسیا مڑبا ہوتا ہے بعض حکماء کا قول ہے کہ تانبے کے برتن میں پانی پیاروی ہے اور بلکڑی کے برتن میں پینا ہنسی ہے۔ مری ہنسی، اور گرم پانی سے بلا ضرورت پرہیز کرنا چاہیے۔ نمکین میلا اور بدبو دار پانی یہ سب روی نہیں۔

اور ایسے برتنوں میں جن سے پانی نظر نہ آسکے جیسا کوزہ یا چھوٹے منہ کا برتن پانی نہ پینا چاہیے بلکہ ایسے برتنوں سے دوسرے برتن میں پانی ڈال کر اور دیکھ کر پینا چاہیے۔

## تیسری فصل حرکت کی تدبیریں

بادر ہے کہ ہر ایک طعام میں سے اس کے مہضم کے بعد معدہ میں کچھ فضلہ رویہ رہ جاتا ہے۔ اگر اس کو حرکت و ورزش سے تحلیل نہ کیا جاوے تو اس سے ضرر عظیم کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس واسطے مناسب ہے کہ حرکت خفیف معتدل کی جاوے تاکہ جسم گرم ہو جاوے اور وہ فضلہ تحلیل ہو جاوے اور حرکت اس وقت کرنی چاہیے جب کہ معدہ طعام سے خالی ہو۔ اور یہی ریاضت ہے کہ حرکت خفیف معتدل کی جاوے جیسا کہ گھوڑے کی سواری یا آہستہ آہستہ چلنا یا پڑھنا یا کسی کام میں مصروف ہونا یہ چہرے کو سُرخ کرتی ہے پسینہ لاتی ہے فضلات رویہ کو خارج کرتی ہے اتنی ریاضت نہ کرنا چاہیے کہ جس سے نکان و کابلی پیدا ہو کھانے کے بعد خصوصاً پر معدہ کے وقت ریاضت نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ اس سے امراض خطرناک پیدا ہونے کا احتمال ہے۔

چارم سکون ہے ظاہر ہے کہ سکون یا قیام کی حالت میں ہوتا ہے یا بیٹھے اور

تیسری حالت میں گمراہ حالات میں ہمیشہ نہیں رہنا چاہیے کیوں کہ ہمیشہ کا سکون

اور آرام روح بدن کے لیے مضر ہے۔ ہاں محنت کے بعد سکون و آرام لینا ضروری ہے تاکہ تکان تکلیف دور ہو جاوے۔

پانچویں تدبیر نیند ہے۔ جو اس کا حرکت سے رجوع کرنا، اور نفسِ ماسمہ کا منقبض ہو کر دماغ سے جوف کی طرف متوجہ ہونا نیند کہلاتا ہے۔ اس میں دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ جسم کے اعضا اس تکلیف و تکان سے جو بیداری میں بباعث حرکات کے حاصل ہوتی ہے۔ آرام پاتے ہیں اور روح بھی افکار و مہوم سے استراحت حاصل کرتا ہے۔ اس واسطے نفس و بدن دونوں کے لیے نیند سے راحت عظیم حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ نیند کے وقت حرارتِ عزیزِ معدہ میں داخل ہو جاتی ہے اور مضم کو مدد دیتی ہے۔ اور انسان ہلکا پھلکا ہو کر بیدار ہوتا ہے نیند کی معتدل مقدار رات کے وقت چھ گھنٹے ہیں یا آٹھ گھنٹے اور دن میں تیلوہ کرنا چاہیے خواہ ایک گھنٹہ ہو یا ایک لمحہ نیند کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے تھوڑی دیر کے لیے دائیں پہلو لیٹ جائیں پھر بائیں پہلو لیٹ جائیں، سوتے وقت اور جاگتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے۔ چھٹی تدبیر بیداری ہے یاد رہے کہ انسان کو اپنا وقت بہ وہ ضائع نہ کرنا چاہیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تم میں سے کسی کو ایسی حالت میں دیکھوں جس میں وہ کوئی دینی یا دنیاوی کام نہ کر رہا ہو اور شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے مجھے اس شخص پر افسوس آتا ہے جو اپنی عمر کو ضائع کرتا ہے۔ احنف بن قیس نے کہا ہے کہ عقل مند کو چاہیے کہ تین باتوں سے غافل نہ ہو ایک ایسے علم سے جو آخرت کا توشہ بن سکے، دوسری کوئی صنعت جس سے دین و دنیا کے کام پورے ہو سکیں تیسرے علم طب جس سے اپنے جسم کی بیماری دفع کر سکے۔ پس اس قسم کے کاموں میں لگا رہنا اور وقت کو ضائع نہ کرنا بیداری کہلاتا ہے۔

ساتویں تدبیر جماع ہے۔ جماع کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک شہوت غالب نہ ہو اور منی مستعد نہ ہو جماع کرنا مناسب نہیں لیکن جب وہ حالت پائی جاوے تو فوراً منی خارج کرنی چاہیے جس طرح ردی فضلہ استفرغات سے خارج کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ اس وقت اس کے روکنے میں ضررِ عظیم کا اندیشہ ہے۔ سوائے اس معیار مذکور کے جماع کے لیے



یہ کوئی خاص وقت یا مقدار مقرر نہیں کی جاسکتی اگرچہ وہ حالت سال میں ایک ہی دفعہ کیوں نہ ہو بغیر اس حالت کے جماع عموماً سب کے لیے مفرب ہے اور خصوصاً صغیراوی اور سوداوی مزاج کے لیے کیوں کہ ان کو بوجہ قلتِ رطوبات بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ دموی اور بلغمی مزاج والے اگرچہ ان کو کثرتِ جماع کی طاقت ہوتی ہے۔ تو بھی ان کے لیے مناسب ہے کہ ایک ہفتہ میں ایک دفعہ یا دو دفعہ مقارب کریں ورنہ ضررِ عظیم کا احتمال ہے۔ خصوصاً مکان اور تکلیف کی حالت میں اور اس ضرر کی وجہ یہ ہے کہ مٹی غذا کا خلاصہ ہے جو روح کا مادہ ہے۔ پس جب انسان جماع کثیر کا عادی ہو جاتا ہے۔ پہلے تو منی خارج ہوتی ہے پھر غذا اور رطوبات اصلیدہ کا خون منی کی شکل میں آجاتا ہے۔ اور رطوبتِ اصلیدہ کے فنا ہونے سے طاقت کا موجب بنتا ہے۔ علاوہ اس کے کثرتِ جماع سے بڑھا پا جلد آتا ہے۔ قوت کمزور ہو جاتی ہے بڑھاپے کے آثار قبل از وقت نمودار ہو جاتے ہیں۔ جماع کی ہیات بہت سی ہیں۔ مگر مفید ہیات یہ ہے کہ عورت پیٹھ پر لیٹ جاوے اور مرد اس کے اوپر چڑھ جاوے پھر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑو بوس و کنار کرے یہاں تک کہ شہوت بھڑک اٹھے پھر جلدی سے عورت کے اندام میں داخل کر دے اور حرکت کرے۔ پھر جب منی گر جاوے تو ایک گھنٹہ تک عورت کی گردن سے لیٹا رہے اور ذکر باہر نہ نکالے جب جسم میں بخوبی سکونت آ جاوے تو دائیں جانب ہو کر باہر نکالے کہتے ہیں کہ اس قسم کے جماع سے اگر نطفہ قرار پا جاوے تو لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کے بعد مرد عورت بائیں نرم کیڑے سے اپنے اپنے اندام کو صاف کریں اور کیڑا علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ عمدہ جماع وہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ دل کی تازگی و طبیعت کی فرحت ہو اور بڑا جماع وہ ہے جس کا نتیجہ لرزہ و تنگی نفس و دل کی کمزوری و طبیعت کا متلاذنا اور محو بہ کالپند نہ آنا ہو۔ جماع کے واسطے چند امور ہیں ان میں سے تین قبل از جماع اور تین کا بحالتِ جماع اور تین کا بعد از جماع ہونا لازمی ہے۔ قبل از جماع میں سے ایک تو ملاعبت و چھیڑ چھاڑ ہے تاکہ عورت کا دل خوش ہو جاوے اور اس کی مراد آسانی سے پوری ہو جاوے اس کو جاری رکھے یہاں تک کہ عورت جلد جلدی سانس لینے لگے اور اس کی گھبراہٹ بڑھ جاوے اور مرد کو اپنی طرف زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ دوسری صورت کہ بیٹھی ہوئی حالت میں مقاربت

نہ کرے کیوں کہ اس سے اسکو تکلیف ہوتی ہے۔ نیز ہلو کی طرف سے بھی جماع نہ کرے کہ  
 اس سے وضع النخاصہ (درد کمر) پیدا ہوتی ہے۔ اور عورت کو اپنے اوپر نہ چڑھائے کہ  
 اس سے عورت بانجم ہو جاتی ہے۔ بلکہ عورت کو چپٹا ٹاؤ سے اور اس کی ٹانگوں کو اوپر  
 اٹھاوے اور یہ سب سے اچھی ہیئت جماع کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دخول کے وقت اٹوڈ  
 باللہ و بسم اللہ پڑھے اور عضو کو نرمی سے داخل کرے اور پستانوں کو ہاتھوں سے ملتا چاھے  
 اور امور جو حالت جماع میں کرنے چاہئیں۔ ان میں سے اول یہ ہے کہ اس حالت میں  
 خاموش رہے اور نرمی سے کام کرے۔ دوسرا یہ کوشش کرے کہ ہر دو کا انزال ایک  
 وقت پر ہو۔ کیوں کہ اس سے عورت کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جب مرد عورت  
 کے انزال کا احساس کرے تو عضو کو جلدی خارج کرے کیوں کہ دیر تک رکھنے سے اس  
 میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس سے جدا نہ ہوئے۔ اور وہ تین امور جو جماع کے بعد  
 کرنے چاہئیں ان میں اول یہ ہے کہ عورت کو دائیں کروٹ سو رہنے کے لیے حکم دے  
 تاکہ اگر نطفہ قرار پا جاوے تو لڑکا پیدا ہو۔ اگر بائیں پہلو پر سووے گی تو لڑکی پیدا ہوگی۔ دوم  
 یہ کہ مرد فراغت کے بعد یہ آیت پڑھے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ مِنْ الْمَلِكِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا  
 وَصِهْرًا وَّكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا.... ترجمہ، سب تعریف اس خدا کے لیے خاص ہے جس نے  
 پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کو نسب و رشتہ دار و نوالہ بنایا اور تیسرا یہ اس بات  
 پر قادر ہے۔ سوم یہ کہ اگر سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر کے سووے یہ سنت ہے اور اگر  
 دوبارہ کرنا چاہے تو ذکر کو دھوئے۔ بعض معتبروں نے ذکر کیا ہے جو شخص اپنی عورت کے  
 ساتھ جماع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے اور سورۃ اخلاص پوری پڑھ کر تکبیر و تحلیل کہے پھر یہ  
 دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنْ كُنْتَ قَدَّرْتَ اَنْ تُخْرِجَ مِنْ صُلْبِيْ  
 اَللّٰهُمَّ جَنِيْبَ الشَّيْطَانِ وَجَنِيْبَ الشَّيْطَانِ مَا رَزَقْتَنِيْ ترجمہ اسے اللہ اس فعل کو پاک اولاد  
 کا سبب بنا اگر تو نے میرے لیے کوئی اولاد مقدر کی ہے تو اسے اور مجھ کو شیطان سے بچائے رکھو۔  
 پھر عورت کو داہنے کروٹ پر لیٹنے کا حکم کرے۔ اس جماع سے اگر کچھ ہو تو انشاء اللہ اس عمل  
 سے لڑکا پیدا ہوگا۔ مصنف کہتا ہے میں نے خود اس دعا اور طریقہ کو استعمال کیا ہے شک

صحیح اور مجرب ہے۔

اٹھویں تدبیر آب و ہوا ہے۔ یاد رہے کہ جسم کو ہوا کی نہایت سخت ضرورت ہے کیونکہ روح آنکھ اور کان وغیرہ اعضا ظاہری و باطنی ہوا کی مدد کے بغیر اپنا کام نہیں کر سکتے خصوصاً روح کہ اس کا قوام بدن کے ساتھ بغیر امداد ہوا محال ہے اور اس کی زندگی اور موت اسی پر موقوف ہے۔ ہوا روح کے لیے ایسی ہے جیسے جسم کے لیے غذا۔ عمدہ ہوا مشرقی ہوا ہے خصوصاً جو نہایت صاف لطیف خوشبودار ہو ایسی ہوا میں روح نہایت تروتازہ ہوتی ہے اور شمالی جنوبی اور مغربی ہوا اگر معتدل ہو جائے تو اچھی ہے ورنہ پہلی ہوا سے اپنی ذات کے اعتبار سے فائدے میں کم ہوتی ہے اور تند اور تیز ہوا اور آندھی اور دھواں اور گرد و غبار اور ہوا بدبودار اور جو ہوا اعتدال سے نکل جائے یہ سب اچھی نہیں ہیں۔ یہ تمام ہوائیں روح کے واسطے مضر ہیں۔ پس ایسی ہواؤں سے پرہیز چاہیے اور لطیف طیب ہواؤں کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

نویں تدبیر عوارض نفسانیہ ہے یاد رہے کہ غم اور ہم دم دل کی آفت ہیں۔ اور خوشی و غمی دل کی راحت ہم کے یہ معنی ہیں کہ امور مہتمم بالشان کے اہتمام کے وقت ظاہر بدن میں حرارت عزیزنی ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت اگر غرض مطلوب حاصل نہ ہو تو اس سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس وقت حرارت عزیزنی طبیعت کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جس سے طبیعت پر سودا غالب ہو جاتا ہے۔ اور بعض وقت یہاں تک غلبہ کرتا ہے کہ ناگہانی موت آجاتی ہے اور جب ہم اور غم کی کثرت ہوتی ہے تو جسم بدلا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ مخلوقات میں سے انسان سب سے قوی ہے اور انسان سے قوی مستی ہے جو عقل کو زائل کر دیتی ہے اور سب سے قوی میند ہے۔ اور نیند سے قوی غم ہے اور رنج و غم کی دوا کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص فکر یا غم میں مبتلا ہو گیا ہو اگر یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو رنج و غم سے نجات دے کر خوش و غمی نصیب کرتا ہے۔

اللَّهُمَّ اِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَا صِيَّتِي  
بِيَدِكَ مَا ضِي فِي حُكْمِكَ عِدَلٌ فِي قَضَائِكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هَوَّلَكَ سَمِيَتْ بِهِ  
نَفْسِكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمٍ

اَلْقَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِّعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِي وَشِفَاءَ صَدْرِي  
 وَجِلْدًا حَزَنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَعَقِي ... پس انسان کو چاہیے کہ ایسی چیز کے لیے کوشش  
 کرے جس کا حاصل ہونا اس کے لیے ممکن ہو اور کثرتِ خواہشات سے پرہیز کرے تاکہ غم اور  
 ہم میں مبتلا نہ ہو اور حیبِ غرض حاصل ہو جائے تو حد سے زیادہ خوش نہ ہو کیوں کہ حد سے زیادہ  
 خوشی بھی ہلاک کر دیتی ہے۔ نیز غیض و غضب بھی عوارضِ نفسانیہ سے ہیں۔ اور یہ دونوں  
 شیطان کی طرف سے ہیں اور شیطان آگ سے پیدا کیا ہوا ہے پس اس آگ یعنی غصے کو پانی  
 سے بجھانا چاہیے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ غصے کی حالت میں یا تو پانی سے نہا  
 لیوے یا کامل وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیوے پھر یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ اغْضِبْ لِي  
 ذَنْبِيْ وَادْهَبْ عَنِّيْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاعِزَّنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ... یا اے میرے  
 گناہ بخش میرے دل کا غصہ دور کر اور شیطان مردود سے پناہ دے۔ اس تدبیر سے غصہ ہلکا ہو  
 جاتا ہے نیز مال وغیرہ اسباب کے فوت ہونے پر غم کھانا بھی عوارضِ نفسانیہ سے ہے۔ پس  
 اس تکلیف سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ ایسی حالت میں افسوس نہ کرے اور خیال کرے  
 کہ دنیا کا مال و متاع سب فانی ہے اور دل میں سوچے کہ اگر اس سے بھی کوئی بڑی مصیبت آجاتی  
 تو اس سے زیادہ غم ہوتا۔ پس اس مصیبت کو اس کے مقابلے میں راحت سمجھ کر شکر یہ ادا کرے  
 نہ شکایت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب مجھے کوئی مصیبت آتی ہے تو میں  
 اس میں اپنے لیے تین نعمتیں خیال کرتا ہوں۔ اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آسان مصیبت  
 بھیجی ہے۔ نہ مشکل حالانکہ وہ اس پر قادر تھا دوسرا یہ کہ وہ مصیبت دنیاوی ہے نہ دینی حالانکہ  
 وہ اس پر قادر تھا۔ سوم یہ کہ قیامت کے دن مجھے اجر ملے گا۔ کسی شاعر نے اسی مضمون کے متعلق

۱۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بنوے اور بندی کا بیٹا ہوں میری جان تیرے قبضہ میں ہے تیرا  
 فیصلہ میرے بارہ میں انصاف ہوتا ہے میں تیرے ہر نام کے واسطے سے جس کے ساتھ تو نے اپنا نام رکھا یا اپنی  
 کتاب میں اتارا یا اپنی مخلوق سے کسی کو سکھا یا پاپا پرہ غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن مجید کو  
 میرے دل میں جگہ دے اور میری آنکھوں کا نور کر اور میرے سینہ کی شفا اور رنج و غم و فکر کو غلط کرنے کا سبب بنا۔

کیا اچھا شعر کہا ہے۔

لَا تَلْقُ دَهْرَكَ إِلَّا غَيْرَ مُسْكِنَةٍ      مَا دَامَ يَصْعَبُ فِيهَا رُوحَكَ الْبَدَنُ  
فَمَا يَدُومُ سُرُورُ مَا سَرِدَتْ بِهِ      وَلَا يَرُوعُ عَلَيْكَ الْفَاتُ الْحَزَنُ

جب تک روح اور بدن کا آپس میں اتحاد ہے تو اپنے زمانے میں بے پرواہ رہو اور غم نہ کھا۔ جن چیزوں سے تو خوش ہو رہا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہیں گی اور فورت شدہ چیز غم کھانے سے واپس نہیں آسکتی۔

دسویں تدبیر صحیح بدن کے اعضا میں یہ ظاہر ہے کہ بدن ہمیشہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا بلکہ اس کو ایسی حالتیں پیش آتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے بدن کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے اول یہ ہے کہ غسل کیا جاوے تاکہ بدن کی میل کچیل دور ہوتی رہے۔ اگر صبح بھینچے ہیں ایک ہی دفعہ پورے جمعے کے روز غسل سنت ہے۔ اور تیل لگانا بھی غسل کے وقت سر کو بری کے پانی سے اور بدن کو صابون سے دھونا چاہیے۔ اور سر میں کنگھی کریں اور مانگ نکالیں کیوں کہ یہ سنت ہے اس سے غم اور رنج دور ہو جاتا ہے۔ لیکن سردی کے موسم میں گرم پانی سے نہانا چاہیے۔ اور گرمی کے موسم میں سرد پانی سے اگر انسان کثرت کار و بار مزدالتِ اشغال سے تھک جاوے تو غسل کرنے سے تھکان دور ہو جاتی ہے۔ آنکھ کی تدبیر یہ ہے کہ ہر ایک رات سوتے وقت سر میں تین یا پانچ یا سات سلاٹیاں آنکھ میں ڈالے۔ پہلی سلاٹیاں دائیں آنکھ میں اور دوسری سلاٹیاں بائیں آنکھ میں اور سب سے عمدہ سرمہ اشد (یعنی سرمہ اصفہانی) ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اشد کو آنکھ میں ڈالا کرو کہ وہ آنکھ کو روشن کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔

دانتوں کی صفائی کی تدبیر یہ ہے کہ بیدار ہونے کے وقت اور ہر ایک نماز کے وقت اور منہ میں بدبو پیدا ہوجانے کے وقت مسواک کیا کرے مسواک کرنے میں دس فائدے ہیں منہ پاک و صاف ہوتا ہے۔ رتِ راضی ہوتا ہے۔ منہ سے خوشبو آتی ہے۔ دانتوں کو صاف کرتی ہے۔ فصاحت مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معدے کو طاقت دیتی ہے۔ بلغم کو قطع کرتی ہے۔ فصاحت کو بڑھاتی ہے۔ چہرہ کو رونق بخشتی ہے۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ مسواک

درخت اراک (دن) یا ایسی بکڑی کی ہونی چاہیے جس کا ذائقہ زبان کو قبض کرنے والا ہو۔ مسواک کے سر کو پانی سے تر کر لیں۔ پھر بسم اللہ کر کے شروع کریں اور فراغت کے بعد اس کے سر کو دھو کر رکھ لیں۔ ڈاڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے۔ ہر روز صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ ڈاڑھی کو صاف کریں اور اس وقت سورۃ اخلاص اور سورۃ فاتحہ پڑھیں اس سے غم و رنج دور ہوتا ہے۔ اور دل خوش ہوتا ہے۔ ایسا ہی ناخن کو کٹوائیں، بغل کے بال نوچیں، مونے زہاؤ مونڈیں، یہ باتیں ایک مہینہ میں دو دفعہ ہونی چاہئیں، معدہ کی صحت کی تدبیر یہ ہے کہ ہفتہ میں ایک دفعہ یا مہینہ میں دو دفعہ گرم پانی سے تھے کی جاوے جس میں کچھ نمک ڈالا گیا ہو یا صرف پانی سے ہی اور یہ سفوف استعمال کی جاوے مصلکی بونگ نقل، زنجبیل، سماق ہر ایک ہم وزن لے کر سب کے مساوی شکر تری ملا کر سفوف بنا لیں اور کھانا کھانے سے پہلے ایک درہم اور اتنا ہی کھانے کے بعد کھایا کریں کہ یہ صحت معدہ کے واسطے مجرب ہے۔

بول و براز کو ہرگز روکنا نہ چاہیے اگرچہ سواری کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو جس طرح جاری نہر کو روکنے سے اس کے ارد گرد کی آبادیوں کو بوجہ کثرتِ رطوبت نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح بول و براز کے روکنے سے اعضا بدن کو نقصان پہنچتا ہے۔

ڈاڑھی، سر ہاتھ اور پاؤں میں ہندی لگانا سنت ہے۔ تیز قوت باہ کو طاقت دیتی ہے آنکھ کی روشنی بڑھاتی ہے۔

سخت سردی اور گرمی کے وقت بدن اور سر کو پوشیدہ رکھنا چاہیے اور معتدل گرمی اور سردی کے وقت ان کو کھول دینا چاہیے۔

پانچواں باب ان مراہم کے بیان میں جو قروح و جربوع

و ما میل میں کام آتی ہیں

یاد رہے کہ مراہم کا فائدہ یہ ہے کہ وہ زخموں کو صاف کرتی ہیں اور ان سے پیپ اور رطوباتِ نامند

کو خارج کرتی ہیں۔ یہ رطوبات فاسدہ اغذیہ کے تعفن سے پیدا ہوتی ہیں۔ طبیعت ان کو زخم کے منہ کی طرف دفع کرتی ہیں۔ پھر جب دیر تک زخموں کے منہ پر ان رطوبات کا قیام ہوتا ہے تو گوشت کو کھاتی ہیں۔ اور زخم کو کھول دیتی ہیں۔ اور وسیع کر دیتی ہیں بلکہ بعض وقت روح کے مقام تک پہنچ کر ہلاکت کا باعث بنتی ہیں۔ اس واسطے ضروری ہے کہ ہر روز کوئی ایسی مرہم استعمال کی جاوے جو رطوبات فاسدہ کو قطع کرے اور زخم کے عمق میں بلا ضرورت مشقت گھس جائے اور رطوبات فاسدہ کو باہر نکال لائے اب اسی قسم کی ایک مرہم بیان کرتے ہیں۔

مرہم یہ ہے۔ مرتک۔ صبر سقوطی، ہر ایک مساوی مرتک کو خوب باریک پس کر چھان کر صبر سقوطی کوٹی ہوئی کے ساتھ ملا کر گائے کے گھی سے خوب تپت کریں جب قوام معتدل ہو جائے تو اس میں سے ہر روز قدرے ضرورت استعمال کریں جس قدر پرانی ہوگی اسی قدر اچھی ہوگی۔ اگر زخموں میں رطوبت فاسدہ کی کثرت ہو تو گھی میں سرکہ بھی ملا لینا چاہیے۔

کیوں کہ یہ سرکہ فاسد گوشت کو کھا جاتا ہے اور میل کو نکالتا ہے اور درد کو تسکین دیتا ہے۔ زخم کو صاف کرتا ہے اور جلدی سے زخم کو بھرتا ہے۔ جسم کے زخم کا علاج جب کہ لوہا کسی لوہے یا پتھر وغیرہ تیز چیز سے زخمی ہو جائے اور خون جاری ہو جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، سب سے پہلے جاری خون کو بند کرنا چاہیے اس طرح پرکہ اخروٹ کے پتے لے کر باریک کوٹ کر زخم کے منہ کو بھر دیں اس سے خون فوری بند ہو جائے گا۔ اسی طرح پھسکڑی ماسو اور مائیں کے دھوڑے سے بھی خون بند ہو جاتا ہے جب خون بند ہو جائے تو زخم کے منہ پر گرم گھی سے مکور کرنی چاہیے۔ پھر گہیکوار کا گودا لیکر اور آگ پر بھون کر ٹھنڈا کر کے اور تھوڑا سا گھی ملا کر زخم پر رکھیں۔ اس طرح صبح و شام کرتے رہیں جب گوشت پیدا ہونا شروع ہو جائے تو ایک دن میں ایک دفعہ کافی ہے۔

گوشت پیدا کرنے والی مرہم روغن زرد ایک حصہ چربی ایک حصہ زیتون کا تیل ایک حصہ سبکو آگ پر گھلا کر مرہم بنالیں اور کام میں لاویں گھوڑے کی لید کا بانڈھنا بھی خون کو فوری بند کر دیتا ہے۔ زخم بھرتے والی مرہم تراج، احر چاردرم، شب یمانی دودرم پوست انار خشک سولہ درم بازو ایک درم گائے کی چربی سودرم، پرانا زیتون کا تیل سب کو ملا کر مرہم بنا دیں۔

مرہم سبز زخموں کے لیے۔ زنگار ایک اوقیہ، سرکہ تین اوقیہ، شہد تین اوقیہ سب کو ملا کر آگ پر چڑھا کر مرہم کا قوام بنا کر اتار لیں ضرورت کے وقت مرغ کے پر کو مرہم سے لٹھکر زخم کے منہ میں داخل کرے یہ مرہم زخم کی پیٹ و مدہ کو خارج کرتی ہے۔ اور زخم کو بہت جلد اچھا کرتی ہے اور تمام اقسام کے زخموں کے لیے مفید ہے۔ جالینوس نے اپنے استاد بقراط سے ایک مرہم نقل کی ہے۔ شہد سرکہ، ہوزن دونوں کو ملا کر آگ پر چڑھا دیں جب سرکہ جل جاوے تو باقی شہد میں موم خالص اور بکری کے گردے کی چربی و زیتون ملا کر مرہم بنا دیں۔ اگر سبز رنگ کرنا چاہیں تو زنگار ملا دیں۔ اگر سیاہ کرنا چاہیں تو رال ملا دیں، اگر سرخ کرنا منظور ہو تو دم الاخوین ملا دیں اور ہر قسم کے زخموں پر کام میں لاویں مرہم سفید کا فوراً ایک اوقیہ لے کر انڈے کی سفیدی میں لت کریں اور ہر ایک اوقیہ موم خالص اور چار اوقیہ زیتون کا تیل ملا کر حسب دستور مرہم تیار کریں۔ مرہم معبود موم خالص ایک حصہ بکری کے گردے کی چربی دو حصے زیتون کا تیل چار تولہ سب کو آگ پر پگھلائیں۔ پھر مصطکی، لوبان، صنوبر تھوڑا تھوڑا باریک کر کے ملا دیں اور مرہم تیار کریں۔ زخم کی دوا، لسن کا بیج باریک کر کے زخم پر ضا د کریں مردہ گوشت کو کھائیتا ہے۔ زخم کے لیے مرہم سرکہ اور شہد مساوی ملا کر آگ پر پکاویں جب سرکہ جل جاوے اور شہد رہ جاوے تو نیچے اتار کر ایک اوقیہ ترروت پس کر ملا دیں۔ اور مرہم بنا کر کام میں لاویں۔ مرد کے ذکر یا عورت کے فرج کے پھٹ جانے کا علاج متزک، کافور، مساوی لے کر سر کریں ملا دیں اور آگ پر گرم کر کے رکھ چھوڑیں اور اس سے علاج کریں۔ زخم کی دوا جو فے الفور زخم کو صاف کر دے پھٹکڑی بریان اور تیج دونوں کو ملا لیں اور زخم پر شہد ملا کر اسپر دوا دھوڑیں تازہ زخم کا علاج یتھی کو کوٹ چھان کر روغن زرد بازیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر زخم پر ضا د کریں۔ ایضاً اسی صاف کو سرکہ میں گوندھ کر زخم پر ضا د کریں علاج جو گوشت کو پیدا کرتا ہے دم الاخوین، انجبار، مساوی الوزن خوب باریک کریں اور زخم پر چھڑکیں اگر ان میں صمغ عربی زیادہ کریں۔ تو فائدہ میں سریع التاثر ہو جاوے۔

باشمہ کا علاج یہ سر میں ایک قسم کا زخم ہوتا ہے۔ نسخہ یہ ہے۔ یتھی جو شش دی ہوئی ایک حصہ زیرہ سبز ایک حصہ نمک ایک حصہ مرغ کی ہڈی کی سفیدی ان سب چیزوں کو کڑھی میں



ڈال کر روغن زیتون کے ساتھ ملا دیں اور مرہم کا سا قوام کر کے اتار لیں اور زخم پر تین دن متواتر لگاویں، پھر ایک دن چھوڑ کر لگا لیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ آرام ہو جاوے گا زور جو زخموں کو مندرل کرتا ہے۔ لبان، انزروت، ماجو، سمر، کافور، پھٹکڑی، پوست انار سب کو باریک پیس کر دھوڑا بنالیں اور زخم پر چھڑکیں، مرہم جو زخم کو بند کرتی ہے مردہ سنگ موم، لوبان۔ سب کو پیس کر روغن زیتون میں ملا لیں۔ اور مرہم کا قوام کر کے کام میں لاویں مرہم جو کانٹے وغیرہ کو نکال دیتی ہے۔ پھٹکڑی باریک پیس کر چھان کر انڈے کی سفیدی سے ملا دیں اور اس جگہ کو جہاں کاٹا چھاسا ہوا سوپانی سے ترکیں اور اس پر اس مرہم کا پھایا لگائیں۔ اور دو چار گھڑی باندھا رکھیں۔ یہ کانٹے کے نکالنے میں مجرب ہے نیز یہ مرہم زخموں کے بھرنے میں مجرب ہے۔ سفیدہ کاشغری پانچ درم اور کافور چار درم موم پانچ درم سب کو روغن زیتون میں ملا کر حسب دستور مرہم بنالیں۔

## تیسرا باب دماغ کی خشکی کے علاج میں

اس میں آٹھ فصلیں ہیں۔

دماغ کی خشکی کے یہ معنی ہیں کہ انسان کو اپنے دماغ پرے اور آنکھوں میں ایک بوجھ سا معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات ہڈیاں اور بیہودہ گوئی تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ جب یہ حالت مستحکم ہو جاتی ہے تو عقل اور قوت بصارت میں فرق آ جاتا ہے اس کا سبب دماغ کی خشکی ہوتی ہے علاج شہد مصفا جھاگ دور کی ہوئی اور روغن زرد خالص عرق گلاب ہر ایک مساوی۔ سب کو نرم آگ پر پکا کر جب جلوے کا سا قوام ہو جائے اتار لیں اور ہر رات سونے کے وقت استعمال کریں۔ یہ دماغ کو نرم کرتا ہے اور اس کے جوہر کو بڑھاتا ہے اور قوت بصارت کو تیز کرتا ہے۔ باہ کو طاقت دیتا ہے اعضاء کو مضبوط کرتا ہے اور یہ صحیح اور مجرب ہے۔ اگر انڈے کی زردی روغن زرد اور شکر تری ہر ایک مساوی کے کراسنی طرح حلوانا کر استعمال کیا جاوے تو یہ بھی وہی فائدہ دیتا ہے نشاف کا علاج یہ ایک سخت مرض ہوتی ہے جو بخار کے بعد یا کسی وجہ سے سخت گرمی پینچنے

کے بعد یا جنون کے بعد ہو جاتی ہے اور اس مرض والا سردی کو بہت پسند کرتا ہے اور سرد ہوا میں سوتا چاہتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے سر کے بال گدی سے لے کر تانوتک ایسے ہی پیشانی سے لے کر تانوتک مونڈ ڈالیں پھر وسط دماغ پر زنا کو چھرا نکل مضموم کے برابر داغ دیں۔ اسے دائیں اور بائیں کان کے پیچھے ہی اور گدی کے بل لٹائیں اور شذ قرہ کا عرق نکال کر اس کے کانوں میں ڈالیں۔ اگر یہ میسر نہ ہو سکے تو ابابیل کا گوشت خشک کر کے باریک پیسیں۔ اور اس میں تھوڑی سی فرنیوں اور تھوڑا سا چوتہ اور مرغ کی خشک بنجال (بٹھ) لیں اور انڈے کی سفیدی سے گوندھ کر اس کے ناک اور منہ میں ڈالیں اس کی وجہ سے خون جاری ہو جائے گا اور درد سے چمائے گا اور انڈے کے فضل سے اچھا ہو جائے گا۔ ایضاً مولیٰ لے کر باریک پیسیں اور عورتوں کے دودھ میں ملا کر سر پر ضماد کریں اچھا ہو جائے گا۔

ملہوت کا علاج ملہوت کے واسطے یہ نصف دائرہ اور وہ اسماء جو اس کے بیچ میں لکھے صحیح و مجرب ہے۔ اس کو لکھ کر مریض کے سر پر یا مریض کے کسی عضو پر ٹکائے رکھیں نصف دائرہ یہ ہے۔



شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب کوئی ملہوت آدمی جس کی عقل زائل ہو چکی ہو تیرے پاس آوے تو اس کے واسطے یہ آیت لکھ دو تو فی الفور اچھا ہو جائے گا۔ وَنَفَعَنِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔

یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ صفراوی و سوداوی، صفراوی کی علامت کثرت کلام و ہڈیاں ہے جس کو وہ خود نہیں سمجھتا۔ لوگوں پر حملہ کرتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو پتھر مار کر قتل کر دیتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہر دماغ کم ہو جاتا ہے

سلہ اور زسنگا میں پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے بیہوش ہو کر گر پڑیں گے سوا اس شخص کے جسے خدا بچانا چاہے۔

اور خلط صفراوی کے بڑھ جانے سے دماغ میں خشکی آجاتی ہے۔ علاج مریض کو ایک کمرہ میں جو ہوا سے محفوظ ہو بند کر دیں۔ اور اس کے دماغ پر دودھ دو ہیں نیز گائے کے بھن میں بیٹھا ملا کر اس کے دماغ اور تمام بدن پر مالش کی جاوے اور وہ صلاوہ جو ہم نے خفتہ الراس و خشکی دماغ میں ذکر کئے ہیں۔ کھلاویں۔ نیز انڈے کی زردی میں روغن زرد و بیٹھا ملا کر غذا کے طور پر مریض کو کھلاویں۔ اور گندم کی روٹی اور دودھ اور شکر تری غذا کے طور پر کام میں لاویں۔ رات کو سوتے وقت سرد تر روغنوں کی مالش کریں تاکہ سو جاوے اور جب تک خود بیدار نہ ہو بیدار نہ کریں۔ اس علاج سے بفضل الہی طبیعت مریض کی اعتدال کی طرف راجع ہو جائے گی سو داوی کی علامت یہ ہے کہ مریض ڈرتا ہے۔ اکثر خاموش رہتا ہے۔ خلوت پسند کرتا ہے۔ قبرستان وغیرہ غیر آباد مقامات میں رہنا پسند کرتا ہے۔ تفکرات و وساوس رودیہ اسپر غالب رہتے ہیں کسی جگہ میں ایک ساعت سے زیادہ نہیں ٹھہرتا۔ بعض وقت روتا ہے چلتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں خلط سوداوی ردی زیادہ ہو جاتی ہے جس سے دماغ کی رطوبات خشک ہو جاتی ہیں۔ علاج اس کا یہ ہے کہ مریض کو بالا خانہ وغیرہ اونچے مقامات میں رہنے کو جگہ دیں جس میں ہوا اور روشنی کافی پہنچتی ہو۔ اور اس کے سامنے خوشبودار پھول رکھے رہیں اور اغذیہ چرب و مرغن کھلائی جائیں۔ دودھ، روغن زرد، عمدہ گوشت کا استعمال رہے اس کے سامنے پاکیزہ کلام و دلکش حکایات کہی جائیں اور خوش الحان آوازوں و نغموں سے اس کا دل خوش کیا جاوے اور اس کے دماغ و بدن پر سرد تر روغنوں کی مالش کی جاوے اور تاکہ طبیعت بہ فضل شافی مطلق اعتدال کی طرف لوٹ آوے۔

## امراض سر کے بیان میں

سر درد کو کہتے ہیں۔ اگر انسان کے سر میں دائیں طرف درد ہو تو صفراء سے **صداع** ہوگا۔ اگر بائیں طرف ہو تو سوداء سے اور اگر سارے سر میں ہو تو خون کا باعث ہوگا۔ اس حالت میں اگر دونوں کنپٹیاں یا ایک کنپٹی میں ضرب پڑے اور آدھا سر درد کرے تو اس کو شقیقہ کہتے ہیں۔

**علاج** | لیموں، اینون، زعفران کو سرکہ و عرق گلاب میں گھس کر دونوں صدغین (کپٹی) پر طلا کریں اگر ہو سکے تو خواب کرے۔ انشاء اللہ فی الفور افاقہ ہو جائے گا۔ صبح و مجرب ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ اگر سرد سردی سے ہو تو گرم روغنوں کی مالش کریں اگر گرمی سے ہو تو سرد روغنوں کی مالش کریں۔ نیز حکماء کا خیال ہے کہ اگر سردی صفاوی ہو تو اسہال کڑا چاہیے اگر غلبہ خون کی وجہ سے ہو تو خون نکالنا چاہیے اگر شدت حرارت سے ہو تو روغن گل، عرق کافور سے یا روغن کدو سے مالش کرنی چاہیے۔ اگر سردی سے ہو تو روغن زیتون ملنا چاہیے۔

## درد سردی صفاوی کے بیان میں

ایسے مریض کو شربت انار پلانا چاہیے کہ فی الفور تسکین دیتا ہے سردی کے وقت سر اور دار ٹھی میں کنگھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلونجی لے کر ایک لطیف کپڑے میں باندھیں اور اس پر پانی ڈال کر چوڑ کر اس کے قطرے نتھنوں میں ڈالیں۔

ایضاً۔ کلونجی باریک پیس کر روغن زیتون میں ملاویں اور چوڑ کر وہ تیل مریض کے نتھنوں میں ڈالیں۔

اگر آفتاب کی گرمی سے ہو تو روغن گل اور سرکہ، زعفران، مولیٰ کا پانی سب کو ملا کر سائے سر پر پالش کریں۔

**علاج**۔ اس سردی کا جو سفر میں حرارت آفتاب سے ہو گیا ہو۔ انڈے کی سفیدی روغن گل میں ملا کر سر پہ پٹا سا لپیپ کر دیں کہ فی الفور آرام ہو جاوے۔

اگر حمام کی گرمی سے ہو جاوے تو نہار شربت انار پینا چاہیے اور روغن گل مالش کریں اور معجون دبر دکھائیں علاج اس سردی کا جو سردی یا سرد موسم میں ہو جاوے سکم تیل کی مالش کی جاوے کلونجی کا دھواں ناک میں لیا جاوے چھندر کا پانی ناک میں ڈالا جاوے۔ صبر سنقوٹری و کافور کو باریک کر کے روغن زیتون میں ملا کر سر پہ طلا کیا جاوے ایضاً

حمل کے پتے جوش دے کر سر پر باندھ دیں اور پہلے روغن زیتون مل لیں اور جو حمل کو چاکر سر پر باندھیں۔ ایسا شجر مریم کے کر روغن زرد کے ساتھ چکادیں اور سر پر لپیپ کریں فی الفور آرام ہو جاوے حکماء کا قول ہے کہ صفراوی سردرد کا سبب یہ ہوتا ہے کہ صفراوی بخارات سر کی طرف چڑھتے ہیں۔ کیوں کہ سر جسم کے لیے ایسا ہے جیسا ہانڈی پر سر لوشی پھر جب معدہ کے بخارات دماغ کی طرف پہنچتے ہیں تو اس سے دماغ میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ بلغمی سردرد کے لئے زینون، انیون، زعفران، مرزنجوش ہر ایک مساوی لے کر باریک پس کر پانی سے گولیاں بنا رکھیں، وقت ضرورت سر کہیں گھس کر سر پر پتلا سا لپیپ کریں۔

ایسا حمل کے پتے کوٹ کر، سر کو مونڈنے کے بعد اس پر ضماد کریں۔ ایسا تھوم کے پتے باریک پس کر سر پر ضماد کریں ایسا گل سرخ، مصطکی، تیج، حب بلسان، زعفران، اذخر، اطرون سنبل، صبر ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا لے کر نوڈ سے میں باریک گھوٹ کر شہد خالص میں مبعون تیار کریں۔ اور ہر رات بغیر ایک اوقیہ استعمال کریں اور روغن بنفشہ سے مالش کریں۔ ایسا۔ مولیٰ کو روغن زیتون میں جلا کر تیل کو صاف کر کے سر پر مالش کریں۔

**قوت دماغ کے واسطے شونیز، خرقہ، قرفل، سنبل ہندی سب کو باریک پس کر شہد میں ملا لیں اور رات کے وقت دماغ پر رکھیں، یہ دماغ کو مضبوط کرتا ہے بصارت کو بڑھاتا ہے۔** فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص چالیس دن صبح کے وقت ہر روز ایک شقال حمل استعمال کرے اس کے دل سے حکمت کا نور روشن ہوتا ہے اور بہتر بیماریوں سے امن میں رہتا ہے۔

## سردرد اور آنکھوں سے آنسو بہنے کے علاج میں

پھنگری سفید نمک۔ ہندی، سب کو باریک پس کر اور بیماری کے سر کے بال مونڈ کر اس دوا کا سر پر لپیپ کریں بفضہ تعالیٰ جلدی اچھا ہو جائے گا۔ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلونجی کو لازم کپڑو۔ کیوں کہ وہ موت کے سوا ہر بیماری کی دوا ہے نیز نفخ کو تحلیل کرتی ہے۔ کپڑوں کو قتل کرتی ہے۔ اگر کسی کپڑے میں باندھ کر سوئگی جائے تو زکام کو

فائدہ دیتی ہے۔ مسوں کو قطع کرتی ہے۔ پیشانی پر لپیپ کرنے سے سردرد کو دور کرتی ہے اور ام بلغمیہ کو دفع کرتی ہے۔ ساگر سر کے ہیں پس کر دانتوں کی درد والا غرارے کرے تو دانتوں کی درد کو فائدہ دیتی ہے۔ پیشاب کو جاری کرتی ہے۔

## نسخہ سردرد کے لیے

زیتون کے پتے اور اس کی جڑیں دونوں کو پانی میں ڈال کر پکائیں اور گرم گرم پانی سے سردرد والے کو غزغزے کرائیں تو فوری طور پر درد رفع ہو جائے۔ ایضاً نعناع (کھٹی انبی) کو آگ پر گرم کر کے پیشانی پر ضماد کرنے سے بھی سردرد کو تسکین ہوتی ہے۔ ایضاً بیڑے کا چمڑا مریض کے سر پر ٹکائے سے بھی سردرد کو آرام ملتا ہے ایضاً سر کے بال موند کر اس پر تھوڑا زعفران لوبان باریک پیس کر سر پر ضماد کرنے سے بھی سردرد کو تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایضاً روغن بابونہ۔ روغن گل کی مالش سے بھی سردرد جاتا رہتا ہے۔ ایضاً نیز زعفران۔ عود، سباس، لوبان، مصطکی، سعد کونی، میصر یا لبہ بہ قسط تخم ریحان سندروس ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا لے کر پانی میں پیس کر پیشانی پر ضماد کریں ایضاً اس رسیا زبوں کے پتے سر کے میں گھوٹ کر سر پر لگائیں۔ ایضاً عرق گلاب، روغن گل، سرکہ بقدر ضرورت لے کر اسی کا کپڑا بھگو کر کنپٹیوں پر رکھتے جائیں انشاء اللہ آرام ہو جائے گا ایضاً جو کا آٹا تیز سر کے میں ملا کر سر پر ضماد کریں۔ ایضاً مصطکی باریک پیس کر گندم کے آٹے میں ملا کر اور انڈے کی سفیدی ڈال کر پیشانی پر ضماد کریں۔

سکنجبین۔ فلفل، بلٹھی، حب راسن، بادام سب کو کوٹ کر تین دن دماغ پر لپیپ کریں سردرد کے لئے دسبے کی رائیں

## درد دماغ کا علاج

پنڈلی کا موہرا لے کر مریض کے سر پر لگا دیں۔ ایضاً مرغ کے پتے سے مریض کے سر پر مالش کریں ایضاً صندل، کافور، ہر دو کو عرق گلاب میں پیس کر پیشانی پر ضماد کریں ایضاً اگر گرمی سے ہو تو کدو کا پانی پیئے اور اسی کے ساتھ سر دھونے سے سردرد دور ہو جاتا ہے۔ ایضاً دائیں انگلی سے بائیں دڑ پڑی مکن ٹی اور انگوٹھے سے دائیں کن ٹی کو پکڑیں۔ پھر یہ سورت پڑھیں تو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایتہ خاشعاً متصدعاً من خشية الله —  
الی آخر سورہ حشر پارہ ۲۸ پھر یہ پڑھے اللہ نور السموت والارض مثل نورہا کمشکوہ یتھما

مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحِ فِي رَجَابِ الزُّجَاجَةِ كَانَهَا كَوَكَبٌ بَدِيٌّ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ  
 زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيئُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَهُ نَارٌ وَنُورٌ عَلَى نُورٍ  
 يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَمَنْ  
 يَمُوتُ أَذِنَ اللَّهُ أَن تَنفَعَهُ أَرْتَفَعَهَا لِيُجْعَلَ لَهَا خَوْفٌ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَيْضًا  
 وَمُكْرَمَةً وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بِرُحْمَةٍ - بِسْمِ اللَّهِ خَيْرٌ أَلَّا تَسْمَعُ بِسْمِ اللَّهِ  
 رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ اِسْمُهُ بَرَكَتُهُ وَشَفَاءُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا تَضُرُّهُ مَعْرِ اِسْمِهِ  
 شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - اس کو تین یا سات دفعہ پڑھے۔

## باب آنکھوں درد سر کا علاج لکھنے سے

یہ صروت لکھے ا ح ا ل ح ح ح ا م ا ا - اور سر پر ٹسکاوے ایضاً رقیقہ رحمتہ اللہ  
 کا قول ہے کہ جو شخص ہرن کے چرٹ پر میں دفن دیکھے اور اس کے ساتھ یہ آیت القدر الی ربک  
 کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَنُورًا جَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَا إِلَيْنَا  
 قَبْضًا سَبِيْرًا اُسْکُنْ اَيْهَا الْمُصْداغُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي يَقُولُ لِلسَّاکِنِ اصْرِبْ وَ لِلصَّارِبِ  
 اُسْکُنْ کسی کاغذ پر لکھ کر قسط لاون مصطکی سے دھونی دے اور مرین کے سر پر ٹسکاوے بفضل

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) لہ اشدا کمانوں اور زمین کا روشن کرنا والا ہے اور اسکا نور ایک چراغ کی طرح ہے اور چراغ قندیل میں  
 قندیل شیشہ میں گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے مبارک درخت زیتون سے جو کہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی جدا یگی ہے ایسے شفاف  
 تیل ہے کہ عین ہے کہ بغیر آگ چھونے سے روشن ہو جائے نور پر نور ہے اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا  
 ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثال کے طور پر یہ باتیں بیان فرماتا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے ایسے گھروں میں  
 جن کی رفعت اور بلندی خدا کو منظور ہے اسے دروازہ کی مدد اور قوت کے ساتھ دور ہو جا۱۲ لے کیا تو اپنے رب کی طرف  
 نہیں دیکھتا کس طرح اس نے سایہ پھیلا یا ہے اگر چاہتا تو اسے تھما دیتا پھر ہم نے سورج کو اس پر نشان کر دیا پھر اس کو  
 ہم نے اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچ لیا ابے مرض تکلیف اور صدق اس عظیم خدا کی مدد سے جو پھری ہوئی چیز کو  
 حرکت اور چلتی کورکنے کا حکم دیا ہے ٹھہرا - ۱۲

خدا شفا ہو جاوے۔ کسی کاغذ پر لکھ کر یہ آیت اَلْمُتَرَاتِلِي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْفِطْلَ وَكُنُشَاءَ جَعَلَهُ سَاكِنًا  
 اُسَلُنْ اَيُّهَا الصَّدَاغُ بِعَوْلِ اللّٰهِ وَقُوْتِهِ وَبِحِرْمَةِ النُّوْشِ قُرْبُوْشِ قُرْبُوْشِ يِرْشُوْشِ اِنُوْشِ اِهْيَا  
 تُوْشِ كَثْرِيُوْشِ اُسَلُنْ اَيُّهَا الْوَجْعُ عَنِّ حَامِلِ كِتَابِي اَللّٰهُمَّ اَكْفِ وَاَشْفِ حَامِلِ كِتَابِي هَذَا  
 اس کے ساتھ شامل کرے کہ اسے سر درد و اس کے حول اور قوت اور انوش فروش، بروش، انوش،  
 ایاش، ترش، تریش کی طفیل سے ٹھہر جائز اس کو کسی کاغذ پر لکھ کر مرغن کے کسی عضو پر باندھ دے  
 ابو موسیٰ کا یہ مجرب ہے۔ اور درد صداع کے بارہ میں ایک اور عجیب علاج ہے کہ بسم اللہ پوری  
 لکھ کر کہیں یعنی سورۃ مریم کے شروع سے لفظ حَفِيًّا تک لکھ کر بسم اللہ پوری سورۃ حم عسق شروع  
 سے لفظ یٰحٰم تک لکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مَن نِّعْمَةِ اللّٰهِ عَلٰی كُلِّ قَلْبٍ حَاشِعٍ وَكُوْمِيْنَ  
 نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلٰی كُلِّ عَرَقٍ سَاكِنٍ وَغَيْرِ سَاكِنٍ اُسَلُنْ اَيُّهَا الْوَجْعُ بِحَقِّ مَنْ سَكَنَ لَمْ يَمَّا فِي  
 اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهِيَ السَّمِيْعَةُ الْعَلِيْمَةُ وَفِي رِوَايَةٍ بَعْدَ الْبِسْمَلَةِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَلْسُ مَنْ  
 ذِكْرًا وَلَا يَنْسَى مَنْ نَسِيَ اَيْضًا تَعْوِيْذِيْلٍ كُوْتَبَاوُكِي نَكْرِيْ پَر لِكُوْمَرِيْضِيْ كِي سِرِّيْ سَاكِيْنِيْ۔  
 تعویذ یہ ہے ﴿﴾ مَنفَعْل اَيْضًا اَنْوَارِ كِي رُوْزِيْ عَزِيْمِيْ لِكُوْمَرَانْدِيْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ  
 الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الْاَحَدِ الْاَقْمَدِ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَكُلُوْ يُوْلَدُ وَكُلُوْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ اَحَدًا اَللّٰهُمَّ  
 اِشْفِ فُلَانٌ بِنِ فُلَانٍ مِنْ سَدِّ جَمِيْعِ الطَّوَارِقِ وَاَوْجَاعِ الْمَرَّاسِ بِعَوْلِكَ اِنَّ الْاَمْرَ

۱۔ اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتیں اسی سے خون کرنے والے اور ڈرنے والے دلوں پر اور حرکت کرنے والے اور ٹھہری ہوئی  
 رگوں پر موجود ہیں اسے درد اس خدا کی طفیل جس کے لیے رات اور دن ساکن ہیں اور وہ سننے جاننے والا ہے ٹھہر  
 جا اور بعض نے بیان کیا ہے کہ اس آخری بسم کے بعد پہلے یہ کلمات کہے پاک ہے وہ ذات جو نہ تو اپنے ذاکر کو  
 کو بھوتا ہے اور نہ ان کو فراموش کرتا ہے جو اس سے غافل ہیں یہ سب کچھ لکھ کر اگر جائے درد پر باندھا جائے  
 تو انشاء اللہ کلی شفا نصیب ہوگی ۱۲۔ اللہ اکیلے بے نیاز کے نام کے ساتھ جس نے نہ کسی کو جانا کسی سے جانا  
 کیا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اسے اللہ فلاں شخص فلاں کے بیٹے کو تمام قسم کے حادثات اور سر کی درودوں  
 سے اپنی مدد اور قوت سے شفا عطا کر یقیناً حکم تیرے ہاتھ ہے فلاں شخص سے ہر قسم کی دردیں اپنی مدد  
 اور قوت سے دور کر دے ۱۳



بِيَدِكَ وَأَذْهَبْ عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ جَمِيعَ الْأَوْجَاعِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ أَيضًا۔ جمعرات کے روز یہ عزیمت رقم پر لکھو۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبِّ الْخَلْدَيْنِ أَجْمَعِينَ صَرَفَ عَنْ حَامِلِ كِتَابِي هَذَا الْمَرْءَ يَجِدُ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا شَافِيَ اشْفِهِ وَعَافِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَشْفِهِ۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے زمانہ میں جب نوشیرواں مارا گیا تو اس کی ٹوپی حضرت عمرؓ کے پاس لائی گئی اور کہا گیا اسے امیر المؤمنین یہ نوشیرواں کی ٹوپی ہے۔ جب وہ بیمار ہوا کرتا تھا تو اس کو مہر پر رکھ لیتا تھا اور اچھا ہو جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا نوشیرواں کی ٹوپی سر پر رکھنے سے شفا ہو جاوے یہ عجیب ہے اس کو پھاڑ دو، جب پھاڑی گئی تو اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَوَدُّدُهُ وَبُزْهَانٌ وَحِكْمَةٌ وَسُلْطَانٌ يَا هَادِيٍّ مَنِ اهْتَدَى يَأْمَنُ لَدَيْنَا مُرْتَدًّا أَوَّالِدًا اللَّهُ عِيسَى رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، لَدَالِدًا اللَّهُ مُحَمَّدٌ سَوَّلَ اللَّهُ وَجِبْتًا أَسْكَنَ آيَهَا الصَّدَاقُ بِالَّذِي سَكَنَ لَهُ مَانِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

ایضاً یہ عزیمت شہر رمضان کے آخری جمعہ کے روز لکھ کر رکھ چھوڑیں اور بوقت ضرورت کام میں لادیں عزیمت یہ ہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَللّٰهُمَّ تَزَلُّ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلُّ إِلَى يَسِيرًا اَيْضًا اَسْ كُو لِكُو كَرِ اَسْ رَكِ هِي بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الْمَنَّانِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحِيْمِ الْمَكَانِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي

لے اللہ کے نام کے ساتھ اسے اللہ رب جبرائیل و میکائیل اور کل خلقت کے اس میرے تعویذ کے اٹھانے والے سے سب قسم کے درد جو وہ محسوس کرتا ہے اپنی مدد اور قوت سے دور کر دے تحقیق تو ہر چیز پر قادر ہے اسے شافی اسے شفا دے اور معاف فرما اللہ کے نام کے ساتھ اس کو دم کرنا ہوں اللہ اس کو شفا عطا کرے اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں نور ہے اور قدرت و دلیل و حکمت و بادشاہ اسے ہدایت کے متلاشی کو ہدایت کرنے والے اسے وہ ذات جو کبھی ستوا نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا روح اور کلمہ ہے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت کے نہیں محمد اللہ کے رسول اور دوست ہیں اسے درد اسی مولا کے نام کی برکت سے جس کے لیے دن اور رات ساکن ہیں رک جاوے اللہ سب سے زیادہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ۱۲۔

لَا يَشْعَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ شَصَعَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ اللَّهِ وَإِلَّا لَدَارِ اللَّهِ نَفَدَتْ حُجَّةَ اللَّهِ وَخَمَرَ  
 أَمْرُ اللَّهِ وَتَفَرَّقَ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَبِفَضْلِ وَجْهِ اللَّهِ أُخْرِجَتْ أَيُّهَا الْوَجْعُ مِنَ الرَّأْسِ عَنْ حَامِلِ  
 كِتَابِي هَذَا بِحَقِّ حَقِّ اللَّهِ وَبِحَقِّ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا جَزَى بِهِ الْقَلَمُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَى خَيْرِ خَلْقٍ  
 اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَتَمَّ الْأَوْجَعُ مِنَ الرَّأْسِ عَنْ حَامِلِ  
 كِتَابِي هَذَا كَمَا سَكَنَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ  
 أَعُوذُ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَكَوْشَاءَ جَعَلَهُ سَاكِنًا إِنْ يَشَاءُ السِّكِّينِ الرِّيحِ وَيَأْتِيكَ عَنْ  
 الْجِبَالِ لَفْظَ آمَنَّا بِكَ سُوْرَةُ طه پاره سولہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ... درود شقیقہ و

درود سر کے لیے ریشم کے کپڑے پر عدون ذیل لکھ کر مریض کے سر پر ٹکاوں رکھنا اور زہاج الف  
 انشاء اللہ شفا ہو جاوے خاص درود شقیقہ کے لیے یہ آیت پڑھے ۱۰ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتُخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ ایضا۔

شیخ عبدالسلام کا قول ہے کہ اگر ابیات ذیل چاندی کی انگوٹھی میں چاندنی راتوں کے زمانہ میں نقش کریں  
 تو امراض سر سے لے کر امراض ناخن تک دور ہو جاتے ہیں اور اگر لوہے کی انگشتری میں شرط مذکور سے  
 نقش کریں تو زان سے لے کر قدموں کے امراض تک دفع ہو جاتے ہیں چاندی کی انگوٹھی کو سر پر باندھنا  
 چاہیے اور لوہے کی انگشتری کو زان پر اشعار حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ترجمہ عظیم الشان محسن خدا کے نام سے اس بلند مکان والے اللہ کے نام سے جسے ایک کام دوسرے کام سے  
 روک نہیں سکتا زمین اللہ کے نام سے روشن ہو گئی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اللہ سے حجت  
 جاری ہو چکی اس کا حکم ظاہر ہو چکا۔ اللہ کے دشمن بگڑ گئے اسے درد اس تعویذ والے شخص کے سر سے اللہ کی  
 بزرگی کی وجہ سے نکل جا اللہ کے حق اور اللہ کے چہرہ کے حق اور ان چیزوں کے حق سے جن پر اللہ کے پاس سے آج  
 تک قلم جاری ہو چکی ہے خلقت میں سب سے بہتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد اور اصحاب  
 تک درد اس تعویذ والے شخص کے سر سے ٹھہر جائیے رحمن کا عرش ٹھہر گیا اور اسی کے لیے ٹھہر گیا جو کچھ  
 کہ دن اور رات میں ہے اور وہ سننے جانتے والا ہے کہ کون کسما نوں اور زمینوں کا رب ہی کہہ دے اللہ کہ کیا  
 تم اس کے سوا ایسے والی بناتے ہو جو اپنی جانوں کے نفع اور نقصان کے سوا کچھ نہیں۔

حَاشَا أَنْ يُحَرَّمَ الرَّاجِحُ مَكَارِمَهُ  
وَمَذُومَاتُ أَفْكَارِهِ مَذَاحَهُ  
وَلَكِنْ يَقْوَتْ الْغِنَى مِنْهُ يَدًا تَدْرِبُ  
وَلَعَوَارِدُ رَهْدِ الدُّنْيَا الَّتِي وَأُقْبِطَتْ  
أَوْ يَرْجِعُ الْعَارُ مِنْهُ غَيْرَ مَحْتَرِمٍ  
وَحَدِيثُ لِيَخْلَا صِحِّي خَيْرٌ مَلْتَرِمٍ  
إِنَّ الْحَيَاءَ يُنْبِتُ الْإِرْهَادَ فِي الْأَكْمَرِ  
يُدْزُهُ بِمَا أَتَى عَلَى حَرَامِهِ

ترجمہ وہ اللہ پاک ذات ہے کوئی امیدوار اس کے احسانوں سے محروم نہیں رہتا اور کوئی اس کی ذات کے ساتھ پناہ لینے والا بے عزت نہیں ہوتا جیسے میں نے اس کی ثنا صفت کو اپنے اوپر لازم کیا ہے اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے بہتر نسخہ پایا ہے کوئی تنگ دست اس کی بارگاہ سے فراخی کے بغیر نہیں آتا تحقیق زندگی شگوفوں کو پردوں میں اگاتی ہے میں کھوجانیوالی دنیاوی زینت کا طالب نہیں ہوں جس کی زہیر شاعر نے بڑھاپے کے وقت دعا کی تھی۔

## باب دسواں

سرد کے علاج میں۔ اگر انسان کی حالت اٹھتے وقت ایسی ہو جاوے کہ آنکھوں میں اندھیرا آجاوے اور سر میں چکر آجاوے یہاں تک کہ گرنے کے نزدیک آجاوے بلکہ بعض اوقات گر پڑے تو ایسی بیماری کو سرد کہتے ہیں۔ اس کا سبب خلط صفراوی ہوتی ہے جو معدہ میں بند ہوتی ہے علاج اس کا یہ ہے کہ نہار کے وقت لیموں کا عرق پیٹھا ملا کر پلائیں اور ہر روز قے کریں تاکہ خلط صفراوی نکل جائے ہر ایک گرم و تیز چیز سے پرہیز رکھیں اور گائے کا دودھ اور گندم کی روٹی کھایا کریں ایضاً یہ عزمیت لکھ کر مریض کے سر پر باندھ دیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ اٰلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ لَفْظٌ وَبَيِّنَةٌ لِّكُلِّ رَحْمٰنٍ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِیْ بِسْمِ اللّٰهِ الْمَعٰنِیْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔ ایضاً کاغذ پر لکھ کر مریض کے سر پر لٹکایا جاوے اللّٰهُمَّ يَا مَنْ لَا يَنَامُ

لے اور ہم قرآن سے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت نازل کرتے ہیں اس سے اگلی آیت کا ترجمہ گزر چکا ہے۔

(تفسیر حاشیہ صفحہ آئندہ)

وَلَا يَخَافُ وَلَا يَمُوتُ وَلَا يَغْفِلُ اسْفِ عَبْدَكَ هَذَا فَإِنَّهُ يَخَافُ وَيَنَامُ وَيَعُونَ وَيَغْفِلُ  
 اسْتَفِيهِ مِنْ كُلِّ صُرْفَةٍ وَعِلَّةٍ وَدَاءٍ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ  
 وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اَوْقُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ ه مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ  
 شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اَوْقُلْ  
 اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْمَوْسُوئِينَ الْعَنَافِينَ الَّذِينَ  
 يُوسُّوْنَ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ -

## گیارہواں باب

قرع (گنج) کے علاج میں اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ مشہور و معروف  
 ہے علاج یہ ہے۔ نیاز بو، صنوبر کے بیج، مہندی، گھوڑے کا پیشاب کنیر کے پتے۔ شہد  
 بقدر ضرورت لے کر سب کو ملا کر مریض کے سر پہ مالش کریں۔ اور رات بھر رہنے دیں۔ صبح کے  
 وقت گرم پانی سے دھو ڈالیں ہر روز اسید پڑی کرتے رہیں یہاں تک کہ آرام ہو جاوے۔  
 ایضاً۔ برگ ریجان، برگ صنوبر، برگ کنیر سب کو گلے کے بول سے خمیر کر کے  
 مریض کے سر پہ لگائیں۔ کم از کم دس دن تک ایسا ہی کریں ہر روز رات کو لگایا کریں اور صبح گرم  
 پانی سے دھو ڈالیں کریں۔

ایضاً کچی میتھی لے کر باریک پیسیں اور روغن تار میں ملا کر مریض کے سر پہ ضاد کریں۔ رات  
 روز تک ایسا ہی کریں امید ہے کہ نئے بال پیدا ہو جائیں گے یہ صحیح و مجرب ہے۔

ایضاً بیخ انجیر برگ انجیر، دونوں کو ملا کر کڑا ہی میں ڈالیں۔ پھر اس پر روغن زیتون اتنا

لے اللہ کے نام کے ساتھ جو کافی ہے عافیت دینے والے رب کے نام کے ساتھ نہیں طاقت گناہوں سے  
 رکھنے کی اور نہ قوت اطاعت کی مگر اللہ بلند ذی شان کی مدد سے ۱۲۱۱ سے اللہ جو کہ نہ موتا ہے نہ خوف  
 کرتا ہے نہ اس کے لیے موت ہے اور نہ غافل ہے اس بندہ کو شفا دے کیونکہ وہ ڈرتا ہے اور سوتا ہے  
 سرے گا اور غفلت کرتا ہے اس کو ہر تکلیف دکھ و بیماری سے شفا بخش تو سننے اور جاننے والا ہے۔

ڈالیں جس سے پہلی دوا پوشیدہ ہو جاوے، پھر خوب جوش دیں اور نیچے آنا کر اس میں بکری کی چربی، رال، چونہ، گندھک، تھوڑی تھوڑی ڈالیں۔ پھر آگ پر چڑھا لیں اور مرہم کا سا قوام کر کے آند لیں اور اس میں سے گنچ کی جگہ پر طلا کریں۔ صحیح و مجرب ہے۔

ایضاً گائے کا بھیجا دزن ایک دینار، پٹرنال سرخ نصف اوقیہ، گندھک نصف اوقیہ، روغن تارپن، جس سے یہ دوائیں تر ہو جاویں تین انڈوں کی زردی سب کو ملا کر مرہم کو سر پر طلا کریں۔

## بارہواں باب سر کے زخموں کے علاج میں

میتھی کے پانی سے سرد ہو یا کریں کہ اس سے زخم بہت جلد اچھے ہو جایا کرتے ہیں۔

ایضاً۔ مہندی ایک اوقیہ، پھٹکڑی ایک مثقال۔ دونوں کو پیاز کے پانی اور سرکہ میں پیس کر سر پر لگائیں۔ اگر زخم ہو تو روغن گل میں پیس کر لگا دیں۔

ایضاً کافور ایک حصہ۔ لیموں کا پانی ملا کر سر پر لگا دیں۔ اگر لیموں نہ ہو تو سرکہ میں۔

ایضاً گائے کا پتہ سر پر طلا کرنے سے بھی سر کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں۔

## تیرہواں باب سر اور بدن کی جوئیں وغیرہ کے علاج میں

سمندر کے پانی سے یا پانی میں نمک ملا کر اس جگہ کو دھوئیں یا مولی کے شیرہ میں روغن زیتون ملا کر اور تھوڑا سا قرحا پیس کر موضع ماؤن پر ملا کریں۔

ایضاً مہندی، کافور، دونوں کو پیس کر پانی میں ملا کر سر پر طلا کریں بہ شکر طبع جوئیں سر میں ہوں اور اگر سارے بدن میں ہوں تو مردہ سنگ، کافور، روغن زیتون، سرکہ تیز، بقدر ضرورت لیں۔ کافور اور مردہ سنگ کو سرکہ میں خوب ملا دیں اور روغن زیتون اضافہ کر کے بدن پر طلا کریں۔

ایضاً بدھ کا تاج بے کراگ پر جلا دیں اور حلوسے سے ملا کر سر پر طلا کریں۔

ایضاً کافور، مہندی، دونوں کو پیس کر روغن زیتون میں ملا دیں اور موضع ماؤن پر طلا کریں۔

ایضاً کمیز کے پتے خشک کر کے پس کر روغن زیتون میں ملا کر موضع ماوت پر ملا کریں۔  
 ایضاً صنوبر کی چھال باریک پس کر روغن زیتون میں ملا کر ملا کریں۔  
 ایضاً موی کے شیرہ سے سر اور بدن کو دھوئیں۔  
 ایضاً کافور آگ پر رکھ کر اس کے بخارات موضع ماوت تک پہنچادیں انشاء اللہ جو نہیں  
 مر جائیں گی مجرب ہے۔

## چودہ ہواں باب بالوں کی اصلاح میں جو سر یا دڑھی سے گر پڑیں

بالوں کی اصلیت بخارات ہیں جن کو طبیعت فالتو سمجھ کر اندر سے بالوں کے اگنے کی جگہ  
 پر پھینک دیتی ہے۔ پس اگر اخلاط صالح اور معتدل ہوں تو بال اپنے رنگ اور ماہیت میں اچھے  
 ہوتے ہیں اور اگر اخلاط میں خشکی زیادہ ہو جائے تو بال پھٹ جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں۔  
 اسبغول کا لعاب نکال کر روغن زیتون ملا کر استعمال کیا کریں اس سے بال نرم  
 اور خوب صورت ہو جاتے ہیں۔ اگر بالوں میں رطوبت کا غلبہ ہو تو اس کا علاج  
 یہ ہے روغن زیتون کو نرم آگ پر گرم کریں اور مصطکی اور ملا دن ملا کر استعمال کریں۔

## بالوں کے گرنے کا علاج

لبس کا تھپکا روغن زیتون میں جوش دے کر مالش کریں۔  
 ایضاً سیسہ کی کھال جلا کر روغن زیتون میں پس کر بیمار جگہ پر مالش کریں۔  
 ایضاً بریوں اور نیشکر کی جڑ کو خوب باریک پسیں اور ایک لوسے کی کڑا ہی میں پرانا روغن  
 زیتون ڈالیں اور پھر اس میں وہ دوا ڈال کر خوب ملا دیں اور بالوں کو لگا دیں۔  
 ایضاً چوہے کو جلا کر روغن زیتون میں ملا کر بالوں کی جگہ پر مالش کریں  
 ایضاً چمکا ڈڑ کو جلا کر روغن زیتون میں ملا کر بالوں کی جگہ پر استعمال کریں۔

## پندرہواں باب بالوں کے گرانے کا بیان

چھپکلی کو روغن زیتون میں جدا کر جس شخص کو کھدویں اس کے بال گرجائیں گے۔  
- ایضاً چوٹی کے انڈے اور ہڑتال اور فرنیون کو ملا کر کسی شیشی میں بند کریں جو شخص  
اس کی بوسجگا اس کے بال گرجائیں گے۔

ایضاً ہڑتال ورتی اور چونہ ہر ایک مساوی کافور بقدر ضرورت سب کو باریک پس کر  
اور وقت ضرورت عورت اس سے کام لے سب بال گرجائیں گے۔

ایضاً کبوتر کی پنچال، چونہ، کافور، ہڑتال سب کو باریک پس کر بوقت ضرورت کام

میں لاویں۔

ایضاً چونہ۔ ہڑتال۔ نوشادر۔ سب کو باریک پس کر کام میں لاویں۔

## سولہواں باب بالوں کے نہ اگنے کے بیان میں

اگر ایسی جگہ بال اُگ آئیں جو اگنے کے قابل نہ تھی۔ اور تو ان کو دور کرنا چاہے تو تھوری  
سی افیون لے کر تیز سرکہ میں گھس کر اس جگہ سے بالوں کو نوچ کر طلا کر دیں انشاءً بال دور  
ہو جائیں گے اور پھر کبھی نہ ہوں گے۔

ایضاً ہڑتال زرد کو باریک کپڑا چھان کر کے افیون کے پانی میں ملا کر بالوں کو نوچنے یا  
مونڈنے کے بعد طلا کریں کہ پھر کبھی پیدا نہ ہوں گے۔

ایضاً بالوں کو اکھاڑنے کے بعد جنگلی سبز مینڈک کا خون یا چمچڑا وہ کپڑا جو کتے کے  
کان میں ہوتا ہے، کا خون طلا کرنے سے بال دوبارہ پیدا نہیں ہوتے۔

رنگل کے بال نہ اگنے کے لیے، ہڑتال سرخ طلا کرنے سے پھر پیدا نہیں ہوتے۔

ایضاً بکری کے پتے میں نوشادر ملا کر بال نوچنے کے بعد طلا کرنے سے پھر بال پیدا نہیں

ہوتے۔

## سترھواں باب بالوں کے لمبا کرنے کے بیان میں اس میں دو نسخے ہیں

بکری کا خون و شہدے کر روغن زیتون میں ملا کر بالوں پر لگانے سے لمبے ہو جاتے ہیں۔  
ایضاً گندنا کا پانی نکال کر دہنے کے پتے میں ملا کر بالوں پر ملنے سے دراز ہو جاتے  
ہیں اور سفید بال رنگین ہو جاتے ہیں۔

## اٹھارہواں باب بالوں کے رنگنے و سیاہ کرنے کے بیان میں

ہندی کو پانی میں پکا کر اس میں سیاہ انگوڑیوں کو ملا دیں۔ پھر دونوں میں پانی ڈال کر  
قرع انبیق کے ذریعہ سے عرق نکالیں اور سفید بالوں پر ملیں تین دن متواتر لگانے سے بال سیاہ  
ہو جاویں گے۔

ایضاً عصف رومی ریاں پانچ درم برگ ہندی دو درم سنگ راسخ ایک درم کھانے  
کا نیک آدھا درم سب کو باریک پیس کر کپڑا چھان کر کے رکھ چھوڑیں۔ بوقت ضرورت گرم پانی  
سے خمیر کر کے بالوں پر لگائیں اور اوپر چھدر کے پتے باندھ دیں۔ صبح و شام سے۔  
ایضاً سبز اخروٹ کا تھلکا باریک پیس کر روغن گنجد میں ملا کر رکھ چھوڑیں اور بوقت  
ضرورت بالوں پر لگاتے رہیں سیاہ ہو جاویں گے۔

ایضاً ایک چمکا ڈڑے کے کراس کا دایاں حصہ جدا کر خوب باریک پیس کر خیار کی طرح ہو  
جاوے پھر اس کو روغن زیتون میں ڈال دیں پھر بائیں حصہ جدا کر ویسا ہی عمل کریں اور بالوں  
پر لگائیں۔ بال سیاہ ہو جائیں گے۔

## انیسواں باب صفر کے ساکن کرنے میں

ثربت سکنجبین پینے سے اس کا غلبہ فرو ہو جاتا ہے۔ سکنجبین کے بنانے کی ترکیب  
شکرتی ۳ اوقیہ سرکہ تیز ایک اوقیہ پانی ڈیڑھ رطل شکرتی و سرکہ کو پانی میں ملا دیں یہ سکنجبین  
خام کہلاتی ہے۔



بنانے کی ترکیب شکر تری ایک رطل سرکہ نصف رطل پانی چار رطل  
 پختہ سکنجبین | سب کو ملا کر نرم آگ پر پکا ئیں اور حیب قوام درست ہو جاوے  
 اتار لیں اور بوقت ضرورت اس میں سے ایک اوقیہ لے کر چھ اوقیہ پانی ملا کر استعمال کریں۔

## بیسواں باب کان کی درد بہرہ پن کے علاج میں

کان میں سردی پینچنے سے ایک قسم کا سدہ پڑ جاتا ہے جس سے کان کا درد یا بہرہ  
 پن عارض ہو جاتا ہے۔

روغن زیتون کے کر اس میں تھوم۔ قنفل ہمصطکی، قنفل تھوڑا تھوڑا ڈال  
 علاج | کر نرم آگ پر پکا ئیں یہاں تک کہ سفیدی جھاگ آنے لگے پھر آگ پر سے  
 اتار لیں اور اس کے قطرے کان میں ٹپکا ئیں یا روٹی کے چھوہ پر لگا کر رات کے وقت کان  
 میں رکھیں اور صبح کے وقت نکال دیا کریں امید ہے کہ ایک ہی دفعہ آرام ہو جائے گا ورنہ  
 چند روز تک ایسا ہی کرتے رہیں۔

ایضاً روغن ترب نہایت مفید چیز ہے۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ مولیٰ کو کسی کونڈے  
 میں تک ڈال کر خوب رگڑیں جتنا پانی نکل آوے اس سے آدھا وزن روغن گنبد ملا کر  
 پکاویں جب پانی جل جاوے تو تیل کو کسی شیشہ میں ڈال کر رکھ چھوڑیں اور بوقت  
 ضرورت کام میں لاویں۔

سرکہ کا دھواں لینا بھی درد کان کو فائدہ دیتا ہے۔

روغن ترب صبح و شام کان میں ڈالتے رہنے سے فائدہ ہو جاتا  
 بہرہ پن کا علاج | ہے اور نیز روغن ذیل بھی نہایت مفید ہے۔

صفحتہ۔ بکری کا پتہ ایک عدد۔ روغن گنجد دو اوقیہ سرکہ ایک چمچ پانی دو چمچ تھوم  
 ایک اوقیہ سب کو ملا کر پکا ئیں جب تیل رہ جاوے تو کسی شیشی میں بند کر رکھیں اور بوقت  
 ضرورت استعمال کریں۔

ایضاً ایک بڑے پیاز کو خالی کر کے اس میں روغن زیتون ڈال کر گرم راکھ میں رکھ

دیجی جب پک جاوے تو روغن کو علیحدہ کر لیں اور قطرے کان میں ڈالا کریں۔

## کان کے درد کا علاج

نومرٹکی چربی گرم کر کے کان میں ڈالیں نہایت مفید و مجرب ہے۔

**بہرہ پن کا علاج** | بیڑے کے خون میں روغن اخروٹ ملا کر کان میں ڈالتے ہیں نہایت مفید ہے۔

**کان کے درد کا علاج** | اگر گرم ہوا کے چلنے سے ہو تو اس وقت دھینے کا پانی یا عرق گلاب یا لڑکی والی عورت کا دودھ کان میں ڈالیں

ایسے ہی بیٹھا روغن بادام ڈالنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر مردی سے درد ہو تو سرداب کا پانی روغن زیتون میں ملا کر پکائیں جب تیل باقی رہ جائے تو اس کے قطرے کان میں ڈالیں۔

**بہرہ پن کا علاج** | گھوڑے کی گرما گرم لیدے کر اس کا پانی چھوڑ کر بہرہ سے کان میں ڈالیں انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہو جاوے گی۔

ایضاً کرگس کا پتہ بہرے کے کان میں ڈالنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

ایضاً بیڑے کا پتہ روغن بادام میں ملا کر بہرے کے کان میں ڈالنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

ایضاً جنگلی پیاز کا پانی روغن زیتون ڈال کر پکائیں۔ جب تیل رہ جائے تو اس کو کان میں ڈالیں۔

ایضاً بیڑے کا پتہ، پیاز کا پانی دونوں کو گرم کر کے وقت منورث کان میں ڈالیں۔

ایضاً کچھوہ کی چربی گرم کر کے کان میں ڈالیں۔

ایضاً روغن زرد کو گرم کر کے کان میں ڈالیں اور اس پر تھوڑا سا کھانے کا نمک چھریں۔

ایضاً پیاز کا پانی، روغن بادام، دونوں کو ملا کر کان میں ڈالیں۔

## اکیسواں باب آنکھ کے دردوں کے بیان میں

بادرہے کہ آنکھ کی دریں پانچ قسم کی ہوتی ہیں۔ (۱) وہ سرخی جو آنکھوں میں ہوجاتی ہے اس کا سبب خلط صفراوی کی زیادتی ہوتی ہے۔

**علاج** | نمرہندی کو پانی میں بھگو کر اس کا پانی آنکھوں میں ڈالیں۔ اور اسی کو گھوٹ کر آنکھوں اور پلکوں پر صفا کریں۔ اور سو جائیں انشاء اللہ صبح ہونے تک آرام ہو جائے گا ورنہ یہی عمل بار بار کریں۔ اور حیب خلط صفراوی آنکھوں میں مستحکم ہوجاتی ہے تو آنکھوں میں زرد پانی دکھائی دیا کرتا ہے، جو اندھا پن کا باعث ہوجاتا ہے اور اس پانی کے آنکھوں میں اترنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بلاوجہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں اور انسان اپنی آنکھوں کے سامنے مچھر، مکھی وغیرہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے۔

**علاج** | یہ ہے کہ پیسے صفراء کا مسہل یا جاوے اور ان دوسروں میں سے جو کہ آئندہ بیان کیے جاویں گے استعمال کرے۔ اور گرم تیز نمکین اور حاضنی چیزوں کے کھانے سے پرہیز کریں۔

**۲- آشوب چشم** | اس کی علامت آنکھوں کی سرخی ان کی رگوں کا پھون اور رطوبت اور آنکھ میں سنگریزی کا سا کھٹکنا ہے۔ اس کا سبب خلط دسوی ہوتا ہے۔

**علاج** | آنکھ کے پردے پر انڈے کی سفیدی اور گھیکوار کا گودا ملا کر صفا کریں پھر اندھیری جگہ میں سکونت کریں اور بار بار آنکھوں کو ہاتھ نہ لگائیں کیوں کہ یہ بات آنکھوں کے واسطے بہت مضر ہے۔ اگر مدد یک جائے جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کے کنارے رطوبت سے جھک جاتے ہیں۔ تو اس وقت پیسے دو چیزوں کے ساتھ کسی قدر کلونجی بھی شامل کریں۔ پھر سو جائیں۔ انشاء اللہ صبح تک فائدہ ہو جائے گا صبح اور مجرب ہے اور جب رد مستحکم ہوجاتی تہے تو آنکھوں کی پلکیں موٹی ہوجاتی ہیں اور اندھا ہوجانے کا خوف ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ سر کے نقرہ پر سینگی لگائی جائے اور ترش قابض چیزوں

کا استعمال کیا جاوے۔ اور جو چیز کھائی جاوے اس میں سرکہ ڈالا جاوے اور کھانا اندر بہت مفید ہے۔

(۳) آنکھوں کی سفیدی یا ایک قسم کا سفید پانی ہوتا ہے جو دماغ سے اترتا ہے اور سفید جھلی بن کر قوتِ بصارت کو ڈھانپ لیتا ہے اس کی سفیدی کا باعث خلطِ بلغمی ہوتی ہے اس کا علاج کرنا حکماءِ ماہرین کا کام ہے اور اس سرکہ کا استعمال بھی مفید ہے۔

توتیا لیموں کے پانی میں سات دفعہ پکایا جاوے پھر اگر موتیادس درم ہو تو ایک درم سنگِ راسخ نمک طعام آدھا درم فلفل دراز ربع درم سب کو کوہے کے پتے کے ساتھ خوب باریک پس لیں اور بطور سرکہ استعمال کریں چٹکی سے آنکھ میں ڈالیں اور جب اس کے استعمال سے آنکھ میں درد یا لذع معلوم ہونے لگے تو دو تین راتیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ درد موقوف ہو جاوے پھر شروع کر دیں یہاں تک کہ اچھا ہو جاوے۔ کہتے ہیں کہ صرف کوہے کا پتہ ہی بیاہن عین کو دفع کر دیتا ہے۔ اگر پچاس سال کا ہو اور جب خلطِ بلغمی مستحکم ہو جاتی ہے تو اس سے زرد و سبز و نیلا پانی اترتا ہے۔ اس وقت اس کا کوئی علاج نہیں۔

(۴) شبکوری ہے اس کی علامت یہ ہے کہ مریض رات کے وقت کچھ نہیں دیکھتا سبب اس کا خلطِ سوداوی ہے علاج یہ ہے کہ بکری کا جگر لے کر چھری سے چیر کر آگ پر رکھیں، جب اس سے جھاگ پیدا ہو تو اس جھاگ میں قدرے فلفل ملا کر رات کے وقت آنکھ میں ڈالیں پھر سو جاویں اور دماغ پر گائے کا لکھن رکھیں۔ امید ہے کہ ایک دو رات میں آرام ہو جاوے گا۔ ورنہ دو تین راتیں اور استعمال کریں۔ نہایت مفید و مجرب ہے اور مرغن و محرب غذا استعمال کریں کیونکہ شبکوری کا سبب خشکی کی کثرت و محرب غذا کی قلت ہے۔ جب شبکوری مستحکم ہو جاتی ہے تو اس سے عی زنجی پیدا ہو جاتا ہے یعنی انسان کچھ نہیں دیکھتا مگر آنکھیں تندرست ہوتی ہیں یہ علاج بیماری ہے۔

(۵) ضعفِ البصر ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اوجھی اور چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا اور سوئی کے سوراخ میں دھاگہ نہیں ڈال سکتا۔ اس کے مدارج مختلف ہیں۔ بعض لوگ

ایسے ہوتے ہیں اگر باریک چیز کسی قدر نزدیک کر دی جائے تو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ضعف بصر ہے۔ مگر بہ نسبت دوسرے اقسام کے ضرور نقصان میں کم ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک چیز ان کی آنکھوں کے بہت قریب نہ ہو کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ پہلی قسم کی بہ نسبت زیادہ خراب ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اونچی اشیاء کو مطلقاً نہیں دیکھ سکتے بلکہ انہیں صرف ایک تصویر دکھائی دیتی ہے۔ اور سارا جسم انہیں ایک سپاٹ جسم معلوم دیتا ہے، الگ الگ اعضا معلوم نہیں کر سکتے بہ نسبت اقسام سابقہ بہت ہی رومی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی بڑی اشیاء کو یکساں نہیں دیکھ سکتے بلکہ ان کو خیالی جسم میں دیکھتے ہیں۔ ایسے اشخاص کو تو دیکھے گا کہ بڑی کوشش سے اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں اور دور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا اندھا پن ہوتا ہے اور مشکل سے علاج پذیر ہوتا ہے۔ ان سب اقسام کا سبب یا تو بڑھاپا ہوتا ہے یا کثرت سے سفید چیزوں کی طرف دیکھنا یا کثرت سے مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ مگر خالص سیاہ یا خالص سرخ یا خالص سبز چیزوں کی طرف دیکھنا آنکھوں کو ضرر نہیں دیتا بلکہ طاقت دیتا ہے علاج ان سب اقسام کا یہ ہے کہ ان دوسروں میں سے کوئی سرمہ استعمال کریں جن کو ہم آئندہ ذکر کریں گے اور غلیظ و ثقیل اشیاء سے پرہیز کریں نیز گائے کے گوشت و باجرہ و مٹین و لوبیا وغیرہ ثقیلہ سوداویہ اشیاء سے پرہیز کریں اور پیاز و لہسن۔ فلفل، زنجبیل وغیرہ گرم و تیز چیزوں سے اجتناب کریں۔ اور پلاؤ، دودھ۔ سرخ کا گوشت عمدہ گندم کی روٹی، تیز، بیٹر، گا گوشت کھایا کریں اور وہ جلوسے جو ہم نے خفتہ الراس میں ذکر کیا ہے کھایا کریں کہ یہ جو سرمہ بصر کو بڑھاتا ہے۔ سبز بات کی طرف دیکھنا جاری پانی پر سیر کرنا خوبصورت اشیاء کی طرف دیکھنا بھی قوت بصارت کو زیادہ کرتا ہے۔ سرد پانی میں غوطہ لگا کر آنکھیں کھول دینا بھی آنکھ کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ جو شخص چاہے کہ رات کے وقت دن کی طرح دیکھے اس کو چاہیے کہ سیر کی دامن آنکھ لے کر روغن زیتون میں جوش دے اور کسی تانبے کے برتن میں گھس کر رکھ چھوڑے اور بطور سرمہ آنکھوں میں لگایا کرے۔

# بانیسواں باب آنکھوں کے علاج اور ان سرموں کے بیان

میں جو آنکھ کے لائق ہیں

سرم جو دو لہتمندوں کے استعمال کے لائق ہے۔ قوت بصارت کے جوہر کو بڑھاتا ہے اور سب سرموں سے زیادہ مفید ہے۔ تندرست اور بیمار دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ سونے کا برادہ ایک درم چاندی کا برادہ ایک درم موتی ایک درم صبر سفوطری ایک درم شکر تری ایک درم کستوری ایک درم کافور ایک درم سرمہ اصفہانی سب کے مساوی۔ سب کو خوب باریک پس کر پھر کسی شیشہ کی سرمہ دانی میں بھر کر رکھ لیں۔ اور حسب دستور استعمال کریں نہایت مفید و مجرب ہے۔

**غریبوں کے لئے سرمہ** | صنع آنکھ کو طاقت دیتا ہے جو بصارت کو بڑھاتا ہے اور تندرست اور بیمار دونوں کے واسطے مفید ہے۔

پارہ ایک درم (سکہ) سپسہ ایک درم، طوطیا ایک درم، صبر سفوطری ایک درم شکر تری ایک درم کافور ایک درم سرمہ اصفہانی سب کے برابر حسب دستور سرمہ بنا کر استعمال میں لادیں کہ نہایت صحیح و مجرب ہے۔

ایضاً سرمہ اصفہانی پانچ درم، توتیا پانچ درم، تھوڑی سی کستوری حسب دستور سرمہ تیار کر لیں۔

ایضاً زعفران دار فلفل سنبل۔ کافور ہوزن سب کو خوب باریک کھل کر کے حسب معمول سرمہ تیار کر کے کام میں لادیں۔

ایضاً یہ سرمہ میرے شیخ سیدی محمد سعید کا بتلایا ہوا ہے اور آنکھ کی ہر بیماری کے لیے مفید ہے۔ زعفران نصف درم، دار فلفل دو درم فلفل تین درم سب کو خوب باریک پس کر سرمہ بنا دیں اور بطور سرمہ کام میں لادیں۔

**آنکھ کا علاج** | تھرہندی کو عرق گلاب میں مل کر کسی قدر زعفران شامل کر کے چند قطرہ مریض کی آنکھ میں ڈالیں۔

**آنکھ کا سرمہ** | سیسہ کی داہنی آنکھ کے گرد و غن بادام شیریں کے ساتھ کسی تانبے کے برتن میں جوش دے کر رکھ چھوڑیں اور بطور سرمہ استعمال کریں کہ رات کے وقت بھی دن کی طرح دیکھے گا۔

**ایک عجیب سرمہ** | جتنا چاہو سیسہ رسکھ مے لو اور ایک لوسے کی ٹرہی میں گندھک سے جلا لویہاں تک کر رکھ سو جاوے پھر اس میں اس راگھ سے دو چند تیز چوہن ملا دو اور سب کو انڈے کی سفیدی میں گوندھو اور تھوڑا سا اس میں صمغ عربی یا لعاب ایس بغول ملا کر ایک مٹی کے پیالے پر پیپ کر دیں پھر ایک مٹی کی بانڈی میں اس پیالہ کو رکھ کر منہ بند کر کے رات کے وقت کسی تنور یا کھار کے آگے میں رکھ آویں صبح کے وقت نکال کر سرمہ بنالیں اور کام میں لادیں۔

**آنکھ کا سرمہ** | فولاد۔ فلفل۔ زعفران۔ زنگار۔ پھٹکڑی سیاہ۔ نوشادر، توتیا ہر ایک دو درم۔ سرمہ اصفہانی چودہ درم سب کو باریک پس کر کسی سبز مرنبان میں بند کر کے غلہ کے ڈھیر میں دبا دیں۔ پھر نکال کر باریک پس کر سرمہ تیار کریں۔

ایضاً مرجان، کستوری، مصطکی، عود۔ قرنفل، جائفل، فلفل، زنگار، توتیا سفید سرمہ اصفہانی ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا لے کر سب کو باریک پس کر سرمہ بنالیں۔

**کحل شریف** | توتیا سفید کو گرم کر کے عرق گلاب میں بھجادیں اور مصری نمک شیشہ سنگ راسخ، زنگار، پھٹکڑی، مصطکی ہر ایک سے توتیا مذکور کا آٹھواں حصہ لے کر پس کر عرق گلاب میں کھل کر کے خشک کریں اور بطور سرمہ کام میں لادیں۔

**کحل عجیب** | توتیا ہندی۔ نوشادر مصری۔ فلفل زنگار عراقی۔ سنگ راسخ، قرنفل مصری سمندر جھگ سب کو ملا کر باریک کر لیں اور اس سے دو چند سرمہ کے ساتھ ملا کر کام میں لایا کریں۔

ایضاً زعفران نصف درم فلفل دو درم باریک پس کر سرمہ بنالیں اور استعمال کریں۔  
ایضاً توتیا ایک اوقیہ۔ عودی قماری چار درہم زعفران ایک درم شتر مرغ کے انڈے کا چھلکا ایک درہم سب کو باریک کر کے سرمہ بنالیں۔

## باب ضادات عین کے بیان میں

کاسنی اردجو۔ تھوڑا تھوڑا لے کر روغن گل میں پس کر آنکھ پر ضاد کریں۔ یہ ضاد آنکھ کے درم اور سخت درد وغیرہ کو بہت مفید ہے۔

ایضاً چولائے کے پتے اردجو۔ روغن گل میں ملا کر ضاد کریں۔

ایضاً انڈے کی سفیدی۔ روغن گل میں ملا کر ضاد کریں۔

## آنکھ کا علاج تعویذ و عزیمت سے

یہ لکھ کر آنکھوں کے اوپر ٹسکا یا جاوے اللہ تَوْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - لَفْظِ عَلَيْهِمْ  
تک اس کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہی آیت پیالہ میں لکھ کر اس پر شہد ملکر آنکھ میں ڈالیں۔  
ایضاً اسما و ذیل لکھ کر آنکھ میں ٹسکائیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ  
اِيْمَانًا وَاَسْتِسْلَامًا مَا اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَاَلِكُنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ جِي لَكِهِي اَللّٰهُمَّ رَبَّ  
قَيْسِ قَابِسٍ وَكَيْلِ اَعْيٍ وَبَجْرِ طَاصِ وَحَجْرِي يَاسِ فِي عَيْنِ مَعِيَانِ اَللّٰهُمَّ اَعْمِ عَيْنِ  
مَعِيَانِ قَلْبًا عُوْدِي رَبِّ الْعَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَايِبِي اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفْسِ  
فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ عَيْنِ الْعِيَالِ مَرْدُوْدَةٌ عَلَيْهِ اَنْتَ اللّٰهُ اِمْنَعْ مَنْ  
شِئْتَ بِمَنْ شِئْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى  
رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ اَجْمَعِيْنَ -

## اشوب زدہ آنکھ کے علاج میں

ابوالطیب کا قول ہے کہ رمد سزکی رگوں کو اندر سے پکڑ لیتی ہے اور اس کا سبب یہ ہوتا

ہے کہ سپہ خون سر میں جوش مارتا ہے۔

طہ آسمان وزمین کی پیدائش تمہارے پیدا کرنا سے زیادہ مشکل ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔



علاج سیاہ بیل کا پتہ - شہد - آرد لوبیا سب کو ملا کر سرسہ کی طرح آنکھ میں لگائیں۔

رد کا علاج | جب ریوند کو بکری کے پتے میں سات دن اس طرح کھول کریں کہ ہر روز پانی ڈال کر کھول کریں پھر دھوپ میں خشک کریں پھر سرسہ سات بار

کریں اس سے رد بیاض دمعہ دور ہو جاتے ہیں۔

ایضاً توتیا - فلفل - زعفران - سیاہ پھلکڑی، نوشادر - زنگار - سنگ راسخ ہر ایک

مساوی مگر زعفران کچھ کم سب کو پیس کر بکری کے پتے میں ملا کر سرسہ تیار کریں اور کام میں لاویں۔

فائدہ جو شخص ان دو بتیوں کو یاد کر رکھے اس کی آنکھیں کبھی دکھنے نہ پاویں۔

يَا نَاطِرَیْ بِيَعْقُوبَ اُعِيْذُكَ مَا قَمِيصُ يُوْسُفَ اِذْ جَاءَ الْبَشِيْرَیْهِ	مَعَا سْتَعَاذِیْهِ اِذْمَتَهُ الْكَمَدُ بِحَقِّ لِيَعْقُوبَ اِذْ هَبَّ اَيُّهَا الْمَرْمَدُ
---	---

اے میری دو آنکھوں میں تم کو اس چیز کی پناہ میں لاتا ہوں جس سے یعقوب نے استفادہ کیا تھا جب کہ ان کو تکلیف پہنچتی تھی۔ یعنی یوسف کی قمیص جس کو بشیر لے کر آیا تھا۔ پس اسے رد یعقوب کی طرفیں دور ہو جا۔

## باب ۲۶ آنکھ کی سرخی اور دہلکے کا علاج لکھنے سے

جنگلی پیاز کے پتے پر لکھ کر مریض کی پیشانی پر باندھا جاوے اَيُّهَا التَّرْمَدُ وَ الْمَرْدُودُ

اَلْمُسْتَمِيْنُ بِعُرُوْقِ الرَّاسِ عَن مَّتْ عَلِيْكَ بِتَوْرَاةِ مُوسَى وَ اِنْجِيْلِ عِيْسَى وَ زَبُوْرِ

اے آنکھ کو سرخ کئے ہوئے بیماری جس نے سر کی رگوں کو پکڑ رکھا ہے میں تجھ پر موسیٰ علیہ

السلام کی توریت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اور داؤد علیہ السلام زبور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن

کے ساتھ تعویذ کرتا ہوں پھر تم نے تجھ سے تیزا پردہ کھول دیا پس آج کے دن تیسری نظر

تیز ہے۔

ذَادَ وَفُرْقَانَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفْنَا غَطَاءَكَ قَبْصُوكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ  
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

نیز یہ کلمات بھی مفید ہیں ان کو لکھ کر بیمار آنکھ والے کے سر پر ٹسکایا جاوے مفید ثابت ہوگا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِنَّ فِي الْعَيْنِ رَمَدٌ حَمْرَاءُ فِي بَيَاضٍ حَبِيٍّ اللَّهُ الصَّمَدُ يَا إِلَهِي يَا عِزَّتِي يَا عِزَّتِي يَا إِلَهِي الْفِتْنَى شَرُّ الرَّمَدِ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ لَّا وَلَا كُفُوًا أَحَدٌ فَتَبَكَّفِيكُمْ اللَّهُ۔۔۔۔۔ آخر پے پارہ سے لفظ عَلِيٌّ تک نیز از ہر کانے کہا ہے کہ ایک کاغذ پر پین دفعہ (ص) لکھ کر ایک دفعہ لفظ سس۔ وسع بھی لکھے پھر آیت اللہ نُورًا لِسَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لفظ يَشَاءُ تک لکھ کر باندھ کر مریض پر ٹسکانے سے فائدہ ہو جاوے گا نیز یہ کلمات بھی اگر لکھ کر ٹسکائے جائیں تو مفید ہوں گے۔ أَيُّهَا الرَّمَدُ الْمُرْمُودُ الظَّاهِرُ الْمُتَّخِذُ السَّاكِنُ فِي الرَّأْسِ الْمُتَمَسِّكُ بِعُرْوَةِ الْجِبْتَةِ يَا صَدِيدُ الصُّيُودِ اللَّهُ عَلَيْكَ شَاهِدٌ مِنَ الشُّهُودِ كَتَبَ اللَّهُ لِأَعْلِينَ لَفْظَ عَزِيزٌ۔۔۔۔۔ تاک اس کا بھی قریباً وہی مطلب ہے جو پے کا تھا۔

## باب ۲ آنکھ کی سُرخی وغیرہ کا علاج دوائیوں سے

توتیا سفید زعفران۔ نوشادر۔ قرنفل کہ ہوزن سب کو ملا کر باریک پسین لیں۔  
ایضاً روغن قرنفل کا قطرہ آنکھ میں ڈالیں نہایت مفید ہے اس کے نکالنے کی ترکیب یہ ہے کہ حسب ضرورت قرنفل لے کر باریک کریں اور رات کے وقت شبہم میں رکھ دیں صبح کے وقت کوئی روغنی پیالہ جس میں وہ دوا سما سکے لے کر اس کے منہ پر کوئی مضبوط نیا کپڑا باندھ دیں اور اس کو کسی برتن میں جس میں نصف تک پانی ہو رکھ دیں اور اس کپڑے کے اوپر دوا پھیلا دیں اور اس پر توار کھ کر اس کے اوپر کولہ رکھیں آگ کی حرارت سے دوائیل ہو کر پیالہ میں جا پڑے گی

لہ کہہ تو اشد ایک ہے آنکھ میں سُرخی ہے سفیدی بیچ میں اللہ العمد یعنی کافی ہے اللہ بے نیاز کی اسے اللہ بچھے اس سُرخی کے شر سے نجات دے اللہ کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی سا جھی ہے۔

نکال کر کام میں لاویں۔

## باب ۲۸ بیان سابق میں

شیاف احمد جو آنکھ کی سرخی و ڈہلکم و حصہ و جدری سلاق چوندھیان وغیرہ کو فائدہ دیتا ہے  
ایون اسقیل - زعفران - ضمغ عربی - ہر ایک ایک درم اتقا قیاضف درم شاد نہ مغسول دو درہم  
سنگ راسخ چار درم سب کو باریک کر کے چھان کر سماق کے پانی و عرق گلاب و شیر عورت میں  
پیس کر سرمہ بنا لیں۔

ایضاً پھکڑی سفید انڈے کی سفیدی دونوں کو پیس کر سرمہ بنا لیں۔

فائدہ آنکھ کے مریض کو کھانا تھوڑا کھانا چاہیے۔

ایضاً زنجبیل - ماز و سفید ہوزن پیس کر سرمہ بنا لیں نہایت مفید و مجرب ہے۔

## باب ۲۹ بیاض عین کے علاج میں

سرمہ شیر عورت - شہد سب کو آگ پر پکانیں جب سرگین ہو جاوے تو آمار کر کام میں لاویں۔

ایضاً سفید مرغ کے پنجے جدا کر سرمہ بناویں یہ پھولے کے قطع کرنے میں مجرب ہے۔

ایضاً سنگ راسخ کوٹ کر تیز سرمہ میں تین روز بھگور کھیں پھر باریک پیس کر بطور سرمہ

استعمال کریں قطع بیاض کے لیے مفید ہے۔

ایضاً ہدہد کا پتہ چیل کا پتہ دونوں کو سایہ میں خشک کریں اور باریک پیس کر صاحب

بیاض استعمال کرے بہت جلد فائدہ ہوگا۔

ایضاً کنڈیاری کے پتے کوٹ کر اس کا پانی آنکھ میں ڈالیں مفید ہے۔

ایضاً انسان کا پانانہ اور سرخاب کا پانانہ باریک پیس کر آنکھ میں ڈالیں۔

ایضاً مکروندہ کا پتہ خشک کر کے سرمہ بنا کر آنکھ میں ڈالیں۔

ایضاً ہدہد کا پتہ و بھلی کا پتہ سایہ میں خشک کر کے باریک پیس کر بطور سرمہ کام میں لاویں۔

ایضاً ہدہد کا گرم خون بھی آنکھ میں ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔

ایضاً شیرین انار کا پانی آنکھ میں ڈالنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے۔

ایضاً پنچال اباہیل، سرمہ اصفہانی۔ سنبیل سب کو سرمہ بنا کر کام میں لاویں۔

ایضاً ہر ہڈی کی آنکھ کا سرمہ بنا کر آنکھ میں ڈالیں۔

ایضاً کرگس کے دماغ کا سرمہ بنا کر اسی طرح کام میں لاویں۔

ایضاً اباہیل کا خون خشک کر کے اس کے ہوزن زعفران ملا کر بطور سرمہ استعمال کریں۔

ایضاً انسان کا پاخانہ خشک کر کے بطور سرمہ کام میں لاویں۔

ایضاً حیض کا خون مرد کی منی دونوں خشک کر کے بطور سرمہ استعمال کریں۔

ایضاً سفید کتے کا جگر دھوپ میں خشک کر کے سرخ کا بجی سے پس کر بطور سرمہ کام

میں لاویں امید ہے کہ ایک دو دفعہ کے استعمال سے پھولاٹ جائے گا۔

ایضاً گل چنبیلی کا پانی چوڑا کر آنکھ میں ڈالنے سے پھولاٹ جاتا ہے۔

ایضاً کلوشی دو حصہ شب یمانی برابن ایک حصہ۔ دونوں کو عرق گلاب میں کھل کر کے خشک

کریں اور بطور سرمہ آنکھ میں لگائیں۔ نہایت مفید ہے۔

ایضاً اس سے چالیس سال تک کا پھولاٹ جاتا ہے۔ روغن زیتون خالص پانچ تولہ

روغن گاؤہ تولہ دونوں کو چراغ میں ڈال کر اسی کے کپڑے کی تلی سے جلائیں اور چراغ کے سر

پایک چین یا کوئی اور برتن لٹکائیں تاکہ دھواں اس میں جمع ہوتا جائے جب تیل جل جائے

تو دھواں کو اتار کر اس میں اشیاء ذیل ملا کر سرمہ بنالیں۔ سرمہ اصفہانی۔ سمندر جھاگ۔ کستوری عرق

مرجان سب کو باریک پس کر سرمہ دانی میں ڈال رکھیں اور کام میں لاتے رہیں۔

ایضاً کاستی کا پانی چوڑا کر اس میں مصری ڈال کر اس کے قطرے آنکھ میں ڈالیں۔

ایضاً زبد البحر کو شہد کے ساتھ کھل کر کے سرمہ بنا کر آنکھ میں ڈال کریں۔

ایضاً اباہیل کی پنچال ایک حصہ۔ سمندر جھاگ ایک حصہ، مصری ایک حصہ۔ انڈے کا

چھلکا ایک حصہ سب کو باریک پس کر سرمہ بنا کر آنکھ میں لگایا کریں۔

ایضاً لوبان کو شیر عورت میں کھل کر کے آنکھ میں لگایا کریں۔

ایضاً پنچال اباہیل باریک پس کر بطور سرمہ آنکھ میں لگائیں۔

## باب ۲۹ آنکھ کے ڈھلکے کے بیان میں

لودہ پھانی رئیس باریک پس کر آنکھ میں ڈالیں۔  
 ایضاً سنبل۔ صیرسقوطری۔ کاخداد آنکھوں کے اوپر کریں۔  
 ایضاً پتہ مرغ، پتہ چکورا، پتہ خرگوش، پتہ گرگ، پتہ کرگس، پتہ بیل، ہر ایک ان میں مرض  
 مذکور کے واسطے مفید ہے۔ شہد میں۔ ملا کر کام میں لاویں۔  
 ایضاً توتیا۔ سنگ راسخ۔ دار فلفل۔ زعفران۔ سیاہ پھسکڑی۔ نوشادر زنگار۔ ہر  
 ایک مساوی۔ سرمہ اصفہانی سب کے برابر حسب دستور سرمہ بنا کر کام میں لاویں۔

## باب ۳۰ تیزی بصارت کے بیان میں

توتیا ہندی۔ ہلیہ کابلی۔ ہر ایک ایک دم مصری دو درم سب کو کو فتمہ بخیتہ کر کے بطور سرمہ  
 استعمال کریں۔  
 ایضاً توتیا۔ شب بمانی سفید دونوں کو باریک پس کر عرق لیموں میں پکائیں جب خشک  
 ہو جاوے تو سرمہ بنا کر آنکھ میں ڈالیں۔  
 ایضاً صبح کے وقت کسی برتن میں سرخانی ڈال کر اس میں چہرہ دآنکھوں کو داخل کرنا  
 قوت بصارت کو بڑھاتا ہے۔

## باب ۳۱ آنکھوں کے پرے اور تاریکی کے علاج میں

جب رویند کو باریک کر کے شیر عورت کے ساتھ کھول کریں اور بطور سرمہ آنکھ میں لگائیں  
 ایضاً کنڈیاری کا عرق یا نیشہ کا پانی چوڑ کر آنکھ میں ڈالنا بھی یہی فائدہ دیتا ہے۔  
 ایضاً تخم پیاز پتہ مرغ سیاہ کا سرمہ بھی یہی کام دیتا ہے۔  
 ایضاً کدو کا بشیرہ آنکھ میں ڈالنا بھی یہی کام دیتا ہے۔  
 ایضاً زاج قبری ایک درم۔ مصری چھ درم باریک کر کے بطور سرمہ کام میں لاویں۔

ایضاً شیر عورت آنکھ میں ڈالنے سے آنکھوں کی تاریکی دور ہو جاتی ہے۔  
 ایضاً بھوکا جگر خشک کر کے بطور سرمہ آنکھ میں لگانا غشا (تاریکی) و عشا (شبکوری)  
 کو دور کرتا ہے۔

## باب ۳۲ آنکھ کی خارش کے علاج میں

حزل کی لکڑی جلا کر سرمہ سا بنا کر آنکھ میں ڈالنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔  
 ایضاً توتیا ہندی - ہلیہ کابلی - ہر ایک ایک درہم مصری دو درہم سب کو باریک سرمہ  
 سا پس کر آنکھوں میں لگایا کریں۔

ایضاً زعفران - توتیا ہندی - فلفل - زنگار - سرمہ اصفہانی - سنگ لاسخ انار کا چھلکا۔  
 قرنفل ہموزن کے کر سب کو باریک پس کر بکری کے پتہ میں ڈال دیں جب پتہ خشک ہو جائے  
 تو کو قہہ بخیتہ کر کے بطور سرمہ کام میں لاویں۔

## باب ۳۳ آنکھ کے مردہ گوشت کے علاج میں

زیتون کا پانی چیا کر پہلا پانی پھینک دیں پھر دوبارہ چیا کر سوتے وقت آنکھ پر مناد  
 کریں اور حیت سو جائیں یا چقدر کی جڑ کا پانی نکال کر تین دن تک سوتے وقت اس کے  
 قطرے آنکھ میں ڈالیں۔

ایضاً مرتقونہ کی جڑ پانی میں پکائیں جب ایک حصہ پانی رہ جائے تو اس سے روئی  
 نر کے سوتے وقت آنکھ پر رکھیں۔

ایضاً پارے کا کشتہ آنکھ میں ڈالنے سے یہی فائدہ دیتا ہے۔  
 ایضاً توتیاٹے سفید کو عرق لگاب میں کھل کر کے بطور سرمہ استعمال کریں۔

## باب ۳۴ نزول الماء کے علاج میں

بٹیرے کے پتے کا سرمہ بنا کر آنکھ میں ڈالنا نزول الماء کو فائدہ دیتا ہے۔

ایضاً نیل کی جڑیں جلا کر آنکھوں میں ڈالنا بھی یہی فائدہ رکھتا ہے۔

ایضاً صاف کستوری کو خالص شراب میں گھس کر بطور سرمہ آنکھ میں لگانے سے

یہی فائدہ ہوتا ہے۔

ایضاً ایون ایک درم زعفران ایک درہم دونوں کو روغن زیتون میں ملا دیں اور

سر کے بال منڈوا کر اس کا لپ کر لیں۔

## باب ۳۵ آنکھ کے زخموں کے علاج میں

بٹیرے کا پتہ شہد میں ملا کر آنکھ میں لگایا کریں۔

ایضاً سفید مرغ کا پتہ آنکھوں میں لگانے سے یہی فائدہ ہوتا ہے۔

## باب ۳۶ پڑوال کے علاج میں

بٹیرے کا خون پڑوالوں پر لگانے سے پڑوالوں کو دور کر دیتا ہے۔

ایضاً سیاہ مرغی کا پتہ اور سیاہ مرغی کا بھیجا جلا کر پتے میں ملا کر بالوں پر لگائیں

اور فائدہ اٹھائیں۔

ایضاً جنگلی سداب کی جڑوں کا پانی نکال کر اس میں مچھر کا خون ملا دیں اور پڑوالوں

کو اکھاڑ کر اس کا طلا کریں۔

ایضاً بٹیر کا پتہ۔ نوشادر دونوں کو ملا کر پڑوالوں کو اکھاڑ کر طلا کریں اور کئی دفعہ

بالوں کی جگہ پر قطرے ٹپکائیں انشاء اللہ مچھر کبھی بال پیدا نہ ہوں گے۔

ایضاً سیاہ گائے کا پتہ اور سیاہ مرغی کا معتد دونوں کو ملا کر بالوں کو اکھاڑ کر طلا کریں۔

ایضاً سمندر جھاگ۔ چھپڑ دونوں کو ملا کر بالوں کو اکھاڑ کر ان کی جگہ پر طلا کریں انشاء اللہ

تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔

ایضاً چوہے کی پنچال (بٹھ) پس کر شہد میں ملا کر بال اکھاڑ کر چند دفعہ لگانے سے

یہ مرض ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔

ایضاً میوہ ساکھ - کندر - رال - سب مسادی کے کران کا دھواں بنا کر بطور سرمہ استعمال کریں۔

## باب ۳۲ ناخونہ کے بیان میں

سانپ کا پتہ لے کر اس کا سرمہ بنا کر ناخونہ والے کی آنکھ میں لگائیں۔

ایضاً - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُبْحٰنَہٗ مَدْعُوْمًا مَّسْفُوْرًا هٰذَا نَدْوٰی  
اٰیہَا النَّطِیْرُ بِحَقِّ حَقِّ اللّٰهِ وَبِعِزَّةِ اللّٰهِ وَبِمَا جَرٰی بِہِ الْقَلَمُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِلٰی الْخَبْرِ  
خَلَقَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا عَبْدًا لِّلّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ  
الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احدہ  
ایک بڑی پر لکھ کر آنکھ میں باندھے اور یہ آیت پڑھ کر دم کیا جائے۔

الایہ یہ تمام آیت سات دفعہ پڑھ کر دم کریں۔

ایضاً ترش انار مع اس کی چربی یا جھلی کے شہد میں ملا کر پائیں یہاں تک کہ سرمہ جیسا  
بن جائے اور بطور سرمہ کے آنکھوں میں لگائیں۔

## باب ۳۳ لطمہ (طمانچہ) کے علاج میں

جو آنکھوں سے آنسو جاری کر دے اور چہرہ کو ٹیڑھا کر دے یہ عزیمت ایک شیشہ  
کی پشت پر لکھ کر اس مرض والے کو دکھایا جائے اور مذکورہ ذیل کلمات چھری یا تلوار پر لکھ کر تالو  
اور آنکھ پر پھیرا جائے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ فَسَوّٰہُ اِسْتَوٰی وَجْہَہٗ  
کَذَا وَکَذَآ رَفَعَ سَمَکَہَا فَسَوّٰہَا کَذَا اِسْتَوٰی کَذَا وَکَذَآ اِسْتَوٰی سَبَّحَ اسْمَ رَبِّکَ  
الَّذِیْ الَّذِیْ خَلَقَ کَسَوٰی کَذَا یَسْتَوٰی کَذَا اِسْتَوٰی اِلٰی السَّمَآءِ لَفْظ  
طَاعِیْنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ہَمْ اِسْتَوٰی وَجْہُ کَذَا وَکَذَآ بِالَّذِیْ رَفَعَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

لہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور درست کیا اسے فلان شخص کے چہرے اسی طرح تو بھی درست ہو جا  
بلند کیا اس کی چھت کو اور درست کیا اسی طرح درست ہو جائے گا اور اسی طرح درست ہو تبیح بیان کر لینے



وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ وَجْهَهُ كَذَا وَكَذَا إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ  
 سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِالْقُوَّةِ اَرْتَفَعْنِي بِعِزَّةِ عِزِّ اللَّهِ بِوَجْهِ اللَّهِ وَبِمَا  
 جَرَىٰ بِهِ الْقَلَمُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَىٰ خَيْرِ خَلْقٍ اللَّهُ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَيَجُوقُ هَذِهِ  
 اَلْاَسْمَاءُ ۱۱ ط .. ك ۱۱ رُوِيَ وَطُورُكَ وَالْاَدْوَاءُ ط ۱۱۸۱ -

ایضاً عزیمت ذیل پڑھ کر دم کرے اَسْمَتْ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْعِلَّةُ بِعِزِّ عِزِّ اللَّهِ وَبِسُلْطَانِ  
 اللَّهِ وَبِمَا جَرَىٰ بِهِ الْقَلَمُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَىٰ خَيْرِ خَلْقٍ اللَّهُ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَنَزَلَ  
 مِنَ الْقُرْآنِ - لَفْظاً لِّلْمُؤْمِنِينَ - ہک ان سب الفاظ کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے یہ پڑھ کر سات دفعہ  
 آنکھ پر دم کرے -

ایضاً پیشانی پر اسماء ذیل تحریر کریں اَللّٰهُ تَرَالِي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْيَدَ وَكَيْفَ  
 لَجَعَلَكُ سَاكِنًا اُسْكُنْ اَيُّهَا اَلْوَجْعُ لِمَا سَكَنَ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ تَحْتَ الرَّحْمٰنِ وَكَلِمَا سَكَنَ  
 لَفْظَ الْعَلِيَّةِ تَحْتِ قَمْعِ قَمْعِ صَفْ صَفْ

## باب ۲۹ چشم بد کے علاج میں

جس کو نظر بد لگی ہو اس پر یہ عزیمت پڑھ کر دم کرے - اِذَا اَللّٰهُ سَمَّ كُوْرَتْ عَيْنَ الْمُعْيَانِ

رحمۃ صفحہ سابقہ) اعلیٰ رب کی جس نے پیدا کیا اور درست کیا اسی طرح درست ہو جائے اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہو گیا  
 کل جہانوں کی پرورش کرنے والے رب کے لیے درست ہو جائے فلان شخص کا چہرہ جس طرح بلند کیا اس نے سات آسمانوں کو اور  
 وہ سب کچھ جاننے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا پس برابر کیا اس نے ان کو سات آسمان اور وہ ہر چیز کو جاننے والا  
 ہے اللہ عزت کی وجہ سے اور اللہ کی برکت سے اور اس چیز کی برکت سے جن پر قلم جاری ہو چکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول  
 کریم صلعم اور ان اسماء کی برکت سے اسے تکلیف دور ہو جاوے ۱۲

لہ کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس طرح اس نے سایہ پھیلایا ہے اور اگر چاہتا ہے ساکن بنانا  
 جب سورج سیاہ کیا جائے گا نظر لگانے والے کی آنکھ کافی ہو جائے جب آسمان پھٹ جائیگا نظر لگانے والے  
 کی آنکھ اڑ جائے ہکت ہے باپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جب آسمان پھٹ جائیگا نظر لگانے والے کی آنکھ

عَوْرَتِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ عَيْنِ الْمَعْيَانِ طَبْرَتْ وَبَلِّ لِلْمُطْفِفِينَ عَيْنِ الْمَعْيَانِ حَقِيْقِينَ إِذَا انْشَقَّتْ عَيْنِ الْمَعْيَانِ وَقْتُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ عَيْنِ الْمَعْيَانِ تَمُوجُ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ كُلِّ عَيْنِ بَارِقِ سَبْعِ اسْمَعَيْنِ الْمَعْيَانِ تَعْتَوِّهُلَا نَالَ حَبِيْثَ الْغَاشِيَةِ عَيْنِ الْمَعْيَانِ مَا شِيَةَ آيَةٍ فَسَيَكْفِيكُمْهُمُ اللهُ لَفْظَ الْعَلِيْمِ وَهَكَذَا۔

ایضاً جو کوئی نظر لگا ہو اور یا عورت تمہارے پاس آوے تو ایک انڈا لے کر مرض کے سر پر رکھو اور تم اسما ذیل پڑھتے جاؤ اور اس کے سر اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے جاؤ اسما یہ ہیں  
 قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ أَحْرَمٌ وَسَبِّحْهُ اللهُ الَّذِي لَا يَغْتَرُّمَعَهُ اسْمُهُ شَيْءٌ عَزَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَوَسَاتٍ دَفَعَهُ طَهْرُكَرُوه انڈا مرضی کو دے دو تاکہ وہ اس پر پھونک مارے اور تم  
 يَا اللهُ يَا رَبِّ يَا حَفِيْظُ يَا مَانِعُ۔ سات دفعہ پڑھو پھر اس انڈے کو سیاہ بالوں میں کچھ پانی ڈال کر  
 توڑ دو تو اس میں سے سیاہ آنکھ نکل جائے گی۔

ایضاً۔ عزیمت ذیل کھو کر باندھنا مفید ہوگا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِيْمَانًا وَاسْتِسْلَامًا وَاللَّهُ الْكَبَارُ الْعَظَمَاءُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِفْضَالًا وَأَنْعَامًا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ تَوَكُّبًا وَاسْتِسْلَامًا مَا لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَبْرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَكَيْفَ

رحمۃ صفحہ گذشتہ) پھوٹ جائے۔ آسمان بروجوں والے کی قسم ہے بد نظر کی آنکھ اہل پڑے آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم ہے ہر آنکھ باریق ہے بد نظر کی آنکھ اللہ کی تسبیح بیان کرے بد نظر کی آنکھ کیا تیرے پاس قیامت کی بات سنی چلی ہوئی ۱۲۰ سے اسے اللہ کے نام کی برکت سے ہر چیز زمین اور آسمان میں فرو نہیں دیتی اور وہ سننے جانتے والا ہے ۱۲۰ سے کوئی معبود لائق عبادت نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا یقین اور ایمان کے لحاظ سے اللہ بڑا ہی شان ہے سان اور بزرگی کے لحاظ سے سب تعریف اللہ کے لیے ہے احسان اور انعام کے لحاظ سے نہ نیک پر طاقت ہے اور نہ برائی سے ہٹنے کی توفیق مگر اللہ علی و عظیم کی مدد سے اسے وکیل بنا کر اور اسلام لاکر اللہ کے آسمانوں اور زمین کی پیدائش لوگوں کو پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اسے اللہ محبت کرنے والے انسان اور پھونکنے والے نفس اور بہا لیجانے والے دریا اور اندھیری رات اور خفک تھیر اور دھنسا میوالی مٹی اور جاری پانی اور چھپنے والے شعلہ کے رب اسے اللہ بد نظر کی آنکھ کو لگانے والے (یعنی اس سے) میں واپس لے جا اس میرے تعویذ کو

اَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللّٰهُمَّ رَبِّ اِنْسِ اَنْفُسِ نَافِسٍ وَبَحْرِ وَايْلِ وَاَمْسِ  
 وَحَجْرِيَا بَسِ وَتَرَبِّ دَارِسِ وَمَا وَا بَسِ وَشِهَابِ قَابِسِ اُرِدِدِ اللّٰهُمَّ عَيْنَ الْمُعْيَانِ  
 فِي نَحْرِهِ عَن حَامِلِ كِنَانِي هَذَا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ بِكُلِّ عَيْنٍ نَظَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ  
 بِكُلِّ عَيْنٍ حَقَّقَتْ وَبِيَدِ اللَّطِيفِيْنَ بِكُلِّ عَيْنٍ دَاسِفِيْنَ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ بِكُلِّ عَيْنٍ  
 تَلَفَّتْ وَالسَّمَاءُ ذَاتِ السُّبُوْحِ بِكُلِّ عَيْنٍ تَمُوَّجُ وَالسَّمَاءُ وَالتَّارِيْقِ بِكُلِّ عَيْنٍ كُعَلَدُ  
 رَاسِقُ سَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الرَّعْلِيْ كُلِّ عَيْنٍ سَهْلًا وَحَوْلًا لَا اُسْرُ بِهَذَا الْبَدْرِ بِكُلِّ  
 عَيْنٍ تَقَادِيْ وَالشَّمْسِ وَضَحَاهَا بِكُلِّ عَيْنٍ نَزَاهَا وَتَرَوَهَا بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ  
 وَمِنَ اللّٰهِ وَآلِي اللّٰهِ وَعَزِيْمَةِ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ طَعْمَ  
 عَيْنٍ وَجَعَجَعَتْ وَطَارَتْ وَاسْتَطَارَتْ فَوَقَعَتْ فَانْفَقَتْ بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالَى اَيْت  
 فَسَكْفِيْكُمْ اللّٰهُ لِقَطَا الْعَلِيْمِ اَوْ رَاحِلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

نظر بد سے بچنے کے لیے اسے لکھ کر پاس رکھنا چاہیے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ النَّفْسِي  
 بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْمَالِيْ بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ كُلِّ شَيْءٍ اَعْطَانِيْ رَبِّيْ اُعِيْذُ نَفْسِيْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ  
 اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْبَطْنِ الشَّدِيْدِ وَالسُّلْطَانِ الرَّفِيْعِ ذِي  
 الْقُدْرَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْجُوْدِ وَالْبَقَاءِ وَالسَّنَاءِ الْوَاحِدِ الْمُنْفَرِدِ لَوْحَدَّ اِنِّيْهِ وَاُعِيْذُهَا

عاشیہ صفحہ گذشتہ (باندھنے والے کی طرف سے جب ہر دیکھنے والی آنکھ کے لیے سورج سیاہ کیا جائیگا اور ہر مضبوط  
 نظر کے لیے آسمان پھاڑا جائے گا ہر کم تو نے والے کے لیے ہلاکت ہے ہر نکم نیم جان کیلئے جب آسمان ہر الفت والی آنکھ  
 کے لیے پھٹ جائے گا قسم ہے برجوں والے آسمان کی ہر شوخ آنکھ کے لیے آسمان اور رات کے آنے والے کی قسم ہر  
 شرگین نازک آنکھ کے لیے اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح بیان کر ہر پھڑپھڑے کی مشابہ آنکھ اور کمزور  
 آنکھ کے لیے جو کہ اسے دیکھتی اور پھینچا کرتی ہے اللہ کے نام سے اللہ کی مدد سے اللہ کی جانب سے  
 اور اللہ کی طرف اور اللہ کی عزیمت کی وجہ سے لبریز ہو گئی آنکھ اور طیر صی ہو گئی اور اڑ گئی مبتدا ہو گئی  
 پس ایک گئی اللہ کے اذن سے ۱۲ سیدہ سیم اللہ ہے میری نفس اور مال ہر چیز پر جو کہ میرے رب  
 نے مجھے عطا کی ہے۔ میں اپنے آپ کو اس اللہ کے ساتھ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں

بِالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  
 مِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ نَاطِقَةٍ وَأَذِنٍ سَامِعَةٍ وَالسِّنَةِ نَاطِقَةٍ وَأَيْدٍ بَاهِشَةٍ وَأَرْجُلٍ  
 مَاشِيَةٍ وَقُلُوبٍ وَاجِبَةٍ وَصُدُورٍ خَارِيَةٍ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَعِدُ لَهُ شِهَابًا  
 رَصَدًا وَأُوعِيذُهَا يَا اللَّهُ الْعَظِيمُ مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ قَائِمٍ وَحَاسِدٍ وَمِنْ كُلِّ  
 شَيْطَانٍ مَارِدٍ فِي سَهْلٍ وَاسْنَادٍ وَمَجَالِسٍ وَطُرُقٍ أَدْعُوَاتِكَ وَتَضَرُّعًا وَخُفْيَةً  
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا  
 وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مَنِ الْمُحْسِنِينَ أُعِيذُهَا بِرَبِّ عَيْسٍ عَابِسٍ وَشِهَابِ  
 قَابِسٍ وَكَيْلِ دَامِسٍ وَحَجْرِ بَابِسٍ وَمَاءِ فَارِسٍ فَارِسٍ وَنَفْسِ نَافِسٍ اللَّهُمَّ بِشَرَفِ مُحَمَّدٍ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهَا حَامِلِ كِتَابِي هَذَا مِنْ عَيْنِ الْمُعَيَّنِ  
 وَسُورِيهِ وَحَسْبِهِ جَاعَتٌ فَجَعَجَعَتْ طَارَتْ وَاسْتَطَارَتْ وَفِي عِلْمِ اللَّهِ مَا رَأَيْتَ فَارُجِ  
 الْبَصَرِ كَرَّتَيْنِ يُنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرَ خَاسِعًا وَهُوَ حَسْبُكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ  
 الْعَظِيمِ أُرَايْتِ وَمَنْ يَعْتَسِمُ بِاللَّهِ لَفْظًا مُسْتَقِيمًا تَكْرِيمًا وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

بیک پاک کپڑے یا دھاگے کو تین ہاتھ یعنی ڈیڑھ گز ماپ لیں  
 اور ایک شخص یہ آگے لکھی ہوئی دعا پڑھتا جاوے جب

بیز نظر لگنے کا علاج

رہائشہ صفحہ گذشتہ) پناہ دیتا ہوں و مزندہ اور قائم ہے جلال اور بزرگی والی ہے مضبوط کپڑے والا دریشان بادشاہ  
 اور نیا برہ قدرت اور سخاوت اور بقا اور روشنی والا ہے وہ اپنی وحدانیت کے ساتھ یگانہ و کیل ہے میں اپنے  
 نفس کو اس اللہ کے ساتھ جس کے سوا کوئی معبود لائق عبادت کے نہیں اور جو کچھ کہ آسمانوں اور زمینوں میں  
 ہے اس کی تسبیح بیان کرتا ہے اور وہ غالب و حکمت والا ہے پناہ دیتا ہوں ہر دیکھنے والی آنکھ اور  
 سننے والے کان اور بولنے والی زبان اور کپڑے والے ہاتھ اور چلنے والے پاؤں اور یاد رکھنے والے  
 دلوں منکسر سینوں کی بدی اور شرارت سے آیت پس جو کوئی اب سننے کی کوشش کرے اپنے لیے ایک  
 نگہبان شعلہ تیار پاتا ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں عظمت والے اللہ کے ساتھ ہر سختی کرنے والے سرکش کی شرارت  
 سے جو خواہ کھڑا ہو یا بیٹھا اور حسد کرنے والے اور سرکش شیطان کے شر سے خواہ وہ نیچے زمیں میں ہوں

فارغ ہو تو پھر ناپیں اگر پہلے کی نسبت وہ کپڑا یادھاگ کم یا زیادہ ہو جائے تو معلوم ہوا کہ مریض کو نظر لگی ہے۔ پھر تین دفعہ اسی طرح کپڑا یادھاگے جائیں اور دعا پڑھتے جائیں تیسری دفعہ انشاء اللہ کپڑا یادھاگے جسے کہ آپ نے پہلے پایا تھا۔ اصل مقدار تین ہاتھ پر آرہے گا اور نظر بدکا اثر زائل ہو جائے گا اور اگر کپڑا یادھاگے یہ دعا پڑھنے سے بالکل کم یا زیادہ نہ ہو تو سمجھنا چاہئے کہ مریض کو نظر نہیں لگی ہوئی۔ اور بیماری ہے دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَلاَ بَدَعَ اِلٰہَ اللّٰهِ۔ تین بار پڑھیں پھر سورۃ فاتحہ تین بار پڑھیں پھر یہ کلمات ایک بار پڑھیں عَزَمْتُ عَلَيْكَ اَيْتَهَا اَلْعَيْنُ اَلَّتِي فِي فُلَانِ ابْنِ فُلَانَةَ فُلَانِ كِي جگہ مریض کا بمع اس کی والدہ کے نام لیں بِعِزِّ عِزِّ اللّٰهِ وَبِنُورِ عِظْمَةِ وَجْهِ اللّٰهِ وَبِمَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِلٰی اٰخِرِ خَلْقِ اللّٰهِ مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ اَيْتَهَا اَلْعَيْنُ اَلَّتِي فِي فُلَانِ ابْنِ فُلَانَةَ بِحَقِّ شَهِيبَا بَرَاهِيَا اَدْوِنَايَا اِحْبَاوْتَا اِلِ شَدَايَا عَزَمْتُ

(حاشیہ صفحہ سابقہ) یا بلند مقام پر مجلسوں میں موجود ہوں یا علیحدہ اپنے رب کو گڑگڑا کر اور آہستہ پکار و تحقیق وہ زیادتی کرنیوالوں کو دوست نہیں رکھتا اور زمین میں اصلاح دامن کے بعد فساد ست مچاؤ اور خدا کو خوف اور طمع کی غرض سے پکارو یقیناً اس کی رحمت احسان کرنیوالوں کے قریب ہے میں اپنے لیے پناہ چاہتا ہوں ترشہ کی ترشہ روٹی اور ٹھنڈا شعلہ اور اندھیری رات اور بانے والے دریا اور خشک پتھر اور جاری پانی اور پھونکنے والے نفس کے رب کے ساتھ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور سورہ قتل ہوا اللہ احد کی بزرگی اور برکت سے اس تعویذ کو باندھنے والے کے لیے بد نظر کی آنکھ اور بدی اور اس کے حسد سے حجاب و پردہ چاہتا ہوں وہ آئی مگر ٹھیری ہو کر گری اور اڑی مگر نہ اڑ سکی اور اللہ کے علم میں چلی گئی اپنی آنکھ کو دوبارہ لوٹا آنکھ تیری طرف ذلیل اور وہ افسوس کرتی ہوئی واپس ہوئی اللہ تم کو کافی ہے۔ اور وہ اچھا محافظ ہے۔

۱۲۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے سوا کسی مقصود میں کامیابی نہیں ہو سکتی ۱۲۔ اسے اسے فلاں شخص کی آنکھ میں تھجہ کو دم کرتا ہوں اللہ کی عزت کی بزرگی اور اس کے نور اور چہرہ کی عظمت اور ہر اس چیز کے ساتھ جس پر کچھ آج تک اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فلم جاری ہو چکی ہے نکل جاوے بری نظر فلاں شخص سے جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تنگی و تاریکی سے نکالا اور موسیٰ

عَزَمْتُ عَلَيْكَ آيَتَهَا الْعَيْنُ الَّتِي فِي فُلَانٍ ابْنِ فُلَانَةَ بَعَثَ مَشَهُتٍ بِمَشَتٍ اَشْهَتٍ بِاِقْطَاعِ  
التَّجَا الَّذِي لَا يَقْوَى عَلَيْهِ لَدَارِضٌ وَلَا سَمَاعٌ اُخْرَجِي يَا نَطْوَةَ السُّوْرَةَ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ  
كَمَا اُخْرَجَ يُوسُفُ مِنَ الْمَيْمِنِ وَجَبَلُ لِمُوسَى فِي الْبَعْرِ طَرِيْقٌ وَالْاَخَانَةُ بَرِيئَةٌ مِنَ اللهِ  
بِرِيٍّ مِنْكَ اُخْرَجِي يَا نَفْسَ السُّوْرِ مِنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ بِالْفِ لِحَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ  
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ نَزَّيْتِ وَنَزَلْتُ مِنَ الْقُرْآنِ لِقَطْعِ مُؤْمِنِيْنِ تَمَّ نَزَّيْتِ دَلَّوْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لِقَطْعِ  
يَتَفَكَّرُوْنَ تَمَّ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ  
نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ عَوْنِهِ۔

## باب صغیر یعنی یرقان کے علاج میں

اس کی دو قسمیں ہیں صفراوی، سوداوی، صفراوی کی علامت زنگ کی زردی اور آنکھوں  
کی سفیدی کی زردی۔ لاغری۔ علاج اس کا یہ ہے کہ بکری کے دودھ کا پانی نکال کر اس میں  
تمر ہندی بھگو کر صاف کر کے مصری ملا کر چند روز استعمال کریں اور ہر ایک گرم خشک چیز  
سے پرہیز کریں۔ سوداوی کی علامت بول کا مکدر اور غبارناک ہونا اور زنگ ٹیالا اور سیاہی مائل  
ہونا۔ بدن کی لاغری طبیعت کا خشک ہونا آنکھوں کی سفیدی کا سیاہ ہونا نیند کی کمی علاج  
اس کا یہ ہے کہ پیشانی کے مقدمہ اور سر پر دست و پا کے انگوٹھے پر داغ دیں اور گائے  
کا تازہ دودھ خالص شہد و عمدہ روغن زرد ڈال کر پیائیں اور ہر ایک چیز سے پرہیز کریں۔  
ایضاً گدھے کی لید کا پانی نکال کر مریض کے تھنوں میں چند قطرے ڈالیں۔  
ایضاً خشیشۃ الصبیان و نوشادر و شہد ملا کر پیائیں۔  
ایضاً گندھک زرد ایک حصہ شہد دو حصہ نہار کے وقت استعمال کریں۔

رحاشیہ صفحہ گذشتہ) علیہ السلام کے لیے دریا میں سے راستہ بنایا اگر تونہ نکلی تو اللہ کے ذمہ سے خارج اور  
اللہ تجھ سے بڑی ہے اسے بری طبیعت فدان شخص کی لاجول کی برکت سے نکل جا اللہ بہتر حفاظت کر نوال  
ہے اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ اچھا نگہبان ہے اللہ تعریف اور اچھی مدد کے ساتھ

## باب ۱۱ کلف و نمش کے علاج میں

عموماً چہرہ پر پھورے یا سیاہی مائل داغ ہو جاتے ہیں اس کو کلف کہتے ہیں اور ہندی میں چھائیں اس کا سبب خلط سوداوی ہے جو چہرے کی جلد کے نیچے جمع ہو جاتی ہے۔  
 علاج اگر خشک ہو تو مہندی و لہسن بریاں کو سل پر باریک پس کر موضع ماون پر طلا کریں اور ہر ایک رات و دن رہنے دیں اس کے بعد گرم پانی سے جس میں نمک دھوئی جوشن دیا گیا ہو دھویں اور پھر وہی دوا طلا کریں تین دفعہ ایسا ہی کریں۔ انشاء اللہ بہت جلد آرام ہو جائے گا اور اگر کلف منقرح ہو تو مہندی و پیاز بریاں کو روغن زرد میں گوندھ کر ضاد کریں اسی طرح چند روز کرتا رہے اور ہر ایک گرم پانی سے جس میں نمک ڈالا گیا ہو دھویا کرے اور گائے کا دودھ مکھن اور مہری کے ساتھ کھا یا کریں اور باقی اغذیہ ثقیلہ سے پرہیز رکھیں۔  
 ایضاً مرکی۔ روغن بادام شیریں میں گھس کر کلف پر لگایا کریں۔ ایضاً سیاہ بیل کا پتہ۔ آرد لوبیا۔ انڈے کی سفیدی سب کو ملا کر کلف و نمش پر طلا کریں انشاء اللہ بہت جلد آرام ہو جائے گا۔  
 ایضاً ارنڈ کا مغز پس کر طلا کرنے سے بھی کلف و نمش دور ہو جاتے ہیں۔  
 ایضاً بریا گودا۔ مغز بادام۔ دونوں کو سرکہ میں گھسکر طلا کرنے سے کلف دور ہو جاتا ہے۔  
 ایضاً چقدر شب بیانی۔ کو پیاز کے پانی میں پس کر لگانے سے آرام ہو جاتا ہے۔  
 ایضاً پیاز کا پانی اور سرکہ دونوں کو ملائیں کلف و نمش بریں و بہق کو دور کر دیتا ہے۔  
 ایضاً شیر انجیر میں ارد جو گوندھ کر کلف پر ضاد کرنے سے اس کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔

## باب ۱۲ اس سیاہی و داغ کو دور کرنے میں جو چھیک

### کے بعد پڑ جایا کرتے ہیں

اونٹ کا پھیٹھہ یعنی نمک پکا کر چہرے پر مالش کریں۔ ایضاً قلعی کا ٹکڑا لے کر روغن زیتون میں چکائیں اور اس روغن کو چند روز چہرہ پر ملتے رہا کریں اور مٹیوں اور شہد کھا یا کریں کہ اس سے

سے چہرہ کی رنگت صاف ہوتی ہے اور خوبصورتی بڑھتی ہے۔

ایضاً خرگوش کا خون گرم طلا کرنے سے کلف و نمس دور ہو جاتا ہے۔

ایضاً شیر انجیر میں آرد جو گوندہ کر طلا کرنے سے چہرہ کی سیاہی دفع ہو جاتی ہے۔

ایضاً بندال کوٹ کر طلا کرنے سے بھی یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ ایضاً مہندی ایک

حصہ تخم شلغم دو حصہ دونوں کو پانی میں خوب باریک پس کر چہرہ پر طلا کریں دو تین ساعت کے بعد دھو کر تازہ روغن چہرہ پر ملیں۔ ایضاً چوہے کی چربی طلا کرنے سے بھی یہی نتیجہ برآورد ہوتا ہے۔

## باب ۲۳ رنجسیر و ناک کے زخم کے علاج میں

ترش انار بمبہ چربی اور شہد آگ پر پکائیں یہاں تک کہ مرہم کا قوام ہو جاوے اور ناک

پر لگائیں۔

اس کا سبب خلط دموی کی کثرت ہوتی ہے۔ نجسیر چھوٹا چمپک والے

## نجسیر کا علاج

کے لیے مفید ہے۔ سرکہ عرق گلاب ناک میں رکھنے سے نجسیر بند ہو

جاتی ہے۔ ایضاً گدھے کی لید سرکہ میں پس کر ناک پر صاف کریں۔ ایضاً سرکہ سونگنے سے رعات

فی الفور بند ہو جاتی ہے ایضاً مریض کی پشانی پر یکل تباؤ مستقر و سوت تعلمون لکھ دیں۔

ایضاً انڈے کا چھلکا جلا کر کسی نلکی سے ناک میں چھنکیں۔ ایضاً ہی کا چھلکا دو حصہ، سرکہ تین حصہ آگ پر پکائیں جب ایک تہائی رہ جاوے تو اس میں سے قطرے ناک میں ڈالیں۔

ایضاً کبوتر کی پچال باریک کر کے سرکہ میں ملا کر سونگھیں۔ ایضاً۔ سرکہ کی میل مریض

کے منہ میں ڈالیں فی الفور بند ہو جاوے۔

## باب ۲۴ زکام کے علاج میں

زکام کی حقیقت یہ ہے کہ ناک اور خیا شیم کے منہ میں دغدغہ پیدا ہوتا ہے اور دماغ

اور چہرے میں خشکی لاحق ہوتی ہے۔ سبب اس کا ایک خشک مادہ ہوتا ہے جو دماغ سے اترتا

ہے اور اس سے سر کی رطوبتوں کے مجاری میں ایک قسم کا سدہ واقع ہو جاتا ہے پھر جب



گرمی یا دھوپ کی حرارت وغیرہ دماغ میں اثر کرتی ہے۔ تو وہ رطوبت کی تحلیل کرتی ہے۔ اور رقیق پانی ناک سے بہنے لگتا ہے۔

**علاج کانوں کے سوراخ میں روٹی کا پھوسہ رکھیں اور مہینہ کا دھواں لیں۔**  
**ایضاً۔** بڑا پیاز قطع کر کے روغن میں ملا کر گندم کی روٹی کے ساتھ کھاوے تاکہ زکام پختہ ہو جاوے جب پختہ ہو جاوے تو گندم کی روٹی یکساںہ دنبہ کے گوشت کے ساتھ کھاویں۔  
**ایضاً** کلونجی کو بریاں کروا کر کسی کپڑے میں باندھ کر سونگھتے رہیں۔ **ایضاً** حریل کے دانے آگ پر ڈالیں اور اس کا دھواں ناک میں سچائیں۔ **ایضاً** تھوم کے تجارت ناک میں سچانے سے بھی زکام دور ہو جاتا ہے۔ **ایضاً** کلونجی کو روغن زیتون میں پیس کر روغن کو نچوڑ کر چند قطرے ناک میں ٹپکائیں۔

## باب ۴۳ شقاق لب کے علاج میں

سبز مازو پیس لیں اور صمغ بعلم کو آگ پر گھلا دیں۔ پھر مازو ڈال کر بون پر طلا کریں۔  
**ایضاً** روغن گل یا روغن بنفشہ یا روغن بادام کے ملتے رہنے سے بھی بون کے پھٹ درست ہو جاتے ہیں۔

## باب ۴۴ منہ کے زخم و ورم کے علاج میں

تیز مرکہ سے غرغره کریں۔ **ایضاً** انار کا پھلکا پانی میں جوش دے کر اس سے غرغره کریں **ایضاً** تخم کشنیز روغن زیتون میں جوش دے کر مضمنہ کریں۔ **ایضاً** پھٹکڑی بریاں و نمک کو باریک پیس کر منہ میں چھڑکیں۔ اور غرغره بھی کریں۔ **ایضاً** انار کا پھلکا۔ سماق۔ برگ زیتون گل سرخ۔ قدرے زعفران سب کو باریک پیس کر منہ میں چھڑکیں اور غرغره بھی کریں۔  
**ایضاً** چولائی کے پانی میں شہد ملا کر غرغره کریں۔ **ایضاً** مازو کو سرکہ میں جوش دے کر غرغره کریں سو کوئی بھی معجزہ ہے۔ **ایضاً** جالینوس کا قول ہے کہ منہ نے زخم و لثہ وغیرہ امراض فم کے لیے حنا سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں ہے اگر مہندی کو سرکہ میں گوندھ کر منہ کے زخموں پر

لگایا جاوے تو فی الفور فائدہ دیتا ہے۔ ایضاً سمندر جھاگ کو پانی میں جوش دے کر غزغزہ کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایضاً چنبیلی خشک گل گلاب خشک ہندی سیاہ سب کو پکا کر غزغزہ کریں۔ ایضاً صمغ عربی کو سرکہ میں جوش دے کر غزغزہ کریں۔

## باب ۳۷ گوشت خورہ کے علاج میں

شیرہ انار ترش کوتا ہے کے برتن میں جوش دے کر غزغزہ کریں۔ رازی کہتا ہے کہ اس باب میں سندروس کے برابر کوئی دوا نہیں۔ اس کے علاوہ زنگار کو شہد و سرکہ میں پکائیں منہ کے زخموں اور ردی عقوتوں کے واسطے بہت مفید ہے۔

## باب ۳۸ دانتوں کے درد و زردی کے علاج میں

**دانتوں کے درد کا علاج** قرۃ قنطرس دونوں کو پس کر سرکہ میں پکائیں اور غزغزہ کریں۔ اگر دانت ہلتے ہوں تو اس کے ساتھ مازو بھی شامل کریں۔ اگر دانتوں میں کچھ درم ہو تو بیٹھی کے جو شانہ سے غزغزہ کریں۔

**دانتوں کی زردی کا علاج** زیتون کی جڑ سے مسواک کریں اور زیل کے پتے اور شہد کو ملا کر مضمضہ کریں۔

## باب ۳۹ دانتوں کے علاج میں

دانت بڑھے ہوئے ہوں۔ یا گھاٹے ہوئے ہوں یا ٹوٹے ہوئے ہوں، یا بے سبب ہر وقت خون جاری رہتا ہو ان سب حالتوں میں ان کا سبب رطوبت فاسدہ متعفنہ ہوتی ہے علاج مازو یا پکائی گلاب کو سرکہ میں گوندھ کر دانتوں کی جڑوں پر ضماد کریں نیز انہیں اشیاء سے غزغزہ کیا کریں۔ ایضاً پھلگری کو سرکہ میں پس کر دانتوں پر ملیں۔ جالینوس و رازی کا قول ہے کہ درد والے دانت میں انڈے کی زردی دروغن زیتون گرم کر کے قطرہ ڈالنے سے درد ساکن ہو جاتا ہے۔

نیز بزرالینج سفید کوٹ کر شہد میں ملا کر مقدار خود مریض کو کھلائیں درد ساکن ہو جاتا ہے اگر بزرالینج سفید یا فیون دونوں کو نیز سرکہ میں جوش دے کر غزہ کریں درد فوراً دور ہو جاتا ہے اگر بزرالینج سفید و فیون شہد میں گوندھ کر مریض کو بقدر خود کھلائیں تو فی الفور درد موقوف ہو جائے اگر درد سردی کی وجہ سے ہو تو ان پر زنجبیل ملنی چاہیے اگر گرمی یا خلط غلیظ سے ہو تو سرکہ میں پانی ملا کر غزہ کریں فی الفور درد بند ہو جاتا ہے۔ اگر خنظل کو سرکہ میں پکا کر ایک ساعت منہ میں رکھیں تو درد دانت کو آرام دیتا ہے۔ سرکہ کو مہین کر در دوائے دانت پر چھڑکنے سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے۔

ایضاً۔ مائیں داسی بھی اس کام میں مفید ہیں۔

## باب شمس یعنی داڑھ کی درد کے علاج میں

یہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو کثرت پروردت کے سبب سے دوسرے کیڑے کی حرکت سے جو داڑھ کے اندر مادہ متعفنہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ علاج فلفل۔ لہسن دونوں گندم کے گوندھے ہوئے آٹے میں ملا کر ڈاڑھ پر صفا کریں۔ ایسا ہی اگر فلفل و سینگ کو باریک کر کے شہد میں ملا کر داڑھ پر لگاویں اور منہ ڈھیلا چھوڑ دیں تاکہ لعاب نکلتا رہے۔ اگر اس تدبیر سے آرام نہ ہو تو ڈاڑھ میں کیڑا ہوگا۔ اس حالت میں سوئی کی نوک گرم کر کے ڈاڑھ کے کئے کنارہ پر رکھیں اگر ڈاڑھ میں سوراخ ہو اور اگر سوراخ نہ ہو تو ڈاڑھ کو نکلوا دینا چاہیے۔ ایضاً مازی کا قول ہے کہ دانتوں کے درد میں سرکہ و نمک سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں۔ یہ دوائے (مسوڑوں) کو مضبوط کرتی ہے۔ نیز کہا ہے کہ دانتوں کی جڑوں سے مادہ فاسدہ نکالنے میں کوئی چیز شحم خنظل و سرکہ سے بڑھ کر مفید نہیں ہے۔ ایضاً خنظل کی جڑ کو باریک پس کر سرکہ میں ملا کر ڈاڑھ پر طلا کریں تین دن ایسا کرنے سے بالکل آرام ہو جاتا ہے۔ ایضاً عاقر قرحا۔ خنظل کو باریک پس کر روٹی کے پھوپھ پر لگا کر داڑھ میں رکھیں ایضاً خنظل۔ کریمہ جنگلی۔ دونوں پس کر نیز سرکہ میں ملا کر ڈاڑھ پر صفا کریں بہت مفید و مجرب ہے۔ ایضاً مہندی کو شہد میں گوندھ کر ڈاڑھ کے سوراخ میں بھریں۔ ایضاً فلفل کو روغن تارپین میں

پیس کر سوئی کی نوک سے ڈاڑھ میں بھر دیں۔ ایضاً تخم فلفل کو سرکہ کے ساتھ آگ پر پکائیں اور ڈاڑھ میں پر کریں۔

## باب ڈاڑھ کا علاج کتابت کے ساتھ

ایک میخ کے ساتھ زمین پر یہ سات حرف کہتے ہوئے نقش کریں اور پہلے حرف میں میخ کا سر گاڑ دیں اور سورہ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلِيِّ۔ الخ سات دفعہ پڑھیں اور مریض اپنی انگلی سے ڈاڑھ کو پکڑے رہے۔ اگر درد ٹھہر جاوے تو میخ کو پہلے ہی حرف میں گاڑی رکھے ورنہ میخ کو دوسرے حرف میں گاڑ دے اور عمل کرتا جائے اگر درد تھم جاوے تو بس کرے ورنہ تیسرے حرف میں گاڑے اور عمل کرتا جائے اگر آرام نہ ہو تو آخری حرف تک یہ عمل کرتا جائے اور سورہ کو اونچا نہ پڑھے یہ صحیح و مجرب ہے۔

اَيْضًا اسْمَاءُ ذِي الْقُوْنَيْنِ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ لَفِظٌ مُّؤْتَاكُمُ مَّوْتًا  
 کو روٹی کے ٹکڑے پر لکھیں۔ اور درد والی داڑھ سے چبوائیں اور کتنے کو ڈال دیں انشاء اللہ  
 آرام ہو جائے ایضاً روٹی کے ٹکڑے پر اسماء ذیل مسہد ۱۱۱۱۔ لکھ کر مریض ڈاڑھ سے  
 چبوائیں ایضاً کسی لکڑی پر یہ اشکال ۱۱ اور ۱۱۶۹۲ ان ۱۱۶ طوفا ان لکھیں اور ہر حرف پر میخ رکھ  
 کر تھوڑی سے ٹھونکتے جائیں جس حرف پر درد تھم جاوے وہاں میخ گاڑ دیں پھر نہ نکالیں  
 اگر میخ نکل جائے گی تو پھر درد شروع ہو جائے گا۔

اَيْضًا اشکال مذکور کسی دیوار پر لکھے اور مریض کو کہے کہ اپنی انگلی داڑھ پر رکھ لے  
 پھر پہلے حرف پر میخ رکھ کر آہستہ آہستہ ٹھونکتا جائے وَتَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا وَآلَةً  
 مَا سَكَنَ لَفِظُ الْعَلِيمِ پڑھنا جاوے اور مریض سے پوچھنا جاوے کہ درد تھم گیا یا  
 نہیں جس حرف پر وہ کہدے کہ تھم گیا ہے وہاں ہی میخ کو گاڑ دے اور پھر نہ نکالے یہ کئی  
 دفعہ کا مجرب ہے۔

## باب ۵۲ دانتوں کے سفید کرنے میں

نک، کوئلہ، شکر کو پیس کر شہد میں گوندھ کر دانتوں پر ملا کریں اس سے دانت نہایت صاف ہو جاتے ہیں۔ ایضاً عقیق نہایت باریک پیس کر دانتوں پر ملا کریں نہایت مفید ہے۔ ایضاً مازو باریک پیس کر تیز سرکہ میں ملاویں اور غھوڑا سانک ملا کر دانتوں پر ملا کریں بعد اس کے بکری کا سینگ جلا کر دانتوں پر ملیں نہایت سفید ہو جاتے ہیں۔

## باب ۵۳ ورم لسان کے علاج میں

مولف کہتا ہے کہ ایک شخص کی زبان سوج گئی یہاں تک کہ منہ میں نہیں سما سکتی تھی میں نے اس کا جب قویا سے استفراغ کیا اور سنس کا پانی اس کی زبان پر رکھوا تا گیا۔ وہ اچھا ہو گیا۔ علاج تخم السی باریک کر کے منہ میں رکھنا ورم لسان کو فائدہ دیتا ہے۔ ایضاً عروق زریوج روغن زیتون میں پکا کر مضمضہ و غرغره کریں۔ ایضاً عروق ضر و پانی میں پکا کر تین دن تک غرغره کیا کریں۔

## باب ۵۴ لہات زالو کے ورم کے علاج میں

نیز مسوڑوں و خناق کے علاج میں

اس حالت میں انگریز روہ سے پرینہ پرتا چاہیے اور سرکہ شہد ملا کر غرغره کریں یا ترہندی یا سفر جل و زعفران کو پانی میں جوش دے کر سرکہ ملا کر غرغره کریں یا مازو سرکہ میں پکا کر غرغره کریں یا بیل کا پتہ شہد یا روغن زیتون میں ملا کر غرغره کریں۔ ایضاً اگر یہ ورم سات دن سے تجاوز کر جائے تو منگ نصف درم سرکہ میں پیر کر اور پانی ملا کر ہر روز کئی بار غرغره کریں۔

## باب ۵۵ منہ کی بدبوئی کے علاج میں

یہ ایک بدبو دار سوا ہوتی ہے جو کلام کرنے کے وقت دانتوں سے نکلتی ہے۔ اس

کا سبب ایک رطوبت فاسدہ متعفنہ ہوتی ہے۔ جو پیٹ میں فم معده پر پوشیدہ رہتی ہے۔  
علاج قرنفل ٹوم دونوں باریک پس کر خالی معده اور سوتے کے وقت کھایا کریں  
اور چند روز مداومت کریں کہ نہایت مفید و مجرب ہے۔

ایضاً برگ گندنا۔ جب رند ہر دو کو باریک کر کے دانت و زبان و تالو پر ملا کریں۔  
ایضاً آرد تود و حصہ نمک طعام ایک حصہ دونوں کو ٹکیا بنا کر جلا لیں۔ پھر پس کر  
ملا لیں یہ دانتوں کی زردی اور منہ کی بدبو کے کو دور کرتی ہے۔ سبز جاو تری شہد میں ملا کر زبان  
پر رکھنے سے بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ایضاً قرنفل مصطکی پھسکڑی سفید انار کا چھلکا  
سب کو باریک کوفتہ بیختہ کر کے دانتوں و تالو زبان پر ملیں۔

## باب ۵۶ اورام حلق کے علاج میں

حلق کا ورم اگر سات روز سے تجاوز کر جاوے تو ہینگ نصف درم کو سرکہ میں ملا  
کر غزہ کریں نہایت مفید و مجرب ہے۔

اس مرض میں مریض کچھ نگلی نہیں سکتا کھانے پینے سے  
لاچار ہو جاتا ہے اس مرض کو ترکی زبان میں ہجیک بولتے

الطباقی المری کا علاج

ہیں۔

علاج انڈے کی زردی تھوڑا سا نمک کسی قدر مکھن سب کو ملا کر حلق میں ڈالیں دن  
میں چند بار ایسا ہی کریں۔

## باب ۵۷ بھوتہ الصوت رگلا بیٹھ جانا کے علاج میں

ہوا کی نالی میں خلط بلغمی کا زیادہ ہو جانا اس کا سبب ہوتا ہے۔

علاج زنجبیل کا مرہ اور شیریں اشیاء کا استعمال کرنا اور ترش اشیاء و دودھ  
سے پرہیز کرنا اس مرض کے واسطے نہایت مفید و مجرب ہے۔ تیز سیاہ مرچ و گھاں یعنی  
دار فلفل و جلدان اور جوز الطیب و جوزة الشکر اور لسان العصفور اور قافلہ ان سب کو

باریک کوٹ کر بکری کی دبر و جنت، کاٹ کر اس میں رکھ کر دونوں طرف سے سی دیں اس کے ساتھ نصف سیر موٹی بھیرٹی کے گوشت میں پکاویں اور پانچ سات روز صبح خالی پیٹ کھاویں انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

ایضاً آرد باقلا۔ تخم السی۔ بادام مقشر۔ حب صنوبر سب کو باریک کر کے خالص شہد میں گوندہ لیں اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا زبان کے نیچے رکھ کر لعاب چوستے رہیں۔  
ایضاً صمغ کیترا۔ صمغ عربی۔ ہر ایک دو مثقال حب صنوبر چار مثقال سب کو باریک پیس کر اس میں سے تھوڑا تھوڑا زبان کے نیچے رکھتے رہیں اور نکلتے رہیں۔ ایضاً فلفل، دار فلفل۔ کشنیز۔ جانفل۔ عبادتزی۔ سب کو باریک کر کے بطریق مذکور استعمال کریں۔ ایضاً ہینگ کو گرم پانی میں ملا کر پینے سے آواز کی سختی اور گلا بیٹھنے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔

## باب ۵۱ وار الثعلب کے علاج میں

اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے سر یا دڑھی کے بال گر جاتے ہیں۔ اس کا سبب خلط سوداوی کی زیادتی ہوتی ہے۔ علاج پہلے مسہل سوداؤ دیا جاوے پھر سارا سراسرے سے مونڈا جاوے پھر پانی میں نمک و سماکہ جوش دے کر اس پانی میں ایک گھڑی کھجور بھگو کر سر کو خوب زور سے بلین تاکہ فاسدہ چمڑا سرخ ہو جائے پھر استرے سے شرط (پھینے) لگائے جاویں تاکہ خون نکل آوے۔ پھر درمنہ ترکی جلا ہوا اور راکھ شہد میں ملا کر اور پیاز کے پانی میں گوندھ کر سر پر طلا کریں۔ اور ایک رات و دن رہنے دیں۔ اسی طرح یہی عمل سات دن تک کرتے رہیں جب بال اگنے لگ جاویں اور سر کو ڈھانپ لیں تو پھر منڈا ڈالیں کہ اس کے بعد نہایت عجیب بال پیدا ہوں گے۔

ایضاً پیاز لے کر مریض جگہ پر خوب زور سے گھسیں پھر بھیرٹی کی چربی سے تدہیں کرتے رہیں یا سانپ کا چمڑا جاکر راکھ سا بنا کر اس جگہ پر چھڑکتے رہیں اور بھیرٹی کی چربی سے مالش کرتے رہیں۔

ایضاً خوب ذیل ہر روز رات کے وقت تین گولی کھاتے رہیں۔ تخم حنظل۔ مغمونیا

کشینز مہرا یک مساوی سب کو کوٹ کر بقدر جنگلی بیروگیاں بنائیں اور استعمال میں لائیں۔

## باب ۵۹ خنازیر کے علاج میں

برگ زڈے کے کر اس کا تیل نکال کر خنازیر پر لگانے میں۔ انشاء اللہ خنازیر دب جائیں گے۔  
ایضاً صبر سقوطی مرکی۔ زنگار۔ سب کو باریک پس کر۔ گھی۔ شہد۔ سرکہ میں گوندھیں اور  
ہر روز گرم پانی سے دھو کر اس کے اوپر اس کا طلا کیا کریں۔ نہایت مفید، صحیح، اور مجرب ہے۔

## باب ۶۰ داد کے علاج میں

اس کا سبب غلط سو داوی کی زیادتی ہوتی ہے۔ علاج داد کی جگہ کونک سے کھجائیں  
۔ یہاں تک کہ خون نکل آئے۔ پھر اس پر پکری کے سینگوں کی راکھ روغن تارپن سے گوندھ کر طلا  
کریں اور دودھ لگی جتنا ہو سکے استعمال کریں نہایت مفید و مجرب ہے۔ ایضاً پھنگری بریاں  
گندھک۔ صابون۔ سرکہ سب کو ملا کر داد پر ضما د کریں۔ ایضاً صمغ عربی کو سرکہ میں حل کر کے داد  
ضما د کریں۔ ایضاً۔ گندھک۔ صابون بارود۔ سب مساوی لے کر سرکہ میں گوندھ کر ضما د کریں۔  
ایضاً چیتا کا گوشت و چربی روغن زیتون میں مہرا کر کے داد پر ضما د کریں۔ یہ دوا داد کے  
واسطے سب ادویہ سے زیادہ نافع ہے۔ ایضاً پہلے داد کے مقام پر چونکیں لگوائیں۔ پھر  
اس پر پھنگری و شہد۔ سرکہ ملا کر ضما د کریں۔ داد پر روغن تارپن کا لگانا بھی فائدہ کرتا ہے۔ ایضاً  
گندھک تیز سرکہ میں پس کر ضما د کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے ایضاً بے بجا چونہ، تھوڑا  
ساتازہ سداب دونوں کو ملا کر داد پر ضما د کریں۔

## باب ۶۱ بہنق کے علاج میں

یہ سفید زردی مائل داغ ہوتے ہیں جو سینہ یا شکم وغیرہ پر نمودار ہوتے ہیں اور برص  
کے مشابہ ہوتے ہیں۔ علاج نظرون و سداب سے دھوکہ پھر چقدر کے پتوں سے دھوئیں۔  
بیخ کبر کو باریک کر کے سرکہ میں ملا کر طلا کریں۔ نیز قفل۔ نظرون۔ آرد ترمس زبد البحر۔ سب کو



پیس کر سرکہ میں ملا کر ضماد کریں۔

تسکوفہ انگور کا کھانا بھی فائدہ دیتا ہے۔ ایضاً عرق بھوں میں کوڑی گلا کر موضع بہق پر طلا کرنا فائدہ میں سریع التاثر ہے۔ ایضاً برگ زکار باریک پیس کر نچوڑیں اس میں روغن زیتون ملا کر موضع بہق پر ضماد کریں صحیح و مجرب ہے۔

## بہق و برص کا علاج

بیسر کا پتہ برص و بہق پر پالش کرنے سے نہایت فائدہ ہوتا ہے۔ ایضاً پیلے مہل سودا دینا چاہیے۔ پھر شیطر ج۔ ترب۔ مجیٹھ۔ عاقر قرعہ۔ خروں سب کو باریک پیس کر سرکہ میں ملا کر طلا کریں۔ اور اس شہاد بلغم افراد سے پرہیز کریں اور شراب کھند استعمال کریں کہ مفید ہے۔

افیتوں کو جوش دے کر پیے اسہال لیں۔ پھر نسقہ ما قبل سے طلا کریں کہ انشاء اللہ اچھا ہو جاوے گا۔

## بہق اسود کا علاج

### باب ۶۲ بغل گند کے علاج میں

مجیٹھ و مصطکی ہر دو کو پانی میں جوش دیں۔ یہاں تک کہ پانی سرخ ہو جاوے پھر اس پانی سے بغل کو دھویا کریں۔ ایضاً مرہم کو عرق گلاب میں پیکر اس میں کپڑا تر کر کے بغلوں پر پھیرا کریں۔ کئی دفعہ کئی روز کرتے رہیں۔ کہ بد بو دور ہو جائے گی۔ ایضاً صابون بغل پر طلا کرنے سے بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ایضاً مرہم سفید شہ مردہ سنگ (کو روغن گل میں ملا کر ضماد کریں مفید ہے۔

### باب ۶۳ حمہ رمرخ دانے کے علاج میں

جو موسم گرما میں کندھوں و جوڑوں پر نکل آیا کرتے ہیں

## تعریف

اس کی حقیقت یہ ہے کہ گری کے موسم میں بہت پانی پینے سے اور گرم کھانا کھانے

سے انسان کے بدن پر یہ دانے نمودار ہو جاتے ہیں اس کا سبب خون کا

جوش ہوتا ہے۔ علاج حسب الزند رزدا ایک درخت ہے مبارک شیر المنافع، یعنی اس

درخت کے بیج کو پیس کر ہانڈی میں پکائیں پھر اس میں شہد و چاول ڈال کر حسب معمول پکا

کر سات روز تک یہی کھائیں۔ علاج اس سرخی کا جو ننگے پاؤں چلنے سے ہو جاتی ہے۔ ننگے

پاؤں چلنے سے تین نقصان ہوتے ہیں۔ نقصان جماع، نقصان صحت نقصان بصر علاج

اس کا یہ ہے کہ قلفہ کا ساگ، چاول و مسم کھا دیں اور انہیں اشیاء کو گھوٹ کر مری پر طلا

کریں ایک سرخی باعث کثرت کام و محنت و مشقت کے ظاہر ہوا کرتی ہے اور اس سے

کمر میں درد۔ وجع الخاصہ و عرق النساء وغیرہ امراض ہو جایا کرتے ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے کہ

قرنفل۔ زیرہ سیاہ۔ خرفہ سیاہ، تخم پیاز۔ سب کو باریک پیس کر شہد میں معجون بنا دیں اور

سات روز تک کھا دیں۔ ایضاً حریل کو فتنہ بجھتہ کر کے سرکہ میں ملا کر طلا کریں۔

ایضاً پرانا سینگ جلا کر گرم کلمہ کے پانی میں ملا کر سرخ دانوں پر طلا کریں۔

## باب ۶۲ علاج اس زرخ کا جو مفاصل ہاتھوں اور

### بازوؤں میں پیڑ جاتی ہے

یاد رہے کہ زرخ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ سرد خشک۔ گرم وتر، سرد تر۔ لیکن یہ زرخ سرد

خشک ہوتی ہے۔ اور مریض کی ساقین و ذرا عین میں بھر جاتی ہے۔ جس سے بدن پر سخت

خارش پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خارش کرنے کے بعد زرد پانی نکل آتا ہے۔ ابو الطیب کہتا ہے

کہ علاج اس کا یہ ہے کہ تخم خرفہ باریک پیس کر سات دن تک پیتے رہیں۔

تخم مینھی باریک پیس کر اس پر اتنا سرکہ

ڈالیں جس سے وہ پوشیدہ ہو جاویں۔

### ریح المفاصل والورک کا علاج

ساتھ اس کے شیرہ کرنب بھی شامل کریں جب گاڑھا قوام ہو جائے تو اتنا کر کسی کپڑے پر

یپ کر کے مرضی جگہ پر طلا کریں۔ اسی طرح چند روز کرتے رہیں یہاں تک کہ شفا ہو جائے  
 ایضاً چند روز غاریقون کا استعمال رکھیں کہ مفید ہے۔ ایضاً وشتق کا شہد میں ملا کر چند روز  
 تک چٹا کریں۔ ایضاً کلونجی ایک اوقیہ، عاقرقرا چار درم، تخم حنظل دو درم، سب کو باریک  
 کوٹ کر ایک لوسے کی کڑاہی میں ڈالیں اور روغن زیتون سے ادویہ کو ڈھانپ کر دھوپ  
 میں پندرہ روز تک رہنے دیں۔ پھر اس روغن سے مالش کیا کریں۔ اس کا نام دہن الناقد  
 ہے۔ کیوں کہ وہ جلد سے گوشت و ہڈی تک نفوذ کرتا ہے۔ ایضاً حنظل کو روغن زیتون میں  
 پکا کر اس تیل سے مالش کریں مفید ہے۔

## باب ۶۵ اس زردی کے علاج میں جو ہاتھ پاؤں پر ہوا ہے

روغن گاؤ۔ موم سفید، جائفل، گندھک زرد، مرغ کی چربی، بکری کے گردہ کی چربی سب  
 کو ملا کر مرہم سبنا لیں۔ اور اعصاب پر مالش کیا کریں۔ ایضاً باد بخان، حنا، قشر الفکرون سب  
 کو باریک پس کر اس جگہ پر طلا کریں۔

روغن زیتون خالص، سرکہ، پیاز  
 کا پانی سب کو آگ پر ملا کر مالش کیا  
**ہاتھ پاؤں کے مھٹ جانے کا علاج**  
 کریں انشاء اللہ آرام ہو جاوے گا۔ ایضاً ریوند چینی، سلیمانی، ہر ایک ۵ درم پارہ اٹھ  
 درم، لوبان، درمنہ ترکی ہر ایک پانچ درم سب کو پس کر مھٹ میں بھریں، نہایت مفید ہے۔

## باب ۶۶ مستون کے علاج میں

یہ ایک قسم کی روئیدگی ہے جو انسان کے جسم میں منخ کی طرح اُگ پڑتی ہے۔ اس کا سبب  
 غلط سوداوی اور بلغمی کی کثرت ہے علاج پہلے مسهل سوداوی لیا جاوے اور پھر ان مسوں میں  
 سے بڑے مسے کو کسی ریشم کے دھاگے سے باندھ دیں اور استرے سے اس کا سر کاٹ  
 دیں اور ہڑتال، چونہ۔ نوشتا در سب مساوی لے کر باریک پس کر۔ اس پر چھڑک دیں تاکہ  
 دوا اندر گھس جائے اور اس کی جڑ کو کھا جائے اور اس عمل سے درد سوتو گھی گرم کر کے

ٹکور کریں اور اوپر بھی ٹپکائیں تاکہ درد ٹھہر جائے جب وہ بڑا مسہ مر جائے گا تو باقی سے خود ہی مر جائیں گے۔ نہایت مجرب اور صحیح ہے۔ ایضاً نذگروں کا پانی جس میں سونا اور چاندی بچھایا کرتے ہیں۔ لیکر مسوں پر لگاویں اور خشک ہونے دیں۔ ایضاً بکری کی مینگنی نمک طعام زنجبیل ہر ایک مساوی کوٹ کر آگ پر چڑھا دیں۔ جب گرم ہو جاوے تو اتار لیں اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر پانی ملا کر مسوں پر طلا کریں۔ ایضاً خرگوش کا بھیجا مسوں پر تین دن متواتر لگانے سے بھی یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح انجیر و آرد جو کوپکا کر مٹھے پر لگانا بھی فائدہ کرتا ہے۔

## باب انگلیوں کے ورم اور داخس یعنی چند روز کے علاج میں

داخس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی انگلی اپنی جڑ سے لے کر ناخن تک ورم کر جاوے اس کا سبب خون کی حرارت ہوتی ہے۔ جو وہاں جمع ہو جاتی ہے۔ علاج انگلی پر میوں چیر کر باندھ دیں اور ایک رات و دن باندھے رکھیں اور بازو باریک پیس کر سرکہ میں گوندھ کر انگلی پر ضماد کریں اور انگلی کو سرد پانی میں رکھیں۔ ایضاً گبوتر کی تازہ بیجاں داخس پر ضماد کرنے سے داخس بھٹ جاتا ہے اور بہت جلد افاقہ ہوتا ہے۔

**ورم کا علاج** | آرد شیر باندھی میں ڈال کر اس پر شہد زیتون۔ پانی ڈالیں اور پکا کر انگلی پر ضماد کریں۔

ایضاً گرم ورم کے لیے انڈے کی سفیدی۔ زیرہ، مخوم، صابون، روغن زرد، روغن زیتون۔ حرلی، کاسنی۔ اشنان سب کو باریک پیس کر زنگار ملا کر ورم پر ضماد کریں۔ ایضاً کشتیر، سداب، مردار سنگ، روغن گل، سرکہ، آرد جو سب میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر سرکہ میں پکا کر ورم پر ضماد کریں۔ قوی التحلیس ہے۔

## باب ۲۸ وجع النظر۔ وجع الورک۔ وجع المفاصل نقرس

### کے علاج میں

کمرو جوڑوں کی درد کے لیے ہینگ ایک حصہ، کلونجی ایک حصہ دونوں کو باریک کر کے شہد خالص میں معجون بناویں۔ اور صبح و شام بقدر ہم رتی کام میں لاویں مجرب و صحیح ہے۔

ایضاً بیخ کبر۔ بیخ آک۔ بیخ بادیاں۔ بیخ صنوبر۔ بیخ سوبانجنہ۔ کرفس۔ انیسوں سب کو تھوڑا تھوڑا لے کر ایک دیکچہ میں ڈالیں اور پانی سے بھر کر جوش دیں۔ اور چار پائی کے نیچے رکھ کر درک وغیرہ اعضاء کو بھاپ دیں۔ ایضاً حمرل کو باریک پیس کر روغن زیتون ملا کر آگ پر مثل حلوا بناویں اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا ہر روز بوقت نہار استعمال کریں۔

بھیڑیے کی بڑی باریک پیس کر اس میں آرد حلیہ ملاویں۔ پھر ان میں سرکہ ڈال کر پکائیں اور جہاں درد ہو اس کا ضماد کریں

### نقرس کا علاج

ایضاً قشاد الحمار رجلی کرلیا، سرکہ میں پکا کر ضماد کریں نہایت مفید ہے۔ ایضاً بکری کی چربی۔ روغن حنا، آگ پر ملا لیں پھر کمر کو گرم پانی سے دھو کر اس روغن سے مالش کریں۔ سات روز تک کریں نہایت مفید ہے۔ ایضاً فلفل، زنجبیل، جوزة الشکر سموزن لے کر باریک کریں اور بکری کے پتے میں ملا کر درک پر ملا کریں۔ ایضاً حنظل لے کر ٹوٹے ٹوٹے کریں اور خوب پکائیں پھر اتار کر سرد کریں۔ پھر صاف کر کے دوبارہ جوش دیں۔ اور صاف کریں اور شہد ملا کر پھر جوش دیں۔ اور سخت قوام کر کے گولیاں بقدر خود بنا لیں ایک گولی صبح اور ایک شام استعمال کیا کریں۔ نہایت مفید و مجرب ہے۔ ایضاً شیرہ کرنب، آرد حلیہ۔ سرکہ میں پیس کر ضماد کرنا بھی نہایت مفید ہے۔ ایضاً سیبہ کی چربی کم و مفاصل پر مالش کرنا نہایت صحیح و مجرب ہے۔ ایضاً مصطکی دس درم، شکر تری دس درم۔ ان کو باریک کر کے تین درہم شہد میں ملا لیں اور صبح و شام بقدر ۶ ماشہ اس میں سے استعمال کریں۔ ایضاً معجون مسک بھی نہایت مجرب ہے اس کی ترکیب یہ ہے مسک۔ سیلخہ۔ سنبل ہندی۔ پکھان بید ہر ایک سے دو درہم۔ تخم کرفس۔ مصطکی۔ کمون۔ زعفران ہر ایک سے تین درم۔ سنکلی۔

قرنفل - عور ہر ایک سے نصف درم سب کو کو فتنہ بیختہ کر کے سہ چند میں معجون بنالیں اور بقدر ۲ ماشہ صبح و دو ماشہ شام استعمال کریں۔ **ایضاً** عاقرقرہ ایک درم حسب الرشد پانچ درم - زنجبیل ایک درم سب کو کو فتنہ بیختہ کر کے سہ چند شہد میں معجون بنالیں اور صبح و شام بقدر برداشت طبع کام میں لادیں۔ **ایضاً** فلفل سیاہ، بلخ طعام دونوں کو خوب باریک کر کے ان سے دو گنا آرد جو ملا کر نہیں گوندھ کر مگر یہ طلا کریں صبح و مجرب ہے۔

## باب ۶۹ مرفق و رکیہ کہنی و گھٹنے کی درم کے علاج میں

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعضا باعث برودت و یوست کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ منغز خیارین۔ حلبہ، سرکہ، ہر سہ مساوی لیکر روغن زیتون یا روغن گنجد ملا کر آگ پر جوش دیں اور اس میں کسی قدر تھوم و نیک بھی ڈال دیں۔ پھر اس روغن سے اس جگہ کو مالش کریں اور جو کچھ باقی بچے اس سے رات کے وقت اس جگہ پر ضما د کریں۔ صبح کے وقت دوا کو دور کریں۔ اور پھر نیل و گرم گرم کر کے مالش کریں۔ اور عضو کو آہستہ آہستہ کھینچیں دن کے وقت مالش کریں۔ اور عضو کھینچا کریں۔ اور رات کے وقت وہی دوا لپ کیا کریں۔ صبح کو پھر دوا دور کر کے مالش و تمدید کریں۔ اسی طرح کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ عضو سیدھا ہو جائے یہ تدبیر مجرب و صحیح ہے۔ نیز حلبہ کا جو شانہ جو ہم نے باب ادویہ میں بیان کیا ہے استعمال کریں۔ نیز شہد خالص روغن زرد میں کسی قدر تھوم ڈال کر استعمال کیا کریں۔

### گھٹنے کی ریکی درد

حارل زیتون۔ پرانا گھی۔ حارل کو پیس کر روغنوں میں ملا کر آگ پر پکائیں اور اس روغن سے عضو کی مالش کریں **ایضاً** بکری کی مینگنی سرکہ میں اور بکری کے خون میں ملا کر عضو ماؤن پر طلا کریں۔ **ایضاً** بابونہ برگ کتان۔ بھوسی گندم۔ پانی میں جوش دے کر عضو پر نطول کریں۔ **ایضاً** بکری کی مینگنی دو جزو آرد جو ایک جزو سرکہ روغن زیتون میں پکا کر ضما د کریں نیز سیرابی حوری کی مالش بھی فائدہ دیتی ہے۔ **ایضاً** عروق تفرزہ عروق مرغنیس بھوسی گندم میں ملا کر نبوش دیں اور گھٹنوں پر باندھیں۔

کنیوں کی ورم عظیم کا علاج | اس کا سبب خلط بلغمی و دموی کا اجتماع ہے۔

علاج گھٹنے کے اطراف پر پھپھنی لگا دیں اور سرکہ میں مرتک پس کر ضما د کریں۔ اور اغذیہ لطیفہ کا استعمال کریں اور غلیظ سے پرہیز۔ ایضاً ارنڈ ایک اوقیہ روغن گاؤ ایک اوقیہ شہدہ خل ہر ایک ایک اوقیہ سب کو ملا کر کپڑے پر بچھاویں اور درد کی جگہ پر لگاویں۔

## باب ورم ساقین و وضع قدین کے علاج میں

اس کو راء ایضاً بھی کہتے ہیں اس میں ساق یعنی پنڈلی سوج کر ہاتھی کی پنڈلی کی مانند ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ خلط غلیظ سوداوی خلط بلغمی سے مل کر اس کا باعث ہوتی ہے۔ علاج دونوں پنڈلیوں پر ہر دو طرف پھپھنی لگاویں اور مرتک سرکہ میں پس کر ضما د کریں اور سرکہ و شہدہ پیا کریں اور لطیف معتدل غذا کھایا کریں۔

قدم اور پنڈلی کے درد کا علاج | ہر روز تین درم روغن بادام تین دن تک استعمال کریں۔

## باب شقاق الرجلین یعنی پاؤں کے پھٹ جانے

### کے علاج میں

روغن زیتون ملا کریں یا سرکہ و پیاز روغن زیتون میں پکا کر پھٹ کے اندر ڈالا کریں۔ ایضاً بکری کا پھیٹھڑا انگاروں پر بھوئیں پھر چھری سے چھا کر شقاق پر رکھیں جب اس کی حرارت محسوس ہو تو اٹھائیں اسی طرح چند بار کریں۔

ایضاً راوند عمدہ، حسیمانی، پارہ، لوبان، درمنہ ترکی ہر ایک مساوی کوفتہ بجختہ کر کے پانی میں گوندھ کر ضما د کریں۔

## باب ۲۱ قویخ کے علاج میں

یہ ایک خشک ریح ہوتی ہے جو بخارات کو پیٹ اور انتڑیوں میں جانے سے روکتی ہے اس کے غلبہ کے وقت انسان ناک پڑھتا ہے اور سانس روکتا ہے۔ یہاں تک کہ روح نکلتا ہوا معلوم دیتا ہے۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ گرم، سرد، گرم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بیماری حرارت و گرم مواد بند سے بیدار ہونے کے وقت بھرپور اٹھتی ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ صبح کے وقت گھیکوار کا گودہ استعمال کرے کہ اس بیماری کو پیٹ سے نکال دیتا ہے اور سرد کی علامت یہ ہے کہ سخت سردی و بادل و بارش و سردیوں کے وقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ صبر سفوطری۔ حسب الرشاد۔ فلفل۔ زنجبیل سب مساوی لے کر کو قہہ چیتہ کریں۔ اور اس کے مساوی شکر تری ملا کر سفوف بناویں اور اس میں بقدر ۲ ماشہ استعمال کریں۔ ایضاً ہد پکا کر کھانا اس مرض کے دفعیہ کے لیے اسیر ہے ایضاً سوٹے ہوئے کتے کو جگا کر اس کی جگہ پر قویخ والا بول کرے تو مرض اچھا ہو جاوے گا اور کتہ مر جائے گا۔ ایضاً تریاق صغیر و شہد ملا کر بقدر ایک ماشہ استعمال کرنا بھی فائدہ دیتا ہے۔

## باب ۲۲ رعشہ (اعضا کا کانپنا) کے علاج میں

دانیال کا ضماد جس کی ترکیب یہ ہے پنیر۔ رال۔ دونوں کو پیس کر کر ملا کر عضو مرض پر ضماد کریں۔ ایضاً چمگاڈڑ کو تانبہ کے برتن میں روغن زیتون میں پکائیں یہاں تک کہ چمگاڈڑ اس میں مہرا ہو جاوے۔ پھر اس تیل کو صاف کر کے عضو مرض پر لگائیں، یہ تیل فالج، تقرس اور ہتھ میں مفید ہے۔ ایضاً روغن سداب کا حمام میں جا کر پینا بھی مفید ہے۔ مقدار خوراک ایک اوقیہ۔



## باب ۳ جسم کے پھولجانے کے علاج میں

درخت سرو کے پتے پانی میں پس کر اس کا پانی پکائیں اور اس میں جو کھانا گوندھیں اور پکائیں اور روغن زیتون سے وہ روٹی کھائیں تین دن ایسا ہی کریں۔ ایضاً ہینگ بقدر چار رتی پانی میں حل کر کے صبح کے وقت پینا بھی نہایت مفید ہے۔ ایضاً گل خزانہ، زیرہ سیاہ، تھوم، کراویہ سب کو باریک پس کر روغن زیتون میں ملا کر متورم جگہ پر طلا کریں بڑی کا گوشت کھائیں۔ اور دودھ سے پرہیز کریں۔ ایضاً تخم بصل۔ تخم کرفس، تخم سبباس سب کو باریک پس کر شہد خالص میں معجون بنائیں اور صبح و شام بقدر چھ ماشہ استعمال کریں۔

## باب ۴ وجع الصدر (درد سینہ) کے علاج میں

عاقرقعا۔ فلفل زنجبیل۔ ٹوم۔ یوبان کبریت۔ صمغ صنوبر۔ سب کو تھوڑا تھوڑا لیکر روغن زیتون میں ملاویں اور ردی جگہ پر لپیپ کریں۔ ایضاً شربت بنفشہ بھی اس مرض میں مفید ہوتا ہے جس کی ترکیب یہ ہے بنفشہ دو اوقیہ کے کراس میں دو رطل پانی ڈال کر آگ پر چڑھاویں جب دوا کی ساری قوت پانی میں آجاوے اور بنفشہ کے پتے سفید ہو جاویں، صاف کر کے مصری یا کھانڈ ملا کر شربت کا قوام تیار کریں جب ضرورت ہو چار تولہ پانی میں ملا کر نہا پیا کریں۔

## باب ۵ ذات الحجت (درد پہلو) کے علاج میں

بیخ بادیان۔ بیخ کبر۔ دونوں کو باریک کر کے جوش دیں اور اس پانی میں آرد جو غمیر کر کے کسی کپڑے پر لپیپ کر کے پہلو پر ضماد کریں مگر پہلے روغن گل یا روغن زیتون سے مالش کر لیں مفید ہے۔

## باب ۶ بروقدیم۔ پرانی سردی کے علاج میں

علاج شہد خالص میں زیرہ سیاہ ڈال کر چند روز صبح کے وقت استعمال کریں۔

ایضاً کلونجی کو باریک کریں۔ پھر سپانچ کا پانی ایک حصہ، روغن زیتون ایک حصہ سب کو ملا کر سات دن تک ہمارا استعمال کریں۔ ایضاً اشیاء ذیل سے تجیر کریں۔ زنگار۔ فرغون، قفل سیاہ۔ فلفل راز۔ زنجبیل ٹوم۔ ہالیوں۔ حنظل۔ مرصبر۔ نمک سب سے تھوڑا تھوڑا لے کر کوٹ کر دھونی دیں۔ اور ہوا اور سردی سے بچاویں۔ ایضاً نخود تین حصہ۔ حلبہ تین جزو گندم اٹھ جزو سب کا آٹا بنا کر روغن گاؤ شہد ڈال کر حسب دستور حلوا بنا لیں۔ اور اکیس دن تک استعمال کریں۔ اور سیاہ گلٹے کا دودھ پیا کریں۔ تمام امراض بارہ کے لیے مفید ہے۔ اور جس شخص کو پسینہ نہ آتا ہو اس کے استعمال سے آجاوے گا۔ ایضاً زیرہ سیاہ۔ زیرہ سفید۔ کلونجی، ہالیوں، پودنیہ کو ہی سب کو کوٹ کر شکر تری ملا کر سفوف بنا دیں اور بقدر برداشت طبع ہمارا استعمال کریں۔

## باب بوطابق (مرگی) کے علاج میں

براہ ذہب۔ ہینگ، زیرہ سیاہ۔ زیرہ سفید، صنوبر، بزرگتان۔ باقلا سیاہ۔ سب کو پیس کر انڈے کی زردی میں ملاویں اور کسی برتن میں آگ ڈال کر ان ادویہ سے مریض کو دھونی دیں۔ ایضاً کلونجی۔ فلفل۔ ٹوم۔ ہر ایک مساوی کے کر شہد خالص میں معجون بنائیں اور صبح و شام بقدر برداشت طبع کام میں لادیں۔

## باب ضیق النفس (دم) کے علاج میں

اول منہج دے کر سہل دیویں۔ پھر معجون مسک پر ملاومت کریں۔ ترکیب معجون مسک کستوری۔ سیلخہ۔ سنبل۔ ساذج ہندی۔ پکھان بید۔ ہر ایک سے دو درہم بزرگ کرفس۔ مصطکی۔ زیرہ سیاہ۔ زعفران ہر ایک تین درہم۔ مرکی۔ قرنفل۔ عود۔ ہر ایک نصف درہم سب کو کوفتہ بیختہ کر کے سم چند شہد میں ملا کر معجون تیار کر لیں۔ اور بقدر ایک مثقال کھاویں انشاء اللہ بہت جلد آرام ہو جاوے گا۔ ایضاً سداب کا پانی شہد میں ملا کر استعمال کرنے سے کمال فائدہ ہوتا ہے۔ ایضاً تخم اسی۔ اصل السوس۔ دونوں باریک کر کے شہد یا روغن زردی میں

## باب ضیق و سعالِ ردمہ و کھانسی کے علاج میں

اول مسہل لیں۔ پھر معجون ذیل استعمال کریں کہ نہایت مفید ہے۔ بلغم کو تحلیل کرتی ہے۔ سخت کھانسی کو دفع کرتی ہے۔ اگر برش (ربثعشا) کھانے کا عادی ہو تو اس معجون کے استعمال سے برش کی عادت متروک ہو جاتی ہے۔ معجون یہ ہے حرمل۔ فرغیون، ہر ایک دو درم ایون پانچ درہم عاقر قرح پانچ درم۔ سب کو کوفتہ بچختہ کر کے سہ چند چہار چند شہد خالص میں معجون بناویں بوقت خواب بمقدار نصف درم استعمال کریں تین دن میں آرام ہو جاوے۔

ایضا تخم حرمل ایک سو درم۔ فرغیون تین درم۔ نوشادر تین درم۔ کلونجی تین درہم زنجبیل پانچ درہم۔ ایون پانچ درہم سب کو کوفتہ کر کے سہ چند شہد خالص میں ملا کر معجون تیار کریں اور صبح و شام بمقدار نصف درم چالیس روز تک استعمال کریں۔ ایضا تخم اسی، اصل السوس دونوں کو ہر ایک پین کر شہد یا گھی میں ملا کر بقدر چھ ماشہ صبح و شام استعمال کریں۔ امید ہے کہ تین روز میں آرام ہوگا۔ صبح و مجرب ہے۔ ایضا سعد (ناگ موٹھ) کو کوٹ کر شہد میں ملا کر استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

## باب دہیل و اورام۔ قروح۔ پھوڑوں و رموں زخموں

### کے علاج میں

ان سب کا سبب خون فاسدہ ہوتا ہے جو جلد کے نیچے بند ہو جاتا ہے۔ علاج السبغول تیز سرکہ میں بھگو کر پھوڑے یا ورم پر لگائیں۔ اس سے ورم جلد کے نیچے ہی مر جاتا ہے اور درد دور ہو جاتی ہے۔ یہ شرطیکہ مادہ فاسدہ کم ہو۔ اگر مادہ فاسدہ زیادہ ہو تو وہ مادہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے اور انس سے ایک بڑا سا جسم بن جاتا ہے۔ جس کو پھوڑا کہتے ہیں۔ اس وقت آرد گندم۔ آرد میتھی کو روغن کنجد، پاروغن زیتون میں پکا کر پھوڑے پر ضماد کریں

اس سے خون پک جاتا ہے۔ اور پیپ اور ریم ہو جاتی ہے پس اس کو تتر سے چھڑیں اور مادہ فاسدہ نکال دیں۔ پھر مزنگ سر کے میں پس کر طلا کریں۔ اس سے باقی رطوبت فاسدہ خشک ہو جائے گی اور درد کو تسکین ہو جاوے گی۔ اور آرام ہو جاوے گا۔ ایضاً گندم کا چھان تیز سر کہ میں پکائیں اور اس کے ساتھ ابتدا درم میں درم پر ٹکور کریں ایضاً بزکمان (اسی) بیٹھی ہر دو مساوی لے کر کو قنہ بختہ کر کے پانی اور شہد میں پکائیں اور لیٹی کر کے درم کی جگہ پر باندھیں۔ فائدہ جب رطوبت عنقہ بدن کے کسی حصے میں جمع ہو جاتی ہے تو اس سے پھوڑے اور درم پیدا ہوتے ہیں اور جلد کے نیچے کے گوشت کو کھا جاتی ہے۔ بشرطیکہ اس کے علاج سے غفلت کی جائے اس کا علاج چھ طرح سے کرنا چاہیے۔ اول ہر روز جو رطوبت فاسدہ پیدا ہو اس کو ان مراہم سے جس کا ذکر ہم نے باب الادویہ میں کیا ہے کم کریں دوسرا وہ غذائیں استعمال کریں جو گوشت صالح پیدا کریں مثلاً گندم اور جوار کی روٹی گھی یک سالہ دنبے کا گوشت تیسرا ان چیزوں سے پرہیز کریں جو پیپ کو زیادہ پیدا کرتی ہیں۔ مثلاً ہر قسم کا دودھ اور نشاستہ وغیرہ چوتھا اغذیہ غلیظہ سے پرہیز کریں مثلاً کچے اور بھونے ہوئے دانے اور ہریہ وغیرہ ثقیل غذاؤں سے پانچواں اغذیہ ثقیلہ سوداویہ سے پرہیز کریں مثلاً باجرہ۔ مسور۔ جو۔ لوبیا۔ بادنجان۔ گائے کا گوشت کیوں کہ ان سے گوشت فاسد پیدا ہوتا ہے۔ جس سے ہمیشہ قروح و جروح نکلتے رہتے ہیں۔ چھٹا ہر ایک ترش و نمکین تیز چیز سے پرہیز کریں۔ کیوں کہ یہ اشیاء زخم کو خراب کرتی ہیں۔ اور گوشت کو پیدا ہونے نہیں دیتیں۔

**علاج درم** | عنب الثعلب۔ کہوتازہ کا چھلکا۔ حی عالم رسد اگلاب، سب کو کوٹ کر درم کی جگہ پر ضماد کریں۔ کہ اورام کے لیے مفید ہے ایضاً کشینز۔ سداب۔ مرداسنگ۔ سرکہ۔ روغن گل۔ آرد جو سب میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر سرکہ دروغن میں گھوٹ کر ضماد کریں۔ ایضاً روغن زیتون میں پانی ملا کر جوش دیں اور موضع درم پر طلا کریں اگر اس میں تھوڑا سا شراب بھی ملا دیا جاوے تو تحلیل درم میں قوی ہو جائے۔ جس زخم کے علاج سے طبیب عاجز ہو گئے ہوں اسپر صیغ، رجبو ایک جانور کا نام ہے، کی چرب

مالش کرنے سے آرام ہو جاتا ہے۔ ایضاً اشق کو روغن زیتون میں جوش دے کر اس تیل سے ورم پر مالش کریں یہ اورام و دمامل کو تحلیل کر دیتا ہے۔ فاسڈہ اگر کوئی انسان اپنے اعضا کے اندر ورم یا دمل کے مادہ کی حرکت محسوس کرے اس سے پہلے کہ مادہ ابھی عضو میں جمع نہ ہوا ہو تو چاہیے کہ ریحان کی لکڑی سے کر اس کے ایک کنارے کو آگ لگا کر عضو کے اس مکان پر داغ دے دیں جہاں کہ حرکت مادہ محسوس ہوتی ہو۔ اس تدبیر سے ورم بڑھنے نہ پاوے گا اور کامل نفع ہوگا۔

## باب ۱۲ وجع السره (وردناف) کے علاج میں

اس کی ماہیت یہ ہے کہ ناف کی رگیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں اور حجب ہاتھ رکھا جائے تو وہاں کے شرانیں کی حرکت عظیم ہوتی ہے اور قرقر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سبب اس کا سیر ہونے کے بعد حرکت کثیر یا محنت وافر ہوتا ہے۔ علاج گندم کی روٹی گرما گرم ناف پر رکھیں اور کپڑے سے باندھ دیں صبح و شام باندھے رکھیں۔ پھر ترش انار کو مع اس کے گودے کے گھوٹ کر اس کا شیرہ پیں اور غذا گندم کی روٹی اور شہد رکھیں۔

ایضاً کوئی ٹوٹے کا ٹکڑا لے کر اس کو آگ میں گرم کریں کہ انگارے کی طرح سرخ ہو جاوے پھر اس پر تیز سرکہ ڈالیں اور اس کے بخار پر ناف کو رکھیں۔

## باب ۱۳ ورم لبیر زبڑ اور دم کے علاج میں

عروق دردار لے کر اس کو خوب دھوئیں پھر اس کو باریک پس کر جوش دیں پھر آرد جو ملا کر روغن زیتون میں پکا کر موضع ورم پر لگائیں۔ اسی طرح سات روز کریں یہ اس حالت میں ہے جب کہ ورم کو پانچ سال گذر گئے ہوں اگر ورم تین سال کا ہو تو کوار گندل کو بکری کے گوشت کے ساتھ پکائیں نیچے اتار کر پہلے اس جگہ پر اس کی بھاپ پہنچا دیں۔ پھر فضلہ کو گھوٹ کر موضع ورم پر لگائیں۔ ایضاً تھوم تین عدد لے کر چھپلیں اور روغن زیتون میں پکائیں یہاں تک کہ سیاہ ہو جاوے پھر اس سے مالش کریں نیز روغن سداب بھی

یہی فائدہ دیتا ہے۔ اس کے بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ سداب ایک رطل روغن زیتون ڈیڑھ رطل دونوں کو ملا کر چالیس روز دھوپ میں رکھ چھوڑیں اسی کے بعد صاف کر کے کام میں لادیں۔

## باب جوش خون شیکستہ داء الفیل، کورسے کی ضرب

### ودق مدنی زماروا کے علاج میں

جوش خون کا سبب دل کی حرارت اور پھیپھڑے کا درد ہے۔ جو جگر میں اثر کرتا ہے علاج اس کا یہ ہے کہ کشینز کو سرکہ میں ایک رات دو دن بھگو دیں۔ پھر صاف کر کے شکر سفید ملا کر استعمال کریں اور غذا میں سرکہ ڈالیں۔ تیز ترش انار کا پانی پیائیں۔

علاج ممکنہ | اس کی علامت یہ ہے کہ مریض بے حس و حرکت ہو جاتا ہے اور مردہ سا معلوم ہوتا ہے۔ اس کا سبب خلط ثقیل سرد خشک کی زیادتی ہوتی ہے جو شدت سردی سے مستحکم ہو جاتی ہے۔ علاج روغن زیتون میں ٹوم و مصطکی پکا کر مریض کے بدن پر خوب زور سے مالش کریں اور اس کے پیٹ اور ہر دو قدم اور دل کو گرم کر کے پانی سے دھوئیں اور زور سے چکیاں لیویں۔ اگر ان تدابیر سے حرکت نہ آوے تو فہا ورنہ اس کے ناخنوں کے نیچے سوئی چھوئیں اگر اس طرح بھی نہ ہلے تو ایک ساعت ٹھہر کر پھر دوبارہ یہی عمل کریں اگر پھر بھی حرکت نہ کرے تو خدا پر چھوڑ دیں اور اگر کسی تدبیر سے حرکت میں آجاوے تو پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر پلایا جاوے تاکہ فے کر ڈالے۔ پھر دودھ چاول۔ مرغ کا گوشت۔ روغن زرد۔ شہد۔ گرم شوربے کھلائیں اور باقی چیزوں سے پرہیز کریں انشاء اللہ اچھا ہو جاوے گا۔

کورسے کی ضرب کا علاج | بکری یا دنبے کا چمڑا اتار کر لافز کی طرح مضروب کو چڑھادیں اس سے خون اپنی اپنی جگہ پر آجاوے گا پھر جلد اتار کر مضروب جگہ پر مز تک کو فتنہ بیختہ کر کے دھوڑیں انشاء اللہ آرام

ہو جاوے گا۔

عرق مدنی (ناروا) کا علاج | اس کی اصلیت یہ ہے کہ چمڑے کے نیچے حرکت دودھ ہوتی ہے۔ اس کا سبب خراب و گندے سبھروں میں رہنا اور اغذیہ غلیظہ رویہ کا کھانا ہے۔ علامت اس کی یہ ہے کہ پہلے اس جگہ پر درم ہوتا ہے۔ پھر اس سے لہنے لہنے دھاگے نکلنے شروع ہوتے ہیں۔

علاج یہ ہے کہ روز علی الصباح ایک درم ایوا شہد میں ملا کر کھائیں تین روز تک ایسا ہی کریں اور اس کے دھاگے نکلنے کے واسطے یہ تدبیر کریں کہ صلیبہ کو روغن زرد میں پکا کر موضع ماؤت پر باندھیں نیز اس روغن میں سے بقدر برداشت طبع نوش کریں۔

فائدہ۔ بعض انسانوں کے بدن میں کسی جگہ ایک بڑا سادانہ نکل آیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے دانے آپس میں بچنے ہوئے نکل آتے ہیں۔ اس کا سبب خراب کھانا پینا اور گندی و خراب جگہوں میں رہنا ہوتا ہے۔ اس کا آسان علاج یہ ہے کہ بڑے دانہ کو ہر طرف سے داغ دیا جاوے۔ پھر اس کے بعد سرکہ میں مزہک گھوٹ کر ضاد کیا جاوے یہ ضاد ایک رات و دن رکھیں۔ اس کے بعد ٹوم و نمک کو باریک پیس کر شہد میں ملا کر ضاد کریں اس سے بدن کے تمام دانے مرجائیں گے۔

باب ۱۱۱ حرق النار و حرارت الشمس اور اس حرارت کے

علاج میں جو موسم گرمیاں لگتی ہے

سفر میں سورج کی گرمی سے بچنے کی تدبیر | انڈے کی سفیدی، روغن گل میں ملا کر چہرہ پر طلا کریں۔

ایضاً شربت انار پینا، روغن گل سر پہ ملنا معجون ورد (گل قند) کھانا بھی یہی فائدہ دیتا ہے۔

آگ سے جلنے کا علاج | فی الفور سرکہ دکھی کی جھاگ موضع محروق پر طلا کریں۔ ایضاً انڈے کی سفیدی کسی اونچی پٹری یا السی کے کپڑے پر لگا

کرموضع محروق پر طلا کریں۔ ایضاً مسور۔ آرد جو اندھے کی سفیدی سب کو پکا کر موضع محروق پر رکھیں ایضاً کسی بیل رنجابی دل کے پتے جلا کر راکھ بنا کر موضع محروق پر دھوڑیں۔

اس گرمی کا علاج جو موسم گرما میں لگتی ہے | پھٹکڑی سفید کو بارش کے پانی میں حل کریں اور بدن پر ملیں انشاء اللہ گرمی سے آرام رہے گا۔ ایضاً گلاب کا سرکہ مغز خیارین میں۔ پسین کر بدن پر طلا کریں۔

## باب ۸۶ جدری (چھچک) کے علاج میں

چھچک کا علاج کتابت سے سات دانہ جو کے لے کر ہر ایک دانہ پر تین دفعہ کلمات ذیل پڑھ کر دم کرے۔ اَللّٰهُمَّ تَرٰى اَلَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هَدُوْهُمُ اَلْوَفْ حَذْرًا لِّمَوْتٍ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوْا مُوتُوْا فَقُلْ يَسْفُهٰرَتِيْ نَسْفَا قَبِيْدَرُهَاقَاعًا مِّنْ صَفْصَفًا لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا يَا اَيُّهَا الْبَنَاتُ الْمَيُوْتُ مِتُّ مِتُّ بِاِذْنِ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ۔ علاج اگر چھچک کا اثر چہرہ پر رہ جاوے تو بیری کے خشک پتے لیکر باریک کوٹ کر مہندی کے ساتھ ملا دیں اور پانی میں گوندھ کر چہرہ پر طلا کریں انشاء اللہ آرام ہو جاوے گا ایضاً عقل رجبلی سیانہ کو قطع کر کے اس میں اتنا روغن زیتون ڈالیں جس سے پیاز پوشیدہ ہو جائے اور پکا دیں اور اس میں موم زرد اور تھوڑا سا گندھک زرد اور تھوڑا سلنک ملا کر چہرہ پر طلا کریں اس سے خارش کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایضاً کنیر کے پتے جوش دے کر ادھ سیر پانی نکالیں اور

ترجمہ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور وہ ہزاروں تھے پس ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا مر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ پس کہہ دے ارادے گا ان کو میرا رب اڑانا پس ان کو چٹ میدان کر کے چھوڑے گا ان میں تو میرے بھائی اور بیٹا نہ دیکھے گا اور اسے اگ ہوئی کلی اسی اللہ کے حکم سے جو کہ زندہ ہے اور مرے گا نہیں مر جا ۱۲ سنہ



پاؤنچتہ روغن میں پکا نہیں یہاں تک کہ روغن خشک ہو جاوے تیل رہ جاوے پھر اس میں دو اوقیہ موم ملا کر مرہم سانبالیں اور چھپک کے دانوں پر طلا کریں انشاء اللہ آرام ہو جاوے گا۔ ایضاً صبر سقوطری۔ گلاب کے پانی میں حل کر کے چھپک کے دانوں پر مالش کیا کریں۔

اگر چھپک کی حالت میں خوف ہو کہ کہیں آنکھ میں دانے نہ نکل آئیں تو سماق کا پانی دونوں آنکھوں میں ڈالتے رہیں امن رہے گا۔

**چھپک کا علاج** | سرکہ تیز انگوری۔ پیاز۔ مہندی۔ ایفون سب چیزوں کو کوٹ کر سرکہ میں ڈالیں اور اس سے مجددور کے بدن کو ملنے لیں اس سے اس کے بدن میں آگ کی حرارت معلوم نہ ہوگی تاہذا اگر کوئی انسان جدری سے بیمار ہو جائے اور آنکھوں میں چھپک نکل آنے کا خوف ہو تو جس شخص نے اس کو پہلے دیکھا ہو جب کہ چھپک نکل رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی آنکھ کا آنسو اس کی آنکھ میں ڈال دے۔ آنکھ چھپک سے محفوظ رہے گی۔

## باب فاد فارسی یعنی حمبرہ کے بیان میں

چھکڑی تلسی کا پانی۔ دونوں کو ملا کر حمبرہ میں طلا کریں۔ نیز اس مرض کے لیے ان کلمات کو لکھ کر زیتون کے روغن میں ملاویں اور مالش کریں اور مالش کے بعد اس کے اوپر المی کے درخت کا وہ حصہ جو پانی میں نہ ڈوبا رہا ہو بالکل خشک ہو جانے کے بعد کوٹ کر اور پانی سے لیٹی سی بنا کر اس بیماری کی جگہ باندھ دیں کلمات یہ ہیں: فیتیت میت مت شلل۔

## باب ابولیس یعنی شب کوری کے علاج میں

کلمات ذیل تین ہڈیوں پر لکھیں اور کسی اندھیری جگہ میں مریض کو کھلائیں کلمات یہ ہیں۔

سہ وہ مردہ کی طرح مار دیا جائے گا تو سکر کر گیا اب تو خشک ہو گیا تجھ سے خون جاری نہ ہوگا۔

اتصلاً کبس الطلاکف المیکیت کیکیف.... علاج دار فلفل کو باریک کر کے بکری کے جگر کلچھی میں بھر دیں اور آگ پر بھونیں اس میں سے جو جھگ نکلے اس کو جمع کریں اور سرمہ بنا کر آنکھوں میں لگائیں اور کلچھی کھاویں۔ ایضاً صابون دورتی۔ شہد و توتلے دونوں کو ملا کر کھانے سے بھی شب کو فائدہ ہوتا ہے۔

## باب طیر یعنی آنشک کے علاج میں

دار چینا ایک درم۔ رسکپور دو درم۔ آرد شہیرہ تو دسب کو ملا کر پانی سے گولیاں بمقدار خود بنائیں اور گولی نکلنے کے بعد ایک دو دانے لونگ جوائیں ایضاً افیوں ہم درم کستوری ہم رتی۔ پارہ دو درم پہلے پارے کو عرق لیموں میں کشتہ کریں۔ پھر باقی دو اٹیوں کو ملاویں اور پارہ پنج تو لے آرد جو اور تھوڑا سی گھی ملا کر گولیاں بمقدار خود بنا لیں اور ہر صبح کے وقت ایک گولی شروع کریں تین تک بڑھا سکتے ہیں۔ دودھ کا استعمال رکھیں۔ ترش اشیاء سے پرہیز کریں یہ نسخہ صبح اور سحر ہے، ایضاً، پارہ بارہ درم۔ دار چینا دو درم۔ آرد گندم تیس درم پارہ اور دار چینا کو لیموں کے پانی میں پیسیں یہاں تک کہ دونوں کشتہ ہو جاویں۔ پھر آٹا ملا کر ایک سو گولی بنا لیں اس دوا سے بدن تروتازہ ہو جاتا ہے اور آنشک دور ہو جاتی ہے۔ اور گولی کھانے کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے تین دن گولی استعمال کریں۔ پھر چلاب لیں اس کے بعد پھر دس دن گولی استعمال کریں اور ہر روز تین گولی کھائیں اس کے بعد پھر مسہل کریں یہاں تک کہ بالکل آرام ہو جائے اور استعمال کے دنوں میں ترش اور سرد تر اشیاء سے پرہیز کریں انشاء اللہ تعالیٰ آرام ہو جاوے گا۔ ایضاً شنگرف پانچ درم کے کر اس کے تین حصے کریں اور ہر روز کسی محفوظ جگہ میں بدن کو کپڑوں سے ڈھانپ کر ایک حصہ دوا سے دھونی لیں۔ پھر سو جاویں۔ تاکہ پسینہ آ جاوے انشاء اللہ ایک ہی دن میں اچھا ہو جاوے گا ایضاً روغن ذیل اس نامراد علت کے دفع کرنے میں کبیر کا کام دیتا ہے حکما اس روغن کو اپنے سینے کی کوٹھڑی میں محفوظ رکھنے تھے۔ اس روغن کو گرمی کے وقت ملنا چاہئے نہ سردی کے وقت اور مریض کو سردی اور سہوا اور ہر ایک ترش اور سرد اشیاء سے پرہیز کرنا چاہئے اور مفاصل

پر مالش کرنی چاہیے اور ہر روز دو دفعہ مالش کریں۔ تین دن تک ایسا ہی کرتے رہیں پونچھے روز بدن کو صابون سے خوب دھوئیں اور نہاتے وقت سردی سے پرہیز کریں پھر از سر نو حسب دستور سابق مالش کریں۔ اور چوتھے روز نہایا کریں انشاء اللہ بہت جلد فائدہ ہوگا یہ نسخہ صبح اور مجرب ہے روغن بے مصطکی، لوبان شنگرن، روغن زیتون عرق گلاب ہر ایک دس درم۔ پارہ پندرہ درم۔ دارچینا ایک درم۔ بکری کی چربی اسی درم ادویہ کو کوٹ کر چربی میں ملا کر آگ پر چڑھائیں جب مرہم سا قوام ہو جائے تو حسب ہدایت بالا استعمال کریں۔ ایضاً یہ نسخہ غریبوں کے لیے ہے پارہ۔ روغن زیتون۔ موم زرد ہر ایک سات درم۔ دارچینا ایک درم ادویہ کو باریک کر کے روغن زیتون و موم ملا کر مرہم بنالیں اور حسب ہدایت مالش کیا کریں۔

## باب ۹۰ جرب و حکہ رخارش تر و خشک کے علاج میں

نیز اس عذارت کا بھانا جو بدن انسان میں محسوس ہو۔

جب انسان میں مادہ سوداوی جوش مارتا ہے تو اس سے رخارش پیدا ہوجاتی ہے علاج کلونجی زیرہ سیاہ۔ تخم بسباس شہد خالص ادویہ کو باریک کر کے شہد میں ملائیں اور نہار استعمال کریں۔ ایضاً عیشہ مغربی کو پکا کر اس کا عرق نہار کے وقت استعمال کریں اور اس کے بعد کھانا کھلائیں ایضاً شہد خالص۔ روغن زرد خالص ہر ایک ۵ تولہ کبریت دو درم گندھک پس کر شہد و روغن میں ملا کر کھایا کریں کہ نہایت صبح و مجرب ہے۔ ایضاً فلفلہ رازہ فلفل سیاہ۔ بسباس زیرہ سیاہ۔ کلونجی، گندھک۔ آملہ سارہ۔ ہر ایک ایک اوقیہ سب کو پس کر دو رطل موز منقے ملا کر معجون بنالیں اور ایک اوقیہ موم خالص اور ایک اوقیہ موم زرد کو روغن زیتون میں ملا کر مرہم بنالیں۔ مرہم سے مالش کریں اور معجون کھاویں ایضاً ایک بڑا پیالہ کے کریانے سے بھر دیں اور اس میں مقدار دو رطل منقے ڈال کر خوب زور سے ملیں جو جھاگ اور پاؤں سے امارتے جائیں پھر اس میں روغن زیتون۔ گندھک۔ آملہ سارہ ملا کر آگ پر پکائیں اور اس تیل سے مالش کیا کریں۔ مجرب ہے۔ ایضاً تارچین ایک حصہ۔ لب لاب ایک حصہ۔ لباب کو باریک پس کر روغن میں ملائیں اور گولیاں بنا کر بمقدار چار رتی استعمال کریں۔ ایضاً گندہ پانی میں

پیس کر خارش پر طلا کرنے سے بہت جلد آرام ہو جاتا ہے ایضاً زیرہ سیاہ اور زیرہ سفید ہر دو مساوی لے کر باریک کوٹھی ایک ہڈی لے کر اس میں سوراخ کریں اور اس کی سفیدی نکال کر دونوں زیرہ پر کریں۔ اور تھوڑی سی گندھک ڈال دیں پھر اس ہڈی پر گوندھا ہوا آٹا لپیپ کر کے گرم راکھ میں رکھ دیں تاکہ پک جائے پھر نکال کر خوب باریک پیسیں اور روغن زیتون میں ملا کر خارش کی جگہ کو کسی سخت کپڑے سے کھرچنے کے بعد مالش کریں۔ ایضاً دھنیا پیس کر شہد میں ملائیں اور تین دن تک استعمال کریں ایضاً لیکھرا۔ مہندی ہر دو مساوی پیس کر انڈے کی زردی میں ملاویں اور خارش کی جگہ پر استعمال کریں ایضاً کلونجی۔ گندھک۔ آملہ سار۔ ہر دو مساوی باریک کوٹھی اور روغن زیتون میں ملا کر آگ پر پکائیں اور اس تیل سے خارش کی جگہ پر مالش کیا کریں۔ ایضاً لبداب کو باریک پیسیں اور کسی برتن میں ڈال کر گائے کا پتا ڈال دیں۔ تاکہ دوپٹے کو پی جلائے پھر اس کی گولیاں بنا کر ایک ایک گولی صبح اور شام استعمال کیا کریں۔ ایضاً عنصل (جنگلی پیاز) چھیل کر درمیانی حصہ لے کر اس کا پانی نکالیں جس قدر پانی ہو اس سے نصف روغن زیتون ملاویں۔ پھر مصطکی و گندھک باریک پیس کر ان میں ملاویں اور آگ پر چڑھاویں جب ادویہ روغن و مار پیاز میں خوب خلط ملط ہو جاویں تو اتار لیں اور خارش کی جگہ کو سخت کپڑے سے مل کر اس سے مالش کریں ایضاً کاسنی کو روغن زیتون و پانی۔ نیک میں پکاویں اور صاف کر کے اس روغن سے مالش کریں۔ ایضاً روغن زرد پانچدرم گندھک آملہ سار پانچدرم مغز اخروٹ دو درہم، اخروٹ و گندھک کوٹا کر روغن میں ملاویں اور آگ پر ملا کر اس سے مالش کریں۔ ایضاً بکھر باریک کوٹ کر اس میں نیک زردی بیضہ مرغ ملاویں اور موضع خارش پر طلا کریں۔ اور دھوپ میں بیٹھ جائیں پھر نہا ڈالیں۔ ایضاً پیاز کو روغن زیتون میں جلا لیں۔ پھر صاف کر کے اس میں موم زرد اور تھوٹا سا گندھک آملہ سار ملا کر مرہم سا بنائیں اور خارش کی جگہ پر ملیں ایضاً کنیر کے پتے جوش دے کر ایک رطل پانی لیں اور اس میں نصف رطل روغن زیتون ڈال کر پکائیں کہ سب پانی جل جاوے۔ پھر اس میں دو اوقیہ موم زرد پگھلا کر مرہم سی تیار کریں اور حرب اور جدری پر لگایا کریں نہایت مفید ہے۔ ایضاً عناب کے پتے بوزن بیس تولہ ہر روز

جوش دے کر بقدر ضرورت پانی لے کر اس میں شکر سفید ملا کر پانچ روز پیئے سے حکہ و جرب کا قلع و قمع ہو جاتا ہے۔ ایضاً سرکہ اور گھی ملا کر استعمال کرنے سے بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ایضاً تھوم، بورہ ارمینی ملا کر صناد کرنے سے بھی خارش کو فائدہ ہوتا ہے ایضاً چوک سرکہ میں پسینے سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے۔ ایضاً سرکہ اور روغن گل کھٹنے سے بھی یہی کام نکلتا ہے۔ ایضاً خود سیاہ سرکہ میں پسینے سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے۔

**باب ۹۱ اس مریض جسم کا علاج جس کا طمانکس، ہاتھ، پاؤں، تمام بدن ٹھیللا ہو گیا ہو اور اس کو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہو،**

علاج صبر تین اوقیہ۔ غار لقون تین اوقیہ۔ زعفران ایک درہم جب السلاطین تین درہم ستا کئی تین درہم فرنیون دو درہم سب کو فتمہ بختہ کر کے شہد خالص میں معجون بنائیں اور ہر روز بقدر دورتی صبح اور دورتی شام استعمال کریں اور کئی روز تک کھاتے رہیں۔

**تمام امراض کا علاج** | عمدہ روغن زیتون کسی صاف برتن میں ڈالیں اور کلمات ذیل پڑھتے جائیں۔ اور لکڑی سے زیتون کو ہلاتے جائیں پھر

اس روغن سے مریض کے بدن پر مالش کریں۔ کلمات یہ ہیں۔ سورہ اخلاص، والمعوذین۔ و سورہ توبہ کا خاتمہ وَ نُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَيْكَ قَوْلٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أَوْرِ سُوْرَةَ حَشْرَ كَا خَاتِمَ ان سَب كُوسَات دفعہ پڑھ کر روغن پر دم کریں حسب ہدایت بالا مالش کیا کریں۔ ایضاً کلمات ذیل کا لکھ کر پاس رکھنا تمام آفات سے بچاتا ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اَقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ بِاَجْمِیْعِ الْعِلَلِ وَالْاَمْرَاضِ وَالْاَدْرِیَا وَالْاَوْجَاعِ بِعِزِّ اللّٰهِ وَبِعَظَمَةِ اللّٰهِ وَبِجَلَالِ جَلَدِ اللّٰهِ وَبِقُوْرَةِ اللّٰهِ وَ بِسُلْطٰنِ سُلْطٰنِ اللّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَبِلا حَوْلِ وَ لا قُوْرَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَلِیْمًا۔

لہ شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے اور رحمت بھیج اسے اللہ ہمارے (بقیہ حاشیہ کے صفحہ ۹۰)

ایضاً کلمات ذیل لکھ کر پینے سے تمام امراض سے محفوظ رہتا ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 وَيُشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ائْتِي الْعُومِنِينَ  
 وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ  
 هُوَ الَّذِي أَمَّا هَدَىٰ وَشِفَاءً لِّقَد جَاءَ كَرُّ رُسُلٍ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ... آخر سورۃ نوبہ تک اس  
 کو کسی سفید برتن یا سفید کپڑے پر لکھ کر دھو کر روزہ افطار کرتے وقت پی جایا کریں ایضاً تمام امراض  
 کے واسطے دعا ذیل لکھ کر پیا کریں یہ دعا جبریل امین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی  
 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے پوتے ہوئے طبیبوں کے علاج  
 کی ضرورت نہیں ہوتی دعا یہ ہے بارشش کاپانی لیں اور اس پر سورہ الحمد۔ آیۃ الکرسی۔ سورہ اخلاص  
 معوذتین وَاٰلِہٖٓ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَہٗ لَا شَرِکَ لَہٗ کَلِمَۃُ الْتَمٰکُ وَکَلِمَۃُ الْحَمْدِ یُحِیُّ وَیُمِیْتُ  
 وَهُوَ حَیُّ لَا یَمُوتُ بَیْدَہٗ الْخَیْرُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ ہر ایک ستر دفعہ پڑھیں آخر میں  
 ستر دفعہ درود پڑھ کر دم کر کے رکھ چھوڑیں اور ہر روز صبح کے وقت تھوڑا سا اس پانی میں سے  
 پی لیا کریں سات روز متواتر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے قسم ہے اس

رحمۃ صفحہ گذشتہ) سردار اور مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر اسے سب قسم کی تکالیف  
 اور بیماریوں۔ دردوں میں تم پر اللہ کی عزت و عظمت و جلال و نور غیبیہ کے ساتھ قسم دیتا ہوں تیرا لا الہ الا  
 اللہ ولا حول کے ساتھ رحمت نازل کرے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب  
 پر اور سلام ہوئے اور شفا دے مومنوں کے دلوں کو اور درد کر دے ان کے دلوں کا غصہ اور اتارتے ہیں ہم  
 قرآن شریف سے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ تعالیٰ  
 مجھے شفا بخشنا ہے کہہ دے یہ قرآن شریف ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں (سراسر ہدایت  
 اور شفا ہے البتہ تمہارے پاس تمہارے درمیان ہی سے رسول آیا ہے لہٰذا اللہ کے سوا  
 کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا سانس نہیں اس کا سارا ملک ہے اور اس کے  
 لیے سب قسم کی تعریف ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ خود ہمیشہ زندہ رہے گا اس کے  
 لیے موت نہیں اس کے اختیار میں ہے بہتری اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو شخص اس پانی سے ایک گھونٹ بھی پی لے گا۔ تو ہر ایک بیماری اس کے گوشت و پوست اعضا و عروق وغیرہ اجزا و اجسام سے خارج ہو جاوے گی۔ اس کو فصد وغیرہ کی ضرورت نہ ہوگی نہ اسے درد نانات و درد کمر ستائے کا ضیق النفس ہے۔ اندھاپن، گنگاپن، وغیرہ امراض خطرناک اس کے پاس نہیں پھڑکیں گی۔ پیتھر بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے عمدہ روغن زیتون کو آگ پر جوش دیں اور ساتھ انیس دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ آل عمران میں سے آیت **ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكَ مِنْ بَعْدِ الْغَيْمِ أَمْنَةً نُّعَاسًا.....** لفظ **مُدَّ وَدُرٌّ** تک اس کے بعد سورہ فتح کی آخری آیات **مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** سے لیکر آخر سورہ تک پڑھیں ان دونوں آیتوں میں کل کے کل حروف معجم آجاتے ہیں پھر اس تیل سے مرہن کے بدن پر مالش کریں یا ان آیات کو کسی برتن میں لکھ کر اسے دھو کر اور کچھ زیتون کا تیل ملا کر بار بار پلاویں انشاء اللہ مرہن شفا یاب ہوگا۔


یہ نہایت عظیم الشان دوا ہے غلبہ صفرا و سودا و  
بخار امراض قلب، درد شکم، جرب حلق، درد کمر

## سہ بیماری کا علاج دوا سے

وغیرہ عامہ و خاصہ سب کے واسطے نہایت مفید ہے دوا یہ ہے۔ انجیر زرد عمدہ سے کر پانی نکال کر پکاوں یہاں تک کہ اس کا قوام غلیظ سیاہ ہو جاوے۔ پھر اشیاء ذیل بموزہ منقہ۔ سرکہ۔ شہد۔ روغن زرد، روغن زیتون۔ بسباس ناخوارہ۔ بزرگنجان۔ مرغنیس۔ حرمل۔ کلونجی۔ جوزة الشکر۔ جوزة الطیب۔ اصل السوس۔ زعفران۔ زیرہ سیاہ۔ اندر جو۔ عاقرقرا۔ زنجبیل قرنفل۔ قرق۔ سنبل کوٹنے والی چیزوں کو کوفتر پیختہ کر کے اشیاء مانعات میں ملاویں اور کسی بوتل میں بھر لیں۔ پھر اس میں سے ہفتہ چھ ماہ ہر روز نہاں استعمال کیا کریں۔

**فائدہ** اگر مرہن کا حال معلوم کرنا ہو کہ اچھا ہوگا یا نہیں۔ یا بیماری طویل ہوگی یا نہیں تو اسماؤ ذیل کو ایک انڈے پر لکھیں اور رات کے وقت مرہن کے سر کے پاس وہ انڈا پوشیدہ رکھیں، صبح کے وقت نکال کر دیکھیں اگر سیاہ یا سرخ ہو گیا ہو تو سمجھو کہ مرہن جابے گا اور اگر رنگ متغیر نہ ہو تو انشاء اللہ اچھا ہو جائے گا اسماؤ یہ ہیں۔

۱۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر ایسے سخت غم کے بعد تمہارا غم غلط کرنے کو تھوڑی سی اونگھ اتاری۔



ایضاً جذام - برص - اختلاط عقل - سودار - جرب - درد - سعال - درد جگر - وصلات طحال وغیرہ امراض بارودہ کا علاج نذیرہ سیاہ - کلونجی اصل السوس - نذیرہ سفید، خشخاش، سمس - فلفل زنجبیل - قرنفل جوزة الشکر - جوزہ الطیب - عربل، بزرکتان - ناخواہ ہر غنیش - ہر ایک ایک حصہ زعفران نصف حصہ - نخود سیاہ - موز منقہ دو حصہ - شہد خالص، روغن زرد سہ چندا شیاہ کو فتنی کو فتمہ بختہ کر کے شہد و روغن میں ملائیں اور روغن مرتبان میں ڈال کر سات روز بعد بمقدار ایک تولہ صبح اور ایک تولہ شام کھایا کریں -

## باب طاعون و مغص (پچیش) کے علاج میں

یہ ایک قسم کی وبا ہوتی ہے جس سے شکم متورم ہو جاتا ہے جلد باریک ہو جاتی ہے اس میں چمک سی نمودار ہوتی ہے - بزرگیں ظاہر ہو جاتی ہیں - سبب اس کا ناموافق اغذیہ کھانا اور گندے و خراب شہر میں رہنا ہوتا ہے - علاج یہ ہے کہ اونٹ کا دودھ بعد اس کے بول کے پیا جائے - اور باقی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے - ایضاً گوسے کو آگ میں سرخ کر کے پانی میں کئی دفعہ بجاویں اور کام میں لاویں

ایضاً روغن فریون ملنا چاہیے نہایت مفید ہے - ایضاً

اسما و ذیل لکھ کر پاپ رکھیں - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَشْرَقَ لُوْرُ اللّٰهِ ظَهَرَ کَلِمَةُ اللّٰهِ  
تَقَدَّ حُکْمُ اللّٰهِ اَسْتَعْنَتْ بِاللّٰهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ وَبِطِیْفِ صُنْعِ اللّٰهِ وَبِجَمِیْلِ سِتْرِ اللّٰهِ

لہ اللہ رحمن اور رحیم کے نام سے شروع کرنا ہوں چمک اٹھا اللہ کا نور ہر جہاں اللہ کا کلام جاری ہو چکا اللہ کا حکم میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ کا ریگہ کی لطافت اور اللہ کے پردہ کی خوبی کی وجہ سے اللہ ہی کی طرف پناہ لیتا ہوں اور اللہ ہی کو اپنے سب کام سونپتا ہوں جو کچھ اللہ نے چاہا نہیں طاقت عبادت کی مگر اللہ کی مدد سے میں نے اللہ کی چھپی ہوئی مہربانیاں اور اللہ کی کاریگری کی خوبی اور اس کی پردہ پوشی کی بزرگی اور اس کے ذکر



التَّجَاتِ عَلَى اللَّهِ قَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ مَا سَاءَ اللَّهُ لِقُوَّةِ إِلَهِ بِاللَّهِ تَحَصَّنْتُ بِخَفِيِّ لَطْفِ اللَّهِ وَ  
 يَلَطِيفِ صُنْعِ اللَّهِ وَبِعَجْمِ سِتْرِ اللَّهِ وَبِعَظَمِ ذِكْرِ اللَّهِ وَبِعِزَّةِ سُلْطَانِ اللَّهِ وَدَخَلْتُ فِي كَنْفِ  
 اللَّهِ وَاسْتَجَوْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ بِيَتْرِكَ الْحَصِينِ الَّذِي سَتَرْتَ بِهِ ذَاتَكَ وَلَوْعَيْنُ  
 تَرَاكَ وَلَا تَصِلُ إِلَيْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ  
 اللَّهُ أَكْبَرُ مِمَّا نَخَافُ وَنَحْذَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْطَّعْنِ  
 وَالطَّاعُونِ وَعَظِيمِ الْبَلَاءِ فِي الْمَالِ وَالنَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْوَالِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا صَاحِبِ الْخَوْضِ وَالْكُوْتَرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ  
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ كَمَا شَفَعْتَ فِيْنَا نَبِيَّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَعَقَدَ  
 مَنَازِلَنَا وَكُنْ فِي عِزَّتِنَا وَلَا تُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ - اِيضاً جو  
 جو شخص طاعون کے دتوں میں ہر روز سکہ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ۔ دوسواسی دفعہ پڑھے  
 وہ طاعون ووباء سے محفوظ رہے گا۔ اور جو اس کو پانچ دفعہ لکھ کر اپنے پاس رکھے وہ تمام حوادث  
 و آفات سے محفوظ رہے گا۔ ایضاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ کسی نے آپ سے بیان

وحاشیہ صفحہ گذشتہ کی عفت اور اس کے غلبہ کی عزت کو اپنا قلم بنایا ہے اور میں اللہ کی مدد کے تحت میں داخل ہوا ہوں اور میں نے  
 خدا کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پناہ لی ہے اسے اللہ میرے محبوب پر پرہ ڈال ایسا  
 منبوط جس کے ساتھ نونے اپنی فئات کو پوشیدہ کر رکھا ہے جیسا نم کوئی آٹھ نہ تجھ تک پہنچ سکتی ہے اور نہ  
 تجھے دیکھ سکتی ہے اسے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اسے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ عالیشان  
 ہے بن چیزوں سے ہم ڈرتے اور خون کرتے ہیں اللہ سب ذیشان سے بڑھ کر اللہ بیت بڑا ہے اللہ کی جتنی  
 ثنا و صفت ہم بیان کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کل کائنات سے بڑا ہے اسے اللہ میں تیری پناہ  
 چاہتا ہوں نیزے اور طاعون سے اور سخت مصیبت سے جو کہ مال یا نفس یا اصل و اولاد میں واقع ہو اسے اللہ  
 رحمت بھیجے ہمارے سردار محمد پر اور ان کی آل اور اصحاب پر نیز سلام بھیجے صاحب حوض کوثر پر اسے اللہ جس  
 طرح تو نے ہمارے حق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کر رکھی ہے ہمیں ڈھیل دے اور  
 ہمارے گھروں کو آباد رکھ اور تہازی عزت بڑھا اور گنہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا اپنی رحمت کی وجہ سے  
 اسے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے حواشی صفحہ ہدائے مہربان رب کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔



يَا اللَّهُ الْأَمَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَا اللَّهُ يَا رَحِيمٌ يَا قَدِيمٌ مِنْ كُلِّ قَدِيمٍ يَا عَظِيمٌ يَا كَرِيمٌ مِنْ  
 كُلِّ كَرِيمٍ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُونَ وَالْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَا مَنْ هُوَ فِي سُلْطَانِهِ  
 عَظِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي مُلْكِهِ قَدِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي عِلْمِهِ مُحِيطٌ يَا مَنْ هُوَ عَزِيزٌ لَطِيفٌ يَا مَنْ هُوَ  
 نَظْمُهُ شَرِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي مُلْكِهِ غَنِيٌّ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُونَ وَالْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  
 يَا مَنْ إِلَيْهِ يَهْرُبُ الْعَاثُونَ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَرْغَبُ الدَّاعِبُونَ يَا  
 مَنْ إِلَيْهِ يَلْتَجِي الْمُلْتَجُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَفْرَعُ الْمُدْنُونَ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُونَ وَالْوَبَاءِ يَا اللَّهُ  
 الْأَمَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَائِكَ يَا عَالَمِيَا قَائِمٌ يَا غَفُورٌ يَا بَدِيعُ الْبَقَاءِ يَا وَاسِعُ  
 اللَّطْفِ يَا حَافِظٌ يَا حَفِظٌ يَا مُغِيثٌ يَا صَدِّيقٌ يَا خَالِقٌ يَا نُورٌ قَبْلَ كُلِّ نُورٍ يَا نُورٌ يَا اللَّهُ  
 خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُونَ وَالْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَا مَنْ هُوَ فِي قَوْلِهِ فَضْلٌ يَا مَنْ  
 هُوَ فِي مُلْكِهِ قَدِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي حِلْمِهِ لَطِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي عَطَائِهِ شَرِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي أَمْرِ  
 حَكِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي عَدَابِهِ عَدْلٌ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُونَ وَالْوَبَاءِ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسَمَائِكَ الْحُسْنَى يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ يَا خِرَ الْأَخِرِينَ يَا رَحْمَةَ  
 الرَّحِيمِينَ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونَ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِدِّيَنَا مِنْ  
 عَذَابِكَ وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَمْهَاتِنَا وَوَدِّعْنَا وَذُنُوبَنَا وَلَحْمِيْعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ  
 وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ نَجِّنَا مِنْ جَمِيعِ الْكُرْبَاتِ وَاعْصِمْنَا مِنْ  
 جَمِيعِ الْأَقَاتِ وَخَلِّصْنَا مِنَ الْبَلِيَّاتِ وَادْفَعْ عَنَّا الْوَبَاءَ وَالطَّاعُونَ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ  
 وَهُجُومِ الْوَبَاءِ وَمِنْ مَوْتِ الْفَجَاءَةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرَكِ الشَّفَاةِ وَسُوءِ الْفَضَاءِ وَنَعُوذُ بِكَ  
 مِنْ جَمِيعِ قَضَايَاكَ وَبَلَدِيَاكَ يَا سَمِيًّا يَا قِيَوْمًا يَا رَجِيْلًا يَا رَجِيْلًا يَا تَمَشِيْشًا بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ  
 الرَّحِيمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا -

رتبیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ پر پورا ہے یہیں طاعون و وباء سے بچانے رکھنا اسے اللہ پناہ میں رکھنا میں بارگاہ پاک  
 اسے وہ ذات پاک جس کی طرف گنہگار دھرتے ہیں اور جس پر متوکل بھر و سار کھتے ہیں جس کی طرف رغبت کرنے والے  
 رغبت کرتے ہیں اسے وہ ذات جس کی طرف حاجت مند التجا کرتے ہیں جس کی طرف گناہگار گھبرا کر متوجہ ہوتے ہیں یہیں  
 طاعون اور وباء سے مامون رکھنا میں بارگاہ اسے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے تقابو سے اسے

## باب ۹۳ زحیر (مروڑ) کے علاج میں

زحیر کے یہ معنی ہیں کہ انسان ہر ساعت قضا حاجت کے واسطے جاتا ہے اور فضلہ کالنے کے لیے بڑا زور لگاتا ہے۔ لیکن بہت تھوڑا خارج ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات گوشت کے ٹکڑوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں۔ سبب اس کا طبیعت کی سردی و خشکی ہوتی ہے۔

ربقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) عالم اسے قدیم اسے بخشے والے اسے بقا کے خالق اسے فراخ مہربانی والے اسے حافظ اسے رکھوالے اسے فریاد شننے والے اسے بنے بیاز اسے خالق اسے نور ہر قسم کے نور سے چیلے اسے (سرا پا) کل کا کل نور اسے اللہ ہم کو طاعون اور وبا سے بالکل بچائے رکھنا اسے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تین بار کہے اسے ووزات جس کا قول فیصلہ شدہ ہے اے وہ جو اپنے ملک میں قدیم اپنے حکم کی وجہ سے مہربان اپنی بخشش میں بزرگ اپنے کاموں میں حکمت والا اپنے عذاب میں عدل والا ہے ہم کو طاعون اور وبا سے بالکل محفوظ رکھنا اسے اللہ ہر قسم کے شر سے امن میں رکھنا چاہیے تین بار کہنا چاہیے اے اللہ میں تجھ سے تیرے اچھے ناموں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں اے سب سے اول سب سے آخر سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہمیں طاعون اور وبا سے ہر طرح سے مامون رکھنا یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان اسے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو ہمیں اپنے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہم کو اور ہمارے بڑوں اور ماؤں اور اولاد و فیصلہ اور کل مسلمان مردوں اور عورتوں اور ایمان دار مردوں اور عورتوں خواہ زندہ ہوں یا مردہ کو بخش دے اور ہم کو ہر قسم کی تکالیف سے نجات دے اور سب طرح کی آفتوں سے محفوظ رکھو اور کل مصیبتوں سے رہائی دلا اور ہم سے وبا اور تکلیف اور بیماریوں اور دردوں کو دور کر اپنی رحمت سے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اے اللہ میں تجھ سے کل قتنوں اور طاعون سے پناہ چاہتا ہوں۔ تیرے قسم کے غم اور مصائب کے اکٹھا آنے اور دفعتاً مرنے سے پناہ چاہتا ہوں اور بڑبختی پانے اور تیرے فیصلہ سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تیرے کل فیصلوں اور مصیبتوں سے اے زندہ اور قائم رکھنے والے تیری رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور رحمت بھیج ہمارے سردار محمدؐ اور ان کی آل

اور اصحاب پر اور سلام

علاج یہ ہے کہ گندم کا دلیہ دودھ اور گھی شامل کر کے گریا گرم کھا کر کپڑے لپیٹ لیں تاکہ پیٹ نرم ہو جاوے اور لپینہ آجاوے۔ اس علاج کو صبح و شام کام میں لاویں ایضاً جوار کی روٹی گائے کے تازہ دودھ سے کھانا زحیر کو فائدہ پہنچاتا ہے۔

سورۃ الم نشرح ایک پیالہ میں لکھیں اور اس میں زیرہ سفید و زیرہ سیاہ برباس۔ کلونجی، تھوڑا تھوڑا لے کر پیالہ میں پانی ڈال

کر اور ادویہ شامل کر کے پی جاویں انشاء اللہ آرام ہو جائے گا ایضاً نقش ذیل زمین پر لکھیں اور سوئے کا کنارہ اس کے ہر حرف پر لکھیں اور عزیمت ذیل ہر حرف پر سات دفعہ پوشیدہ پڑھتے جائیں اور مریض اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھے جس حرف پر درد موقوف ہو جاوے عزیمت کا پڑھنا بند کر دے۔ نقش یہ ہے۔

ب	ط	د
ز	ھ	ج
و	ا	ح

عزیمت یہ ہے وَ كُوْنَا نَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لِّرَأْيِنَا خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ الخ سورۃ حشر تک ایضاً حوں باریک پس کر روغن زیتون ملا کر آگ پر گرم کر کے بمقدار ایک تولہ ہر روز کھاویں تین روز تک ایسا ہی کریں ایضاً زیزدان۔ حنظل کرنب کا پانی گدھے کی بید کا پانی۔ چوہے کی سینگنیں۔ شہد۔ نک۔ سب کو ملا کر قند بناویں اور دھونی لیں اس سے شکم دھو کر مواد کھچے آئے گا اور آرام ہو جائے گا۔ ایضاً سفرجل ربی اکو شہد میں پکا کر معجون بنائیں پھر اس میں اشیاء ذیل۔ انار کا مونہ۔ فلفل۔ قرۃ۔ مصطکی۔ صمغ عربی۔ بوبان، ہر ایک مساوی لے کر شامل کریں۔ اور صبح و شام بقدر دو تولہ استعمال کریں۔ ایضاً زیرہ سیاہ۔ زیرہ سفید۔ زعفران۔ حب ارشاد۔ کلونجی۔ ہر ایک مساوی۔ شکر سفید سب ادویہ سے سہ چند سفوف بنا کر کام میں لاویں۔ ایضاً سترد فہ مریض قل ہو اللہ احد پڑھ کر دم کریں۔ ایضاً معجون ذیل پیٹ کے تمام امراض کے واسطے نہایت مفید ہے رطوبات فاسدہ کو قطع کرتی ہے۔ اعماق عروق میں گھس جاتی ہے اور سدہ کو کھول دیتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں کوئی بیماری نہیں رہتی دوا یہ ہے۔ صبر

لہ اگر ہم اس قرآن کو پھاڑ پھارتے تو وہ بھی اللہ کے ڈر سے خوف کھا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔

سقوطی۔ حب الرشاد۔ کلونجی۔ کالادانہ فلفل زنجبیل۔ ہیلیم سیاہ۔ ہر ایک مساوی سب کو باریک کوفتہ بچختہ کر کے شہد خالص میں معجون بنالیں اور ہر روز نہار کے وقت بمقدار ایک تولہ استعمال کیا کریں۔

## باب ۹۲ اسہال کے روکنے کے بیان میں

اس کا سبب کلی معدہ کی حرارت ہوتی ہے۔ اگر رطوبت بھی ساتھ شامل ہو تو براز کا رنگ سفید ہوگا۔ علاج میدہ کا سرہ کھانا چاہیے ایک نسخہ میں لکھا ہے کہ جواری روٹی سرکہ یا تسی ترش میں پیو کر کے تین روز تک استعمال کرنے سے اسہال رک جاتے ہیں۔ اگر خون سے اسہال جاری ہوں تو گندم کی خمیری روٹی یا جواری کی خمیری روٹی کو ترش دودھ میں میدہ کر کے آگ پر چڑھادیں اور پلانے جائیں جب گرم ہو جاوے تو اس کو گرم کھائیں نہایت مفید ہے ایضاً مازو کو خوب باریک کر کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے ایضاً پوست انار دودھ۔ پھٹکڑی سفید ایک قیراط سفوف بنا کر استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے ایضاً سفید کنتے کا پاخانہ بقدر چاررتی پانی کے ساتھ کام میں لانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

## باب ۹۵ نفع بطن ریپٹ کا پھولنا کے علاج میں

یہ ایک سخت مرض ہے اس میں خواہ انسان کچھ کھاوے یا نہ۔ پیٹ بھول جاتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ عروق درد اور عروق بطن۔ مائیں خورد عروق صفصاف (ریخ کا سنی) سب کو پیکر پکائیں اور اس کا پانی استعمال کریں تین دن تک یہی علاج کرتے رہیں۔ ایضاً عروق درباہی کو خوب جوش دیں اور جوش کی حالت میں روغن زرد ملا دیں پھر اتار کر سرد کریں اور نوش کریں۔

## باب ۹۶ نفع بطن کے علاج میں

اصول سبب اس کو خوب باریک کر کے شہد خالص میں ملائیں اور نہار کے وقت کام میں

لائیں اگر شہد نہ مل سکے تو صرف دوائی کو ہی جوش دے کر اس کا پانی نوش کریں۔ ایضاً پوست  
انار بقدر دو درم آدھ سیر پانی میں جوش دیں جب ایک تہائی پانی جل جاوے تو باقی کو صاف  
کر کے کسی مٹھاس سے میٹھا کر کے کام میں لاویں تین دن یا پانچ دن یا سات دن تک ایسا ہی  
کرتے رہیں ایضاً گوشت کے شوربہ میں الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے۔

## باب ۹۷ اسہال خون کے علاج میں

معجون سرول کا استعمال رکھیں صفتہ حب السرول۔ بادیان۔ دونوں کو باریک کر  
کے معجون بناویں اور صبح و شام بمقدار ایک تولہ کام میں لاویں ایضاً دم الاخون دو درہم مرغ  
کی ہڈی دو درہم مرغ کی ہڈی کو جدا کر اس میں دم الاخون ملا کر سفون بنالیں اور اس میں سے  
بقدر ایک ماشہ بہار استعمال کریں نہایت مفید و مجرب ہے۔ ایام علاج میں گوشت و چربی سے  
پرہیز کریں اور صرف گندم کی روٹی اور پانی پر اکتفا کریں۔ امید کہ تین دن میں آرام ہو جاوے گا۔  
ایضاً روغن زیتون صاف و عمدہ ہر روز بقدر ایک اوقیہ استعمال کریں اور سبق میں روز  
تک استعمال کرتے رہیں نہایت مفید و مجرب ہے۔

## باب ۹۸ معرہ و سکم کے درد کے علاج میں

زیرہ سیاہ بریاں۔ تخم کرفس ہر ایک ایک درہم سفون بنا کر (پانی سے استعمال کریں)  
اس درد کا علاج جو نافع سے نیچے ہوا کرتی ہے یہ مرض سخت ہوتی ہے ابو الطیب کہتا ہے  
کہ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ زریخ (پٹرنال) عاقر قرحا۔ بادیان سب کو باریک پس کر شہد  
خالص میں معجون بنائیں اور نہار بقدر چار رتی استعمال کریں۔ تین دن تک کھاتے رہیں۔

## باب ۹۹ غیثان وقفے کے علاج میں

یہ عزمیت لکھ کر تریخ کے پیٹ پر باندھ دیں۔ فخر ۳۳ فاعش ۳۳ عجل

اُخْرِجِي أَيُّهَا الْفَرِيَّةُ الْمَطْعُونَةُ مِنْ كَذَا وَكَذَا بِحَقِّ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ السَّلَامِ الْمُؤْمِنِ  
 الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ - اَيْضًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - اَنْ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ دَاوُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَسْأَلُ  
 اللَّهَ بِحَقِّ مَلَأَتِكَ الصُّوْتِ وَالْحَشْرِ يَوْمَ الْوَقُوفِ اَرْحَمَ عَبْدِكَ مِنَ الْقَوْمِ عَلَيَّ اَنْعَمَ الْكُفُوفِ  
 اِنَّكَ رَبُّ مَعْرُوفٍ وَسِرِّي اَيْلِكَ مَكْتُوْتٌ عَابٍ فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةَ لِكُلِّ نَبَاٍ مُسْتَقْرٌ وَسَمُوتٌ  
 تَعْلَمُوْنَ -

## باب معدہ کے اضطراب کے علاج میں

کیز کے پتے کوٹ کر پانی میں جوش دے کر وہ پانی پی جاویں۔ اس سے فے ہو کر آرام  
 ہو جاوے گا۔ ایضاً بیل کا پتہ پیاز کے پانی میں ملا کر پینے سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے۔

## باب وجع الفواد (کوٹے) کے علاج میں

اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کے دل کو دبا رہا ہے۔ علاج شکر تزی تھوڑا  
 سا قرفل ملا کر بکری کے دودھ کے ساتھ صبح و شام استعمال کریں۔ نہایت مفید و مجرب ہے ایضاً  
 حرمی تھوڑی سی لے کر باریک کریں روغن زیتون کے ساتھ استعمال میں لاویں۔

بکری کا سینگ جدا کر شہد خالص میں ملائیں اور  
 نفث الدم (خون تھوکنام) کا علاج | تھوڑا سا اس میں سے نہار استعمال کریں۔

سے نکلی اسے باغیہ نیزہ زرد شدہ اس شخص سے بادشاہ پاک ذات سلامتی و امن دینے والے غالب حکمت وائے  
 کے حق کے ساتھ ۱۲ لے کر چھ پر سرکشی۔ نہ کرو اور اسلام لاکر میرے پاس حاضر ہو جاؤ اسے اللہ میں تجھ سے  
 صف باندھنے والے فرشتوں حساب کے لیے کھڑے ہونے والے ان کے حق سے تو اس بندہ کو تھے سے رحم کر  
 اور اچھی طرح سے روک کر تو اب معلوم ہے کہ میرا بھید تجھ پر ظاہر ہے فلان بن فلان کو عافیت دے ہر عزیز کے لیے  
 قرار گاہ ہے مقرب تم جان لو گے۔



**امراض قلب** میں کرنب کو پکا کر سر کے ساتھ ملا کر کام میں لانا بہت مفید ہے فائدہ  
 حث طیب قریش کا قاعدہ تھا کہ جب کسی انسان کو کوری کا درد ہوتا تو  
 وہ کلوئی کو شہد خالص میں ملا کر بیض کو تین دن تک کھلانا جس سے اس کو آرام ہو جاتا۔ ایضاً  
 کلوئی حریل باریک کوٹ کر شہد خالص میں ملا کر ہر روز تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا بھی فائدہ دیتا ہے۔

## باب درد جگر کے علاج میں

اسی کے ضمن میں - خفقان قلب - ذات الحبت - زردی رنگ - سلسل بول - تقطیر بول ،  
 وجع المفاصل بھی شامل ہے علاج بسباس ایک رطل - کلوئی چار اوقیہ - حب الرشاد دو اوقیہ  
 زنجبین دو اوقیہ - زیرہ چھ اوقیہ - آر حلبہ ایک رطل - آرد اکلیل ایک رطل - کشینز ایک رطل سب کو  
 کوفتہ بختہ کر کے دو حصے کریں - ایک حصہ کو تیز نیر میں گوندھیں اور دوسرے کو شہد میں سر کے  
 والے حصہ میں سے کچھ کھالیں - اس کے بعد شہد والے حصے میں سے - نہایت مفید و محرب ہے  
 ایضاً عاقر قرحا باریک پس کر خالص ملا کر استعمال کرنے سے درد جگر کو آرام ہوتا ہے ایضاً  
 عزیمت ذیل لکھ کر مریض کو پیائیں اور نیز اس کی چار پائی پر ٹگادیں عزیمت یہ ہے **اللَّهُ ذُو  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهَ أَنْ تَرْفَعَهُ أَرْتَفَعِ أَيُّهَا الْوَجْعُ وَالرِّيحُ مِنْ جَوْفِ كَذَا وَكَذَا ابْنُ ذَرِيٍّ  
 رَفَعِ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ الْأَرْضُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيَا كَذِي رَفَعِ أَرْضِيْنَ مَكَانًا عَلِيًّا يَا لَيْلِ الْفِ  
 لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.....** ایضاً بیڑے کا جگر لے کر اس میں ملک  
 ملاویں پھر خشک کر کے باریک پس کر روغن زیتون میں ملاویں اور ہر روز تھوڑا سا نہار استعمال  
 کریں ایضاً اونٹ کا بول پینا جگر کے تمام امراض کو مفید ہے - ایضاً بھو کی زبان  
 لے کر اسے نمک لگا دیں اور خشک کر کے باریک کر کے سفوف بنا دیں اور اس میں سے تھوڑے

سہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے - آخر تک - دور ہو جا اسے درد اور ہو جاناں شخص کے پیٹ سے اس  
 ذات پاک کی قسم دیتا ہوں جس نے آسمان کو ایسے طور پر اٹھایا ہے کہ زمین پر نہیں گر سکتا مگر اس کے حکم =  
 اور جس نے اور پس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا ہزار ہزار لاجول کی برکت سے

سے گرم پانی کے ساتھ استعمال میں لادیں۔ ایضاً بیج کاسنی۔ بسباس کے پانی میں جوش دے کر صاف کر کے روغن بادام ملا کر پینا بھی فائدہ کرتا ہے۔ ایضاً عاقرقرچا۔ ضرور ایک درخت کا نام ہے، کے پانی میں جوش دے کر استعمال کرنے سے بھی یہی نتیجہ برآورد ہوتا ہے۔

## باب ۱۳۳ کردہ کے علاج

قنار الحمار یعنی گھگرٹویل (بقدر برداشت طبع کوٹ کر پانی ملا کر استعمال کریں ایضاً گھگرٹویل۔ تخم خیاریں۔ تخم کدو۔ تخم خرپوزہ۔ تخم زہ تیزک۔ تخم چرنجی۔ سود کوفی۔ مٹھی زیرہ سفید سب کو کوفتہ بختہ کر کے روغن زیتون میں ملا کر بقدر برداشت طبع استعمال کریں۔ ایضاً۔ کلونجی حریل۔ سداب۔ سب کو کوفتہ بختہ کر کے شہد میں ملائیں اور استعمال میں لائیں۔

## باب ۱۳۴ طحال کے علاج میں

اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ طحال میں استرخاد آجاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تلی بڑھ جاتی ہے اور پیاس لگتی ہے۔ اور باوجود زیادہ کھانے کے مریض دبلا ہوتا جاتا ہے علاج ہے کہ جھاؤ کی شاخیں پانی میں پکائیں اور بقدر ضرورت پانی کے کرتیز سرکہ ملا کر استعمال کرتے رہیں امید ہے کہ سات دن میں آرام ہو جائے گا۔ یہ پڑا مفید صبح اور مجرب ہے۔ ایضاً کلونجی ایک تو کرتیز سرکہ میں پکائیں اور رات کے وقت رکھ چھوڑیں اور صبح کے وقت پی جائیں سات دن استعمال کریں ایضاً تخم ترب۔ زنجبیل۔ سنچہ۔ مچھلی۔ سب کو کرتیز سرکہ میں پیکر موضع طحال پر ضاد کریں۔ ایضاً یہ نسخہ صبح اور مجرب ہے اور جوشک کر کے محروم ہے۔ عروق صفصاف۔ عروق الحمیضہ دونوں کو لے کر اور تھوڑا سا نمک ملا کر ایک نئی ہانڈی میں ڈال کر اتنا جوش دیں کہ پانی سرخ ہو جائے پھر وہ پانی تین دن تک نہار استعمال کرتے رہیں۔ انشاء اللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ایضاً تخم ارٹڈ۔ آرد جو۔ دونوں کو کرتیز سرکہ میں پیکر تھوڑا سا گرم کر کے موضع طحال پر ضاد کریں۔ ایضاً بیخ کبر کو سرکہ میں پکا کر ہر روز صبح کے وقت استعمال کرنا بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایضاً بیخ کرفس کو پانی میں گھوٹ کر پینے سے بھی یہی فائدہ

پہنچاتا ہے۔ ایضاً مجیٹہ دو درہم کو پانی میں پیس کر شہد ملا کر استعمال کرنے سے بھی یہی فائدہ  
 پہنچتا ہے۔ ایضاً موضع طحال پر روغن گل سے کئی مدت تک مالش کرتے رہنا تلی کو نرم کر دینا  
 ہے اس کے بعد ایک جلاب کرنے سے بالکل آرام ہو جاتا ہے۔ ایضاً قنادا الحمار کو تیز  
 سرکہ میں پکا کر مہوڑا سا استعمال کرنا تلی کو زائل کرتا ہے۔ ایضاً تخم عرب۔ سرکہ کی سنگین  
 میں پیس کر استعمال کرنے سے تلی کم ہو جاتی ہے ایضاً تخم ازند۔ بیخ حمیضہ دونوں کو سرکہ میں  
 پیس کر طحال پر ضماد کریں بہت مفید ہے۔

## باب طحال کا علاج کتاب سے

اگر تو اس کو زمانا چاہے تو پہلے اسماء ذیل کو کسی کاغذ پر لکھ کر کبھی کی تلی پر ٹسکاویں  
 اور اس کو سات دن کے بعد ذبح کریں تو اس میں طحال نہ ہوگی۔ اسی طرح انسان کی طحال پر  
 ان اسماء کو لکھنا چاہیے۔ اسماء یہ ہیں۔ ح ا ب ح ف ا ح ح د ب و ح ع ه د ح م ا ع و ی و یح ح ا م ی ا  
 و ط ا ن ر ا و و ع ع م ح ا ح ا د س ل و م ی ع ی ب ک ط ا ع ل ح د ب ی ا ج ی و ی ا خ د ا م ہ ذ ہ ا ال ا س م ا ع ب ر ف ع  
 ال ط ح ا ل ع ن ہ ذ ا ال ا د م ی ب ح ق ہ ذ ہ ال ا ح ر ن ..... بوارحی نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص  
 ایک کاغذ پر دس دفعہ صرف (ع) نیز پانچ دفعہ (ع) اور یہ آیت و ی س ا ل ت و ن ک ع ن ال ج ب ا ل  
 ل ف ط ن س ق ا ت م ل ک ہ ک ر ط ح ا ل و ال ا ش خ ص پ ا س ر کھے تو اس مرض سے نجات پاوے گا ایضاً  
 شنبہ اور سہ شنبہ کے دن ان اسماء کو لکھ کر سات روز تک طحال پر ٹسکانے سے مرض جاتا ہے  
 گا اسماء یہ ہیں۔

دس دفعہ لفظ (ع) اور آٹھ دفعہ لفظ (ح) ایضاً ان

اسما کو لکھ کر باندھنے سے بھی فائدہ ہوگا۔ سب

س ا ب س ب ا ب ب ہ م ط ا ن ب ہ م ط ا ن ن ق و ش ن ق ا ش م ت ک س ک س م ت ک ل س ا ن ا ن ک ا ن ت  
 ا ل ا ص ی ح ت و ا ح د ہ ف ا ذ ا ہ و خ ا م د و ن ا ح م د ا ی ہ ا ل ط ح ا ل ب ح ق ہ ذ ہ ا ل ا س م ا ع

س ا ب س ب ا ب ب ہ م ط ا ن ب ہ م ط ا ن ن ق و ش ن ق ا ش م ت ک س ک س م ت ک ل س ا ن ا ن ک ا ن ت  
 ا ل ا ص ی ح ت و ا ح د ہ ف ا ذ ا ہ و خ ا م د و ن ا ح م د ا ی ہ ا ل ط ح ا ل ب ح ق ہ ذ ہ ا ل ا س م ا ع

۱۔ ترجمہ تجھ سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں تو کہہ دے کہ ان کو میرا رب اچھی طرح اڑا دے گا

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّوا السَّمِيعَةَ الْعَلِيمَةَ نيز اسی دفعہ حرف ع لکھ کر تیز سر کہ سے مٹا کر ہر روز پین  
تین روز میں آرام ہو جاوے گا نیز نقش ذیل قلعی کی انگشتی میں جڑوا کر سات روز بائیں طرف اور  
سات روز دائیں طرف ٹکانے سے طحال قناع ہو جاتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ صبح و مجرب  
ہے نقش یہ ہے۔

واح اح ع اما لام اما د
ای ورم و اح و ہ ہ
ما ہ لع لکوع

## باب وجع القلب و خفقان یعنی درد دل اور اس

### کے ٹپنے کے علاج میں

عرق گاؤ زبان ایک رطل شہد خالص نصف رطل دونوں کو ملا کر پکاویں جب خوب پک  
جاوے تو اس میں سے بقدر ضرورت استعمال کریں کم از کم تین دن تک استعمال کرتے رہنا  
چاہیے ایضاً معجون رصاص جس کی ترکیب حسب ذیل ہے۔ استعمال کریں امراض دل کے  
واسطے نہایت مفید ہے۔ مصطکی ۴ اوقیہ یا اونس کشتہ قلعی ۴ اوقیہ شکر تری ایک رطل یا پونڈ شہد  
خالص ایک رطل مصطکی اور کشتہ کو شہد اور مصری میں ملا کر معجون بنائیں اور صبح شام تھوڑا تھوڑا  
استعمال کریں۔ یہ معجون ایسے شخص کو بھی جس کا دل گرمی کے مارے بھٹی کی طرح جوش مار رہا ہو  
فائدہ دیتی ہے۔ اور نہایت صبح اور مجرب ہے۔

ایضاً اس درد دل کے لیے جو سردی سے ہو مفید ہے۔ فلفل زیرہ سیاہ دونوں کو کوفہ

سلا زخمہ نہیں وہ مگر ایک ہی چنغ پس دفعہ وہ بیہوش بیہوش ہو جائیں گے گم ہو جا اسے تلی کی بیماری ان  
اسموں کی برکت سے پس قریب ہے کہ کفایت کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو ان کے شر سے اور وہ سب سے بڑھ کر سننے والا  
اور جاننے والا ہے۔

بیختہ کر کے شہد خالص میں ملائیں اور ہر روز تھوڑا سا کھائیں۔

اگر خفقان سے انسان کی یہ حالت ہو کہ جو کھائے نکل جائے اور بعض وقت یہ حالت ہو کہ کھانے سے سیر نہ ہو اور پینے سے سیر نہ ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ تخم پیاز کو کرفس کے پانی اور تیز سرکہ میں ملا کر پکادیں۔ اور ہر روز صبح کے وقت استعمال کریں۔ ایضاً گائے کے دودھ کو بھپاڑ کر اس کو آگ پر جوش دیں پھر اتار کر ٹھنڈا کریں پھر اس میں شجرہ مریم ملاویں پھر اس کا استعمال کریں ایضاً حمرل ایک حصہ کلونجی ایک حصہ دونوں کو باریک پیس کر کھانڈ میں ملا کر استعمال کریں۔ ایضاً حمرل ایک درم پانی میں گھوٹ کر سات دن تک صبح و شام استعمال کریں۔

ایضاً دنبہ کا دل پکا کر کھانا خفقان قلب اور دل کے رنج و غم کو دور کرتا ہے۔

## باب اول کا علاج کتابت اور عزیمت کے ساتھ

قولہ جبرائیل الحق

ب	ط	د
ز	ھ	ج
و	ا	م

عزیمت

تو بیدیل چینی کے چوڑے برتن میں لکھ کر پانی سے دھو کر بلائیں اور نیز اس شخص کے گرد یہ الفاظ بھی لکھیں اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَشْفِينِ

تک اور قَالِ الْمَاءُ وَالطَّارِقُ لَقَدْ قَادِرٌ تَمَك

رقیبتی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر نئے چینی کے پیالہ میں بیس دفعہ حاجلی (ع) اور پانچ دفعہ ہا۔ ہوزھ لکھے اور بارش کے پانی سے دھو کر پئے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مرض سے خصوصاً خفقان قلب سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایضاً عزیمت ذیل کسی چینی کے برتن میں لکھیں اور پانی سے دھو کر شہد ملا کر پیئیں۔ تو خفقان قلب کو فائدہ ہوتا ہے۔ عزیمت یہ ہے یہ لے

لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

## باب دوم وجع المعده کے علاج میں

یاد رہے کہ معده بدن کا حوض ہے اگر اس حوض سے رطوبات خارج بدن میں پہنچیں گی

لہ اگر ہم اس قرآن کو پھاڑ پھارتے تو اسے بھی تو اللہ کے خوف سے ڈرنے اور پھٹنے والا دیکھتا۔

تو بدن تندرست و صحیح رہے گا ورنہ نادرست و بیمار رہے گا۔ معده کا بیمار ہونا تمام امراض کا باعث ہوتا ہے۔ اور بیماری معده کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اخلاط الاربعہ میں سے کوئی خلط فاسد معده کے اجزاء میں مختن ہو جاوے اس کی بیماریاں چار قسم کی ہوتی ہیں (۱) شہوت کلیبہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان خواہ کتنا بھی کھا جاوے مگر اس کی طبیعت سیر نہیں ہوتی اور مضغ معتدل سے پہلے ہی ہضم ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص بغیر طعام کے کچھ دیر تک بھی صبر نہیں کر سکتا۔ اس کا سبب خلط صفراوی کی کثرت ہوتی ہے جو معده میں بند ہو جاتی ہے علاج یہ ہے کہ عرق شکر تری ڈال کر پیاجاوے اور تھے کیجاوے اور گندم کی روٹی جلاب (عرق گلاب میں شکر ملا کر) کے ساتھ کھایا کریں جو چیز سرد و تر ہو بطور غذا استعمال کریں۔ (۲) شہوتہ کاذبہ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے اعضاء غذا کی طرف بدرجہ کمال مشتاق ہوتے ہیں۔ مگر جب کھانا لایا جاوے تو طبیعت نفرت کرتی ہے اور ایک دو لقمہ کھا کر تھوڑ دیتی ہے۔ اس کا سبب خلط دموی کی کثرت ہے جو معده میں بند ہو جاتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ سرکہ و گرم پانی ملا کر تھے کیجاوے پھر انار کا پانی دانتوں اور گودے سمیت کوٹ کر نکال جاوے اور استعمال کیا جاوے اور سالن و شوربہ میں انار دانہ و سرکہ شامل کیا جاوے (۳) غشیان ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو باکل طعام کی خواہش نہیں ہوتی اور جی متلاتا رہتا ہے۔ اگر کھانا کھائے تو فوراً قے کر دیتا ہے اس کا سبب خلط بلغمی نادر کا معده میں بند ہو جانا ہوتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ پہلے سرکہ اور شہد سے تھے کریں پھر تڑش انار کھایا کریں اور اس سفوف کا استعمال رکھیں۔ مصطکی۔ فلفل۔ قرنفل۔ زنجبیل زیرہ سیاہ پوست سماق ہر ایک مساوی لے کر کو قہہ بچتہ کر کے سفوف بنائیں۔ قبل و بعد از طعام استعمال کیا کریں اور گندم کی روٹی چوزہ مرغ کے شوربے کے ساتھ کھایا کریں (۴) شیح کاذب اس کے یہ معنی ہیں کہ انسان طعام کی خواہش کرتا ہے۔ لیکن جب طعام لایا جاتا ہے اور ایک دو لقمے کھالیتا ہے تو ایسا معلوم کرتا ہے کہ پیٹ بھر گیا اس کا سبب یہ ہے کہ غلط سوڈا و فاسد معده میں جمع ہو جاتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ پہلے نمک۔ سرکہ شہد میں پانی ملا کر تھے کریں پھر شراب عسلی استعمال کریں جس کی ترکیب یہ ہے۔ شہد خالص ایک رطل، مصطکی ایک درہم۔ فلفل ایک درہم۔ زنجبیل ایک درہم سب کو پس کر شہد میں ملا کر محفوظ رکھیں اور حاجت

کے وقت استعمال کریں اور گندم کی روٹی چوزہ مرغ کے شوربے اور گوشت بطور غذا استعمال کریں ایضاً سبز نعناع کو باریک کوٹ کر گندم کے آٹے میں ملا کر روٹی بناویں اور معدہ پر بندھیں اور نیز استعمال بھی کریں ایضاً زیرہ سیاہ بریان - تخم کرفس ہر ایک مساوی کوفتہ بنجینہ کر کے بقدر ایک درہم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ایضاً سفوف ذیل بلغم کو قطع کرتی ہے۔ معدہ کو طاقت دیتی ہے۔ رطوبات قاسمہ کو قطع کرتی ہے۔ جمی ہوئی زخموں کو خارج کرتی ہے۔ منہ کی خوشبو بڑھاتی ہے آواز کو صاف کرتی ہے قوت باہ و حافظہ کو زیادہ کرتی ہے۔ نسیان کو دفع کرتی ہے۔ سفوف یہ ہے فلفل زنجبیل ہر ایک مساوی کوفتہ بنجینہ کر کے دو چمک کھانڈ شامل کر کے سفوف تیار کریں اور بقدر ایک تولہ بہار استعمال کریں۔ ایضاً شربت انار معدہ کو قوت دیتا ہے اور درد سر کو دور کرتا ہے اور امراض صفر اوہیہ کو دفع کرتا ہے اور ہضم کرتا ہے اور رنگ سرخ کرتا ہے۔

قے کرنا اس کا اعلیٰ علاج ہے۔ سانس بند کر لینا چاہیے  
یاسداب کا پانی نکال کر اس میں شہد خالص ملا کر

فواق یعنی ہچکی کا علاج

استعمال کریں۔

## باب ۱۰۹ جو تک کے حلق میں چلے جانیکے علاج میں

پیاز کے پانی میں کلونجی جوش دے کر غزہ کریں۔ اور اس میں سے تھوڑا سا پانی ناک میں پٹکائیں جو تک نکل آئے۔ ایضاً ریحان (نیاز بو) تلخی کے تپوں کو جوش دے کر اس کے پانی سے غزہ کرنا بھی فائدہ دیتا ہے۔ ایضاً کوئی ٹیڑھا لکھنوی حلق میں ڈال کر اس سے جو تک پکڑ کر نکالیں ایضاً فلفل باریک پس کر بندر بویہ کسی تلخی کے ناک یا حلق میں پھونک دیں۔ ایضاً کلمات ذیل کہہ کر باندھنے سے جو تک نکل جاوے گی۔ انشاء اللہ اللہم

يَا خَالِقَ الْخَلْقِ وَيَا مَنْ كَلَّمَ مُوسَى بِالْحَقِّ وَجَعَلَ عِيسَى رُوحَهُ بِالْحَقِّ وَخَلَقَ  
أَدَمَ بِالْحَقِّ أَخْرِجِ الْعَلَقَةَ مِنَ الْجَلْقِ وَنَاطِقَ الْعَجْرَبِ بِالْحَقِّ أَخْرِجِ بِالذِّئِ أَخْرِجْ  
مِنْهَا مَا دَهَا وَمَرَعَهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَرْضُهَا جِبْرَائِيلُ

عَلَى رَأْسِهَا مِيكَائِيلُ عَلَى وَسَطِهَا وَمُعَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَنْبِهَا انْقَسَمَتْ  
تَسْعَتَيْتِ انْقَسَمَتْ عَزَمَتْ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَلَقَةُ بِسُورَةِ الرَّاحِ خَلَصَ قَلْبُ هُوَ اللَّهُ  
أَحَدًا اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَكَلِمَاتُهَا كَلِمَاتُهَا أَحَدٌ قَوْلُهُ وَاللَّهُ أَحَدٌ  
دال لہ ال ص م دل م ی ل دل م ی ل دل م ی ل ک ن ل ل ش ف و ا ح د۔

## باب دیدان ریپٹ کے کپڑے مثل کردوانہ، چوٹنہ، ملبھپ کے

### علاج میں

بعض کپڑے بڑے ہوتے ہیں جن کو عربی میں حیات اور پنجابی میں ملبھپ کہتے ہیں یہ  
بڑے ضرر رساں و خطرناک ہوتے ہیں اور بعض چھوٹے ہوتے ہیں مثلاً کردوانہ و چوٹنہ یہ بہ نسبت  
بڑوں کے کم ضرر رساں ہوتے ہیں۔ اشیاء خام جو سودہ میں کامل طور پر منہضم نہ ہوں ان کا سبب  
ہوا کرتی ہیں۔ علاج صبر سقوطی پانچ درہم جب الرشاد پانچ درہم۔ دونوں کو باریک پس کر  
شہد خالص میں ملاویں اور تیار استعمال کریں اس سے کپڑے مردہ ہو کر خارج ہو جائیں گے  
ایضاً نازنگی زرد کا خشک چھکا باریک پس کر دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے دیدان  
خارج ہو جاتے ہیں۔ ایضاً تقوم کی دس تریان شہد خالص میں ملا کر کھانے سے بھی یہ نتیجہ  
برآمد ہوتا ہے ایضاً درمنہ ترکی تین درہم۔ جب قرطم پانچ درہم دونوں کو کوٹ کر ترش دودھ  
کے ساتھ پھانسنے سے بھی یہی مطلب حاصل ہوتا ہے ایضاً زیرہ سیاہ۔ پودینہ کو بھی دونوں مساوی

۱۔ اسے اللہ کل مخلوق کے پیدا کرنے والے اور وہ ذات جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً کلام  
کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچے طور پر اپنا روح بنایا اور سچائی کے ساتھ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نکال لے جو تک کو  
حلق سے۔ اسے سچائی کے ساتھ اس نے پتھر کو بلا دیا نکال دے اس جو تک کو اس ذات کی مدد سے  
جس نے زمین سے اس کا پانی اور چار نکالا گویا کہ جس دن اس کو دیکھیں گے وقت خفتن بلکہ دوپہر تک بھی نہ  
ٹھہریں گے جبریل اس کے سر پر ہے میکائیل اس کے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری حصہ پر  
خشک ہو گئی اور پراگندہ و بوسیدہ ہو گئی اسے جو تک میں تھپرتھپرت کرنا ہوں سورہ اخلاص کے ساتھ۔



کو تھوڑے بجتے کر کے ہمارا استعمال کریں ایضاً موٹے اونٹ کا گوشت لے کر رکھ دیں یہاں تک کہ بدبودار ہو جائے پھر اس کو روزہ رکھ کر بعد میں استعمال کریں نہایت مفید ہے۔ ایضاً زیرہ سیاہ کو سرکہ میں پیس کر پیٹ کے اوپر طلا کرنے سے پیٹ کی کدو دانے مر جاتے ہیں۔

## باب استسقا کے علاج میں

اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام بدن سوچ جاتا ہے۔ اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ اول لمبی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر ورم میں انگلی کھبونی جاوے ورم کی جگہ دب جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھتی ہے۔ اس کا علاج بہ نسبت باقی اقسام کے آسان ہے۔ قسم دوم طبعی، اس کی علامت یہ ہے کہ اگر مریض کے پیٹ پر ہاتھ ماریں تو طبل کی سی آواز سنائی دے۔ یہ پہلی قسم سے خطرناک ہے۔ تیسری قسم زرقی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ورم بڑا ہوتا ہے اور پیٹ شک کی طرح پھولا ہوا ہوتا ہے۔ چھڑا بار یک ہو جاتا ہے اور سبز گیس بدن پر نمودار ہوتی ہیں۔ اور مریض جب حرکت کرتا ہے یا کروٹ پھرتا ہے تو اس کا پیٹ اس برتن کی طرح جس میں دودھ پڑا ہوا چھلتا ہے یہ قسم سب سے زدی ہے ان سب کا سبب یہ ہوتا ہے کہ خلط بلغمی خلط دعویٰ کی طرف مستحیل ہو جاتی ہے علاج مشترک کشینز کو سرکہ میں بھگو کر استعمال کیا کریں تین دن تک یہ دوا کریں اور غذا گندم کی روٹی چوزہ مرغ کے شوربہ کے ساتھ کھائیں۔ اس کے بعد مسہل بلغم لیں پھر اس دوائی کو اسی طریقہ سے شروع کریں اور صبح کے وقت شہدِ خالص بھی استعمال کیا کریں۔

چونکہ اس قسم میں جلد اور گوشت کے درمیان زرد پانی جمع ہو جاتا ہے اس لیے اس کا علاج اس پانی کا نکالنا ہے۔ اس کے بعد کباب مینی اور کشینز کو سرکہ میں جوش دے کر پیتے رہیں اور پانی سے پرہیز رکھیں اور اس کی جگہ عروق استعمال کریں۔

اس قسم میں پہلے تفتینہ عام کر کے اس کے بعد معجون فلاسفہ یا معجون تریاق کا استعمال کریں اور نفع کی جگہ پر صبر کو سرکہ

میں پس کر طلا کریں اور ہر ساعت تھج کا پانی پیتے رہیں۔

نظرون کا عصارہ بقدر دورتی عقیات میں ملا کر استعمال کریں اور نیز تلاء الحمار پانی میں چاکر ہر روز استعمال کریں پہلے روز ایک گھونٹ دوسرے روز دو تیسرے روز تین اس سے آگے نہ بڑھیں۔

## استشفاء طبلی کا علاج

### باب ۲۲ سعال یعنی کھانسی کے علاج میں

بلغمی کھانسی کی علامت یہ ہے کہ کھانسی کے وقت بلغم نکلتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ خلط بلغمی سینہ پھیپھڑہ میں بند ہوتی ہے علاج شہد خالص ایک رطل کنڈر ایک درہم مصطکی ایک درہم ہر دو اشیا کو شہد خالص میں ڈال کر آگ پر چڑھادیں۔ یہاں تک کہ مصطکی و کنڈر پگھل جاوے پھر نیچے اتار لیں اور اس میں کلونجی۔ میٹھی۔ زنجبیل۔ فلفل۔ ہر ایک ایک درہم سب کو فستہ بختہ کر کے اس میں ملاویں اور بقدر درہم استعمال کریں اور چاول جس میں سیاہ مرچ ڈال کر پکائے گئے ہوں بطور غذا رکھاویں خشک کھانسی جس کے ساتھ بلغم خارج نہیں ہوتی اس کا سبب سوداوی ہوتی ہے۔ اور سینہ اور پھیپھڑہ میں بند ہو جاتی ہے علاج میٹھے لے کر چار پانچ دفعہ جوش دیں۔ اور ہر دفعہ کا پانی گرا کر تازہ پانی ڈالتے جائیں پھر خوب باریک پس کر اس کے ہم وزن گندم کا آٹا ملاویں اور گائے کے دودھ میں حریرہ بنا کر شکر تری کے ساتھ استعمال کریں۔ صبح و شام دن میں دو دفعہ یہ نسخہ پیں ایضاً مر کنڈر۔ مصطکی ہر ایک ایک درہم سب کو کوٹ کر روغن زیتون میں اوقیہ میں ملا کر آگ پر چڑھاویں جب چیزیں روغن میں پگھل جاویں تو نیچے اتار لیں اور اس میں سے بقدر ایک درہم سوتے دنت استعمال کریں۔ ایسا ہی مرکی کوٹ کر اس میں کھانڈا کر سفوف بنائیں اور اس میں سے بقدر چار رتی غلبہ سرفہ کے وقت استعمال کریں فی الفور فائدہ ہوتا ہے اگر ایک دن میں فائدہ نہ ہو تو دو تین روز تک استعمال کرتے رہیں گندم کا آٹا اور میٹھے کا آٹا دونوں کی روٹی بنا کر شہد کے ساتھ کھایا کریں۔

## گرم کھانسی کا علاج

اس میں مادہ الشعیر (جو کا پانی) روغن بادام ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی مغزکدو مصری کے ساتھ ملا کر استعمال

کرنا گرم کھانسی کو مفید ہے بکری کا دودھ اس قسم کی کھانسی میں فی الفور فائدہ دیتا ہے گوند کترا مادہ الشعیر میں ملا کر مصری ڈال کر استعمال کرنا بھی مفید ہے۔ تخم خشخاش پانی میں پکا کر مصری سے میٹھا کر کے پینا بھی بڑا فائدہ دیتا ہے۔ آرد باقلا کو روغن بادام میں ملا کر خوب بناویں اور چوتے رہیں اس سے بھی گرم کھانسی کو کمال فائدہ دیتا ہے۔

## پرانی سرد کھانسی کا علاج

جالینوس اور سولہ دیگر حکیموں کا خیال ہے کہ میعہ (سلاخ) کو عرق گلاب میں ملا کر پینا سرد کھانسی

کو بڑا فائدہ پہنچاتا ہے۔ شہد خالص پینا بھی فائدہ مند ہے۔ کھجور کا کھانا بھی سرد کھانسی کو رفع کرتا ہے۔ تخوم بھی پرانی کھانسی میں مفید ہوتا ہے۔ سرکی بقدر دانہ باقلا متہ میں رکھنا بھی پرانی کھانسی کا دشمن ہے۔ گاجر پاک صاف کر کے بریاں کر کے کھانا بھی مفید ہے۔ لعوق قطران بھی سعال مزمن کو رفع و دفع کرتا ہے خشک کھانسی میں گندم کے نشاستہ کی روٹی مغز بادام ملا کر پکا کر کھانا مفید ہے۔ ایسا ہی اس کھانسی میں مادہ الشعیر میں صمغ عربی ملا کر مصری سے میٹھا کر کے پینا فائدہ مند ہے۔ ایسا ہی موٹی مرغی کا شوربہ بھی اس کھانسی کو دفع کرتا ہے۔ گنجد سفید میں کھانڈ ملا کر کھانا بھی اس قسم کی کھانسی میں مفید ہے۔

## اس کھانسی کا علاج جس میں خون کی آمیزش بھی ہو

اس کا سبب دل کی حرارت اور

پھیپھڑے کا درد ہوتا ہے۔

علاج کشنیز کو ایک رات دن سرکہ میں بھگوویں۔ پھر مصری ملا کر کام میں لادیں۔ ایسا شہد و روغن زرد میں کند ملا کر آگ پر پگھلاویں پھر سرد کر کے اس میں سے تھوڑا تھوڑا استعمال کریں ایسا مازو باریک کیا ہوا۔ چھکڑی بریاں۔ مرغی کی بڑی کا آٹا سب کو ملا کر ہر روز صبح کے وقت پانی کے ساتھ بقدر تم رتی پھانک لیا کریں ایسا تخوم کو عرق گلاب میں پکا کر استعمال کرنا بھی یہی کام دیتا ہے۔

## باب ۱۳ فصد و حجامت کے بیان میں

یاد رہے کہ خون کا نکانا خوب نہیں کیوں کہ اس سے قوت جسمانی جو روح کے ثبات کا ذریعہ ہے کم ہو جاتی ہے۔ جو حکماً نہایت ضرورت کے وقت فصد لیتے ہیں وہ رگ اکمل، (ہفت اندام) کا فصد لیتے ہیں جب کہ بدن میں خون کی طغیانی دیکھتے ہیں اور پھر بھی ٹھوڑا سا خون نکالتے ہیں اس کے علاوہ دیگر رگوں کا فصد بھی جو خاص بیماریوں کے واسطے مخصوص ہے لیتے ہیں باوجود اس بات کے فصد میں بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ہاں حجامت (پچھنے یا سینگی لگوانا) بہ نسبت فصد کے بہتر ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزوں میں شفا ہے۔ شہد میں۔ حجامت میں۔ داغ لگانے میں۔ حجامت بھی بلا ضرورت نہیں کرنی چاہیے اور بے ضرورت حجامت و تمام مسہلات کا ترک کرنا انسان کی سلامتی کی بہترین تدبیر ہے۔ اگر ضرورت پڑے مثلاً آنکھوں کی سرخی اور رمدِ عظیم کے لیے سر کے نقرہ (گرٹھا) کی حجامت کریں۔ یعنی سینگی لگوائیں اور بلادہ حواس و ثقل رأس و کثرت نوم کے لیے کندھوں پر پچھنے لگوائیں۔ دل پر پچھنے لگانا دل کی کدورات و رطوبات فاسدہ کو صاف کرتا ہے ہر دوران و ہر دو ساق پر پچھنے لگانا بدن میں پھوڑے پھنسی نکلنے کو روکتا ہے اور امراض دمویہ و سوداویہ کو دفع کرتا ہے۔ اور حجامت کے وقت سورہ فاتحہ و آیت الکرسی پڑھنی چاہیے تاکہ اس علت سے جلد شفا ہو جاوے حجامت کے بعد سرد پانی سے غسل کریں اور پھنیوں کے ڈنگوں پر مرنگ (مرداسنگ) کو فتنہ بختہ کر کے چھڑکانا چاہیے کہ اس سے درد کو تسکین ہوتی ہے۔ اور پھنیوں کا باقی خون خشک ہو جاتا ہے۔ اور کھانا کچھ دیر ٹھہر کر کھانا چاہیے نمکین چیزوں و ترشیات سے پرہیز کرنا چاہیے حجامت ایام البیض یعنی تیرھویں تاریخ چاند سے لے کر پندرہ تاریخ تک کرنی چاہیے اور فصد صرف موسم ربیع میں کرنا چاہیے کیوں کہ اس موسم میں خون جوش مارتا ہے۔ اطبا حجامت کو فصد کے قائم مقام سمجھتے ہیں پس رگ اخذ ع کی حجامت چہرہ، کان، آنچھ کے واسطے مفید ہے اور کندھے

کی حجامت عورتوں کے رحم کے واسطے مفید ہے۔ اس کے قریب ایک رگ ہے جس کو قریب کہتے ہیں اگر وہ کٹ جاوے تو خون نہ ٹھہرنے کے سبب انسان مر جاتا ہے۔ نقرہ کی حجامت سر کے فصد کے قائم مقام ہے۔ کان کے نیچے کی حجامت دانت لثہ کے واسطے مفید ہے۔ کندھوں کے درمیان کی حجامت، ہاتھوں، بازوؤں، سینہ کے امراض کے واسطے فائدہ مند ہے۔ مقعد کی حجامت۔ معدہ۔ مری۔ ورک۔ پاؤں کی امراض کے واسطے مفید ہے چاروں انگلیوں کی حجامت عارض۔ دل۔ وریج بوا سیر کے واسطے مفید ہے جو شخص پٹھنے لگا دے اسے لازم ہے کہ مہرہ اصفہانی کا استعمال کرے اور اس روز کتاب کا مطالعہ نہ کرے اور نہ دوسرے دن کیوں کہ یہ آنکھوں کے واسطے مضر ہے۔ جالینوس کہتا ہے کہ ایام ربیع میں فصد لینا افضل ہے جب کہ خون جوش میں آیا ہو اور پس دائیں ہاتھ کی اکھ کا فصد سودا و دہق کو مفید ہے اور دائیں ہاتھ کی رگ باسلیق کا فصد سینہ کے درد کو دور کرتا ہے۔ بائیں ہاتھ کی فصد طحال و رمد و وجع الورک کے لیے مفید ہے۔ دائیں ہاتھ کی رگ اسلیم کا فصد فیق النفس کے واسطے مفید ہے۔ اور بائیں ہاتھ کی رگ اسلیم کا فصد طحال کو فائدہ دیتا ہے۔ زبان کا فصد ثقل لسان کو فائدہ کرتا ہے۔ نابالغ کا فصد نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے دماغ میں فتور ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور مریض الحماة اور حاملہ عورت کا فصد نہ لینا چاہیے البتہ حاملہ عورت بوقت اشد ضرورت ماہ چہارم و پنجم و ششم میں فصد کھلوا سکتی ہے۔ فصد کے بعد مہرہ اصفہانی کا استعمال کرنا چاہیے اور فصد میں تین دن پہلے اور تین دن پچھے حجامت نہ کرنا چاہیے اور عمدہ گندم کی روٹی تیز سرک کے ساتھ یا شہد کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے اور بکری کے گوشت۔ مسور۔ دودھ ترش۔ انڈوں۔ لسی سے پرہیز کریں اور جو شخص انہی سال کی عمر کا ہو یا مرد کثیر الجماع ہو یا عورت کثیر الجماع کو فصد نہیں کھلوانا چاہیے۔

## باب ۱۴ رنج و غم کے علاج میں

زیرہ سیاہ۔ مہندی۔ تخم ریجان۔ سب کو مساوی لے کر پیاز کے پانی میں گوندہ کرٹکیر

بنائیں اور سات دن ہر روز صبح کے وقت ایک ٹیکہ استعمال کریں۔ ایضاً تخم زرخاں معز کرکم، عصفور کسنبہ، زیرہ، کلونجی، مہندی، زنجبیل، نعناع۔ سب کو باریک کوفتہ بنختہ کر کے شہد و سرکہ میں گوندھ لیں اور تھوڑا تھوڑا کام میں لادیں۔

## باب ۱۵ حیات رنجاروں کے علاج میں

یاد رہے کہ حیات کے بہت سے اقسام ہیں مگر ہم ان میں سے اٹکا ذکر کرتے ہیں جو کثیر النقطہ میں یہ باعتبار اخلاط اربعہ چار قسم ہیں۔ اول حمے الغب یعنی جو ایک دن رہے اور ایک دن انرجاوسے اس کا سبب خلط صفراوی ہوتا ہے۔ علاج عرق نعیموں میں کھانڈیا مصری ملا کر تین روز تک پیئیں اور غذا گندم کی روٹی اور چوزہ کا شوربہ ہونا چاہیے اگر تین دن تک آرام ہو جاوے تو فہا ورنہ مہل صفرا دینا چاہیے اس کے بعد پھر دوا سابق استعمال کریں۔ دوسرا وہ بخار جو ہر روز آوے۔ اس کا سبب خلط دموی کی کثرت ہوتی ہے علاج یہ ہے کہ ہر روز مہر کا استعمال کریں تین روز تک ایسا ہی کریں اگر فائدہ نہ ہو تو پچھنے لگو او سے انشاء اللہ اچھا ہو جاوے گا۔ تیسوی قسم حمے مطبقہ ہے اس میں ظاہر بدن قلیل الحرات معلوم ہوتا ہے۔ اور اندر سخت حرارت محسوس ہوتی ہے یہ حالت سات دن تک رہتی ہے۔ اس کے بعد تمام بدن ظاہر و باطن آگ کی طرح بھڑک اٹھتا ہے جس سے دماغ میں بھی سخت حرارت سرایت کر جاتی ہے اور عقل میں فتور آ جاتا ہے اور سر سام و ہڈیاں کھٹک نک نوبت پہنچ جاتی ہے پھر سخت پسینہ آتا ہے۔ جس کا انجام یا سلامتی ہوتی ہے یا موت اور سب رنجاروں سے خطرناک ہوتا ہے۔ علاج ابتدا میں ہر روز سرکہ و شہد سے قے کرنی چاہیے اور جوار کے شوربہ کے ساتھ کھایا کریں۔ قسم چوتھی حمے رنج ہے۔ جو دو روز اترا رہتا ہے اور ایک روز آ جاتا ہے۔ اور تھوڑی حرارت سے شروع ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ حرارت بڑھتی جاتی ہے اور بدن میں سوکے کی چوب کی طرح چوب پڑتی ہے۔ پھر پسینہ آتا ہے۔ یہ بخار اگر چہ جلدی چھپا نہیں چھوڑتا مگر باقی رنجاروں سے کم خطرناک ہے اس کا سبب خلط سوداوی کی زیادتی ہوتی ہے۔

علاج یہ ہے کہ روغن زرد تازہ اور شہد خالص میں دودھ ملا کر استعمال کریں جب بخار شروع ہو تو گرم پانی پیئیں اور بخار کی حالت میں بار بار گرم پانی پیئیں کہ اس تدریج سے بخار جلدی منقطع ہو جاتا ہے۔ حمی ناقض الرزہ کا بخار کا علاج اس حالت میں انسان کے دل میں سخت سردی عارض ہوتی ہے جس سے اس کا سارا بدن کانپتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس پر بہت موٹے کپڑے ڈالے جائیں اور کئی آدمی اس کے اوپر لیٹ جائیں تو سب اس کی سردی سے ہلتے ہیں اس کے بعد حرارت کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ پھر پسینہ آنا شروع ہوتا ہے۔ پھر تسکین ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہر روز آتا ہے اس کا سبب خلط دموی اور خلط بلغمی کا معتاد سے زیادہ ہونا ہے۔ علاج ہر روز شہد و سر کے سے تھے کرائیں پھر تھے کے بعد شرب عسلی جس کی ترکیب باب (۱۰) میں آچکی ہے۔ استعمال کریں غذا پاکیزہ گندم کی روٹی و دنبہ کا شوربہ ہونا چاہیے کہ نہایت مفید و مجرب ہے ایضاً آیت ذیل کو کسی برتن میں لکھیں اور سرد پانی سے دھو کر مرضی کو پلائیں اور اس کی پشت و چہرہ پر چھینٹے ماریں یہ آیت ہے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحَسَنَىٰ أَلَىٰ قَوْلِ اللَّهِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔

## باب ۶ طوارق حیات (بخاروں) کے حملے کے علاج میں

اگر بخار صبح کے وقت حملہ کرے تو یہ تار یہ ہے اس کے موکل کو بلانا چاہیے اس کے بلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسماء ذیل پڑھ کر دم کریں میامتہ۔ کنانتہ۔ برغانتہ۔ مملیکہ۔ تسکفنتہ۔ قوکانہ۔ قدیر۔ اگر طلوع آفتاب کے وقت حملہ کرے تو یہ شمیمہ ہے۔ اس کے فرشتے کو بلا دیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ اسماء ذیل پڑھ کر دم کریں وحیل و حمیل و دفھاہل و عزرائیل و حرفیل و تایل و طایل و مفھایل۔ و کمکایل و روقبایل اللہ کبیر المتعال۔ اگر چاشت کے وقت حملہ کرے تو تراہیمہ ہے تو یعقوب ترابی کو بلانا چاہیے۔ یعنی اسماء ذیل کو پڑھ کر دم کریں۔ تبطیخ و جوہر کشف توہر شاہیل فیقو فوق البھیب جبار جبار اگر زوال کے وقت حملہ کرے تو وہ مائیمہ ہے اس کے فرشتے اسحاق کو بلانا چاہیے اسماء ذیل پڑھنے چاہئیں بطمشامش مشنیر ایدمشہ لہوق حججہ ہکل مکوکتہ باطش طوطش۔

اگر ظہر کے وقت حملہ کرے تو وہ غما میر ہے۔ پس میوم غمام کو بلانا چاہیے اور یہ پڑا فرشتہ  
 ہے اس کے بلانے کے واسطے یہ الفاظ پڑھیں بَشْطَط . مَرشَرہ جَشَجَش ہُو  
 بِالش لِيَطِيحُ سَكِينَةً إِنَّ اللَّهَ فَالِقَ الْغَيْبِ وَالنَّوِي . یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو  
 پھاڑتا ہے۔ اگر عصر کے وقت حملہ کرے تو اسما و ذیل لکھ کر لٹکانے چاہیے۔ اَقْسَمْتُ  
 عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الرُّوْحُ وَالْأَرْيَاحُ بِاسْمَاءِ اللَّهِ وَأَطْرِدُكُمْ بِرُوحِ اللَّهِ وَأَزْجُرُكُمْ بِقُدْرَةِ  
 اللَّهِ وَبِمَا جَوِي بِهِ الْقَلَمُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَى خَيْرٍ خَلَقَ اللَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَزِلُوا وَأَخَذُوا عِقَابَ اللَّهِ الَّذِي لَكُمْ مِنْ نَفْسِي وَنُورِ  
 لَا يُصْفَى وَعَرْشٍ لَا يُزْفَلُ وَكُرْسِيِّ لَا يَتَحَرَّكُ فَإِنِّي أَطْرِدُكُمْ وَأَزْجُرُكُمْ عَنْ  
 حَامِلِ كِتَابِي هَذَا وَكُلِّ مَنْ عَلَقَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ بِكِتَابِ اللَّهِ الْمَكْنُونِ الَّذِي  
 لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ حِكْمِهِ حَمِيدٍ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُوكَةُ  
 يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أَلَا تَرَى كَيْدَ الْأَبْصَارِ وَهُوَ اللَّطِيفُ  
 الْخَبِيرُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَا مَعْشَرَ الْأَرْوَاحِ  
 وَالْأَرْيَاحِ وَأَطْرِدُكُمْ بِاسْمَاءِ اللَّهِ مِنْ ذَلَّتْ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ لِجَبْرُوتِيَّةٍ وَتَدَاكُنَّ  
 الْجِبَالُ مِنْ بَهَاءِ نُورِهِ وَسَاحَتِ الْأَرْضُ زَجْرًا مِنْ سَخَطِهِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ  
 الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا بِهِ تُؤْمِنُونَ وَيَا أَيُّهَا اللَّهُ تَشْهَدُونَ أَمْ حَظَرَكَ  
 عَذَابُ اللَّهِ وَسَطَرَهُ مَلَكُوتِهِ أَنْ تَقُولَ قَوْلًا قَرِيبَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ  
 مَا أَنْتُمْ تُنطِقُونَ وَتَكْتَبُ أَوْلِيَا سَا لِي صَمِيحًا حَمِيدًا لِمَا لَمْ يَجِمْ خَاخِيمُ  
 رَحِيمٌ وَاجِيمٌ لَوْ خَا حَمِيدٌ لِيَا هِيمٌ بِلِيَا هِدْ شَوْخِيَا لِيَا كَا زِمٌ مَكَارِمٌ لِيَا هَجْ  
 مَحَطَطَا مَمْ شَوْخِيَا مَ اسِيَارِمٌ مَلَشَكْرِمَا بُو دَاخِيمٌ زَجِيَا شِيمٌ فَجَا يِمٌ  
 اشَوْطٌ مَشَارَا بَشَهَاتِمٌ سَبَا طَمْ لِسِيَا طَمْ هُو بَا طَمْ ثَا مَرْبٌ جَبْرِيَلٌ وَمِيكَائِيلٌ صَعَا حَا  
 بَلَحَثُوا بِلَا حَا بُو مَالِ خِرَا شِيَا لَخِرْ حَطْ حَطْ يَخِيوُطُ بِشَرِيَطٍ مَشْهَبَا بَطَا شَا  
 طَا شَا شَيْشٌ بِشَرِطٍ عَلْنَا ثَمْ مَسْلِيَا سَبْمٌ هُوَا هِيمٌ اِحَارِيْمٌ مَلِكِيوُشٌ مَلِكِيوُشٌ  
 زَفَعَنُوشٌ قَالَ اِخْرَجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِلَى الصَّاعِرِينَ بِالطَّوَّاسِيمِ وَالنَّوَامِيْمِ بِالطُّورِ



كِتَابٍ قَسُطُورٍ فِي رَقِي هَشْوَرٍ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ  
 كَانَ زَهُوقًا فَانْعَزِلْ أَيُّهَا الْحَمِيُّ وَالْمَرَضُ وَالْعَارِضُ بِحَقِّ الَّذِي أَظْلَمَ اللَّيْلَ وَأَمْسَاءَ  
 السَّمَاءِ وَخَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِوَجْهِهِ لِأَخْرَجِكُمْ وَلَا تُحْرِقَكُمْ وَلَا تُحْرِقَنَّكُمْ حَيْثُمَا فَالَيْسَ  
 لَكُمْ إِلَهٌ إِلَّا سُبْحَانَ اللَّهِ بَكَرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُمَّ اشْفِ حَامِلَ كِتَابِي هَذَا وَأَحْرِسْهُ مِنْ  
 جَمِيعِ الْأَرْيَاحِ وَالْأَرْوَاحِ مِمَّنْ يُرِيدُ ضَرْبًا وَإِثْمًا مِمَّا أَجَاءَ بِالَّذِي تَجَلَّى لِلْجَبَلِ  
 الْعَظِيمِ فَخَرَّمُوسَى الْكَلِيمَ اعْتَزِلْ أَيُّهَا الرِّيحُ الْمُعْتَدِي فَلَيْسَ لَكَ مَقِيلٌ يَا سَيِّدَ  
 مَسْمِيَا بَرِيَا كَلِيَا وَلِ يَا رَحْمِيَا يَلِ يَا عَمِيَا يَلِ صَوِّهَا لِرَسُوْبَهَا مِنْ غَيْرِ سَاسٍ بِبِهَاسٍ  
 لِيَا سِيرِ سَنِيْرَ سَهْتَسِنَ كَلِيْثَرُ مَعْتَبِرٍ بِرِ مَا سِيرَ وَلَكُو الرُّبَلِ مِمَّا تَقِفُونَ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ  
 تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ شَاهَا شَهْرُ شَاهِ أَشَاهَتْ وَجُوهَكُمْ وَأَفْتَرَقَ جَمْعَكُمْ بِهَشْوَمَ قِيْشْوَمَ لِيْشْوَمَ مَشْهُوْمَ  
 خَلْخَشْرَمَ مَلْحَثْوَمَ | بَدَهْوَمَ شِيْهُوْمَ بِهْوَمَ كَلْمَا بِهْوَمَ نُوْرُوْبَهُ تَسْتَظْهَرُونَ أَهْبَطَا هِبَطَ  
 بِالَّذِي يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْعَيْبِ إِلَى قَوْلِهِ يُخْرِجُونَ أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَهِيَا  
 لَا تُرْجَعُونَ لَفْظًا لَكْرِيْمٌ يَا مَعْتَرِ الْمُعْتَرِضِينَ لِذِيْنِ أَدْمَ مَكْرَكُمْ مُنْقَطِعٌ وَشَرَكُكُمْ مُنْدَفِعٌ  
 يَا سَمَاءَ اللَّهِ الْعِظَامِ الَّتِي لَا نَقْصَامَ لَهَا سَاهَا هَامِلْسَاهَا | سَاسَا مَبِيَا سَاجِيْجِيَا سِيَا لُوْهِيَا  
 اْمُهْبِنَا اْسَاسِيْرَا طَا لُوْ اِهْبَطَا لُ وَاشْبَعَا كِيْتَهَوَاشِ ارْطُوْشِ حَلِيْجُوْشِ جِيَارِ اِيْمَا تَكُوْنُوْا  
 يَا تَلُوْ اللَّهُ جَمِيْعًا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَبِحَقِّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَكَلَّمُ بِهَا الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ  
 صَاحِبُ كُوْسِي الْحَدِيْدِ وَالْبَاسِ الشَّدِيْدِ عِنْدَ بَابِ الْهَيْكَلِ الْكَبِيْرِ يَا بَيْلِ الْاِمَامَا اجْبِتُمْ وَعُوْتِي وَأَطَعْتُمْ  
 اْمُرِّي بِحَقِّ النُّوْرِ وَالْاِيْمَانِ وَالنُّوْرِ وَالزُّبُوْرِ وَالْفَرْقَانِ الْعَظِيْمِ وَبِحَقِّ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ  
 وَبِحَقِّ اللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ اِذَا اسْتَوَى لَتُرَكَّبْنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ  
 فَتَخَطَفَهُ الطُّيْرُ وَتَهَوَّى بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَعِيْقٍ وَبِحَقِّ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَلَا

لہ اسے ہوا و در و جو میں تم کو اٹھ کے ناموں کے ساتھ قسم دیتا ہوں اور اللہ کی وجہ کے نور کے ساتھ ہا نکتا ہوں  
 اور اسکی قدرت کے ساتھ چھڑکتا ہوں اور اس چیز کے ساتھ کہ جس پر قلم جاری ہو چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 تک تم ہٹ جاؤ اور اس خدا کے غضب سے ڈر جاؤ جس کا نام کبھی نہیں بھوتتا اور نور نہیں کھپتا رہا تو صفحہ آئندہ

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

اگر عصر اور عشاء کے درمیان حملہ کرتا ہے تو یہ صحابہ سے ہے پس میمون صحابی کو بلا ناچیسے جس کی ترکیب

(بقیہ جاشیہ صفحہ گذشتہ) اور عرش نہیں نازل ہوتا اور کرسی حرکت نہیں کرتی تحقیق میں تم کو دو کرتا ہوں اپنی اس تحریر کے اٹھانے والے سے اور ہر اس شخص سے جو کہ ان اسماء کو باندھے اللہ کی اس چھپی ہوئی کتاب کی برکت سے جسے پاکوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ حکیم و حمید رب کی طرف سے آری ہے۔ اپنے علم کے ساتھ اس نے اسکو اتارا ہے اور فرشتے گواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے اسکو آنکھیں نہیں پاسکتیں اور وہ انکو دیکھتا ہے اور وہ باریک بینی خیر دار ہے وہ اول آخر ظاہر باطن اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسے روجوں اور سواؤں کے گروہ میں تم کو ان ناموں کے ساتھ دفعہ کرتا ہوں جن کے آگے جاہ و جلال والوں کی گردنیں ذلیل ہوئیں اور اس کے نور کی وجہ سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور حرکت میں آگئی زمین اس کے خون کی وجہ سے اور جھک گئے چہرے زندہ اور قائم خدا کے آگے تحقیق برابر ہوا جس نے ظلم اٹھایا کیا تم اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہو اور کیا تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمسخر کرتے ہو کیا تم اللہ کے عذاب کی دہشت اور اسکے فرشتوں کی ہیبت کو جھوٹا خیال کرتے ہو پس آسمانوں اور زمینوں کے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے جس طرح کہ تم بولتے ہو طور اور کھلے دفتر لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے اور دریائے شور کی اور کہہ سے سچائی آئی اور جھوٹ دفع ہو گیا کیوں جھوٹ راندی ہوئی چیز ہے پس جا تا رہا سے بخار اور مرض و عارضے اس ذات کے حق کی وجہ سے جس نے رات کو اندھیری کیا اور دن کو روشن اور سورج و چاند بنائے اس کی وجہ سے میں تم کو ضرور نکال ڈالوں گا اور یقیناً جلد دوں گا اور سچے دفعہ کر دوں گا کھینچ کر پس تم کو ہماری طرف کوئی راستہ نہیں اور صبح و شام خدا کی پاکی بیان کرواے اللہ میری اس تحریر کے اٹھانے والے کو شفا دے اور سب قسم کی بری روجوں اور سواؤں سے جو کہ اسے تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہوں نگاہ رکھ اور اس کو کل خوفناک اشیاء سے امن میں رکھ اس ذات کی برکت سے جس نے پہاڑ پر تھلی کی اور موسیٰ کلیم اللہ بیوٹس ہو کر گر گیا۔ پس اسے زبانی کرنے والے مواد تو دور ہو جا تیرے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں اترا اس ذات کی وجہ سے جو کہ زندہ کو مرد سے پیدا کرتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تم کو یونہی پیدا کیا ہے۔ اور تم ہماری طرف کبھی نہیں لوٹو گے۔ اسے نبی آدم کے درپے ہونے والے گروہ تمہارا فریب ٹوٹ چکا تمہارا شر دور ہو گیا ان عظیم الشان ناموں کی برکت سے جو ٹوٹ نہیں سکتے تم جہاں کہیں بھی ہو گے خدا تم کو لے آئے گا۔ مشرق و مغرب کے ان کلمات کی برکت سے جن کے ساتھ لوہے کی کرسی والے بزرگ نے کلام کی میری پکار کا جواب دو میرے حکم کی اطاعت کرو۔ نور۔ ایمان۔ تورات۔ انجیل۔ زبور۔ قرآن۔ جنت۔ دوزخ کے حق سے اور رات

یہ ہے کہ اسما ذیل پڑھ کر دم کر کے بشر شدت علوش برار یخ دبرانہ سُجَّان من علی العرش  
استوی ... یعنی پاک ہے وہ ذات جو عرش پر مستوی ہے اگر عشاء کے وقت حملہ کرے تو  
جان لو کہ قبروں کے فرشتے سرِ علی کے گروہ سے ہے اس لیے سرِ علی کو بلانا چاہیے یعنی اسما  
ذیل پڑھنے چاہیں مند مکتہ کنانہ فرعنہ ید فوکیہ کر میہ کبیر کبیر اور اگر عشاء کے بعد  
حملہ کرتا ہو تو ملک عشاء کو بلاؤ یعنی اسما ذیل پڑھو شد و شدتات طریا طیور بلنمس  
سید بطل بادنز و امفر قدوس اور رات کی چوتھائی حصہ میں حملہ کرے تو یہ یور یہ ہے  
فرشتہ غورا کو اسما ذیل سے بلانا چاہیے اھیانثراہیا ادونای اصاوت ال شد ای احشا  
قریشا الھیما یا جبار اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن ... اور اگر تہائی رات میں حملہ کرے  
تو جان لو دم سے ہے پس اس کے واسطے اسما ذیل پڑھیں نیولوشم حیطوش استمکیس  
الطیموس ایر مض ادرشش ہوہذہ انفر و اخفاننا وثقانا۔ اور اگر آدمی رات کو حملہ کرے  
تو جان لو کہ نصارا سے ہے اس کو اسما ذیل سے دفع کرو۔ اقسیم علیکم بالونجیل  
الذی انزل علی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلینہ یا محمد یا عمر فعضوا و حنوا ملیما  
اشجعا الا یدکر اللہ تطمین القلوب۔ اور اگر دو تہائی رات کو حملہ کرے تو جان لو کہ یہ  
مسلمانوں کا گروہ ہے ان کو ان اسما سے دفع کرے ۲۵۱ و ۲۵۲ شمور ہور ۲ حجاد براد حجوش  
کشوش فلوش اطردوا الحمی عجلوا بعذۃ من لم ید و لکم یولد و لکم یکن لہ  
کفوا احد اور اگر حملہ کرے اخیر ثلث رات میں تو جان لو کہ وہ ترکیہ ہے اور یہ اس کے نام ہیں  
تعامرش ۲ نوش ۲ تونز ۲ مرمر ۲ ملیوش کلیوش لش برنوش حتجیم ۲۔ ارقع بقدرۃ اللہ  
الذی لا الہ الا هو اور اگر حملہ کرے وقت چڑھنے صبح کے جان لو کہ وہ ولیم ہے اور ان ناموں

رہا باقی حاشیہ اور اس چیز کے حق سے جس پر اس نے اندھیرا کیا۔ اور چاند سے جب کامل ہو جائے تم طہن بعد طبق  
سوار ہو گئے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو مانجھی بنائے گا گویا وہ آسمان سے گرا اور زبرد سے اسے اچک کر لے  
گئے یا ہوا سے دور مکان میں اڑائے گئی اور ذات پاک کی برکت سے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ  
عرش عظیم کرب ہے اور نہ طاقت نیکی کی نہ بچاؤ گناہ سے مگر اللہ علی اور عظیم کی برکت سے

سے دم کرنا چاہیے طوملیغہ طلبیا فتح ہیما ہیما کحفا کحفا فرعون و ہامان و  
قارون فی النار اہد بجمہ اللہ۔

## باب ۱۱۷ حرارت غریبہ کے بچھانے میں جو حالت مرض میں بھڑک اٹھتی ہے

حرارت زائدہ کا علاج۔ تیز سرکہ۔ انگور ترش۔ مہندی۔ افیون سب کو پانی میں پیس کر گرمی  
والا اپنے سر سے پاؤں تک طلا کرے۔ اگر کسی کو پسینہ زیادہ آتا ہو اور وہ اسے کم کرنا چاہے  
تو اسے چاہیے کہ مازو اور سفیدے کا شغری کو روغن گل میں پیس کر بدن پر طلا کرے اور  
جس کو پسینہ نہ آتا ہو اور پسینہ زیادہ چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ چند بیدستر کو روغن زیتون  
میں پیس کر بدن پر طلا کریں خوب پسینہ آوے گا۔

## باب ۱۱۸ عطش منفرط یعنی سجد پیاس اور معدہ کی سوزش کے بچھانے

### کے علاج

ماہ الشعیر میں شکر تری ملا کر پیاس کو بچھاتا ہے ترش دی بھی پیاس کو فرد کرتی ہے  
لعاب ایس بقول د عرق گلاب بھی پیاس کو بچھاتا ہے۔ تر ہندی رز رشک شیر میں گل بنفشہ  
صمغ عربی کا خیسامہ بنا کر پیاس بھی دافع العطش ہے بھڑیا کا پتا و کثیرا پیس کر تازہ دودھ میں پکا  
کر پیاس کو دور کرتا ہے۔ کوئے کا پتہ سرکہ میں حل کر کے پینے سے ایک مہینہ بھر پیاس  
نہیں لگتی۔

## باب ۱۱۹ بھوک و پیاس کے علاج میں

اونٹ کا جگر خشک کیا ہو اور نمک طعام و آرد گندم ہر ایک مساوی شہد میں مچھون بنا کر  
کھانے سے چالیس روز تک بھوک پیاس نہیں لگتی۔ ایضاً آرد گندم میں مساوی نمک طعام ملا کر  
پکائی اور اس پر اونٹ کا خشک کیا ہو جگر ڈال کر سب کو پکاو میں پھراس کی بقدر ضرورت  
گولیاں بناویں اور ایک گولی بھوک کے وقت کھاویں کھانے سے بے پرواہ کر دے گی

اور دل کو طاقت دے گی بیل کی زبان شہد میں ملا کر کھالے سے بھی یہی مطلب نکلتا ہے۔

## باب ۱۲ بخار کا علاج بذریعہ ادویہ و تعویذات کے

زیتون رازنڈا کے تین پتے لے کر پہلے پر لفظ عَصْت جَہَنَّمَ دوسرے پر تَعَرَّتْ جَہَنَّمَ تیسرے پر عَطَشَتْ جَہَنَّمَ لکھ کر یکے بعد دیگرے دہونی دیں اور یہ کلمات و تعویذات لکھ کر بخار والے کی گردن میں لٹکائے جاویں قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اَسْ وَاللّٰهُ تِنِ دَفَعَهُ اللهُ الصَّمَدُ اَسْ وَاللّٰهُ تِنِ دَفَعَهُ كَفَرِيْدٌ لَّا وَاللّٰهُ تِنِ دَفَعَهُ وَلَوْ يَكُنْ لَّذِكُفُوًا اَحَدٌ لَّا وَاللّٰهُ۔ اتنا لکھنے کے بعد یہ تین تعویذ بھی نیچے والے لکھیں۔

و ل ا ح و ل	م	م	م
م و ل	م	م	م
م و ل	م	م	م
م و ل	م	م	م


ا	ل	ل	ا
ا	ل	ل	ا
ل	ا	ا	ل
ل	ا	ا	ل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	ح	ح	ح
ح ح ح	ح	ح	ح
ح ح ح	ح	ح	ح
ح ح ح	ح	ح	ح

نیز بخار کے لیے کنیر کے تین پتے لے کر ایک میں جیور دوسرے میں کیور تیسرے میں خور اور تینوں میں یہ کلمات ہی لکھیں اِذْهَبِ الْعُمَىٰ بِاِذْنِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ یعنی اسے بخار اللہ کے حکم سے چلا جا رہا ہے بخار شروع ہونے لگے تو پہلے اور دوسرے سے یکے بعد دیگرے دہونی دیں اور تیسرے کو مرض کی گردن میں لٹکادیں تیسرے پیاز کی تین طرفوں میں ایک طرف جہنم عجاہد دوسری طرف جہنم مقباصہ تیسری طرف جہنم مظلمہ سوداء النار لکھ کر آگ میں ڈال دیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین بخار سے بیمار ہو گئے اور مجھے غم پیدا ہوا جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آگ کہا کہ ایک پیالہ پانی کا بھر کر اس پر سورہ فاتحہ جس میں کہ (ت) کا لفظ نہیں ہے پڑھ کر دم کریں اور اس پانی سے ان کے

لے تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، ہاں قسم اللہ کی اللہ بے نیاز ہے سچ ہے اللہ کی قسم اس نے کسی کو نہیں جناہرگز نہیں اللہ کی قسم اور نہ کسی سے جناہر مطلق نہیں اللہ کی قسم اور نہ کوئی اس کا شریک ہے بالکل نہیں اللہ کی قسم ۱۲ منہ

ہاتھ پاؤں سر اور کل گوشت پوست کو کئی بار دھو ڈالیں۔ پس آپ نے ایسا ہی کیا اور شفا ہو گئی  
 ایک حدیث میں روایت ہے کہ غسل دیتے وقت زبان سے یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا  
 فَعَلْتُ ذٰلِكَ تَصَدِّيقًا بِرِسْوَلِكَ وَاِرَادَةَ شِفَاؤِكَ بِسْمِ اللّٰهِ اِذْ هَبِيْ بِاُمَّةٍ نِيْرَتِيْنَ  
 ٹکڑوں پر یہ کلمات لکھ کر ہر روز ایک ٹکڑے سے دھونی دیں پہلے پیرانا اعطيتك الْكُوْتُرَةَ الْاَنْ  
 حَقَّقَ اللّٰهُ عَنْكَ دَوْمَرَے بِرَفْضِ لِيْرَبِّكَ وَاَنْحَرَا الْاَنْ حَقَّقَ اللّٰهُ عَنْكَ تِيْرَبِّے بِرِ  
 پَرَا اَنْ شَانِيْكَ هُوَا الْاَبْتَدَا الْاَنْ حَقَّقَ اللّٰهُ عَنْكَ نِيْرَتِيْ كَسِيْ پَاك كِيْرے پَرِيْذُوْر ذِيْلِ اَيَاتِ  
 لکھ کر مرغی کی ہڈی پر لپیٹ کر آگ میں ڈال دیں جب وہ جل جائے تو اس کے جلے ہوئے چھلکے



بیکر ایک پاک کپڑے میں باندھ کر مریض کے ہاتھ پر  
 باندھ دیں نیر زیتون کے اکیس تپوں پر یہ کلمات  
 لکھ کر ہر روز سات سات سے دھونی دیں اَشْفَوْتِ  
 الشَّمْسُ بِوَرْدِ الشَّمْسِ سُبْحَانَ مَنْ اَشْرَقَتْ  
 بِوَرْدِ الشَّمْسِ یعنی چمک گیا سورج اللہ کے نور سے

پاک ہے وہ قات جس کے نور سے سورج چمک اٹھا نیر بنی اور سب قسم کی تکلیفوں کے لیے مفید ہے  
 ایک پاک برتن میں خاتم مثلث جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے اور اس کے گرد اگر یہ کلمات لکھیں اِنَّ  
 الَّذِيْنَ سَبَقَتْ مِنْ اَلْحَسَنِيْ اَوْلِيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ قُلْنَا يَا تَارُوْتِيْ تَبْرَدَا وَاَوْ سَلَامًا عَلٰى  
 اِبْرَاهِيْمَ اور ان کلمات کو بارش کے پانی یا عرق گلاب سے دھو کر مریض کو پلاویں نیر یہ کلمات  
 تین کاغذوں پر لکھ کر ان سے دھونی دی جائے اور ہر دھونی کے ساتھ سات سات دفعہ زبان  
 سے بھی یہ کلمات پڑھتے جائیں اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اُجِبُ وَاَحَادِرُ اَذْهَبِ  
 اَلْبَاسُ رَبِّ النَّاسِ وَاَشْفِ اَنْتَ الشّٰفِيْ لَا شِفَاةَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاؤُ رُوْتِيْنَا دُرْسَقْمَا۔

۱۷ اسے اللہ خبر میں نیت میں نے ایسا محض نیر سے رسول کی تصدیق اور تیری شفا حاصل کرنے کو کیا ہے اسے ام سلمہ  
 اللہ کے نام کی برکت سے چلا جائے ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے پس رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی دے تحقیق تو نیر یہ اولاد نہ  
 رکھنے والا رہے گا اب خدا نے تم سے تحقیق کر دی ہے ۱۲ جن نے لوگوں پر ہماری طرف سے نیکی سبقت لے  
 گئی وہ دوزخ سے بچے رہیں گے ہم نے کہا اسے آگ ابراہیم کے لیے سرد اور سلامتی والی ہو جاوے ۱۲

یعنی میں اللہ کی ذات اور قدرت کے ساتھ سب قسم کی تکلیف اور بدیوں سے پناہ چاہتا ہوں اے لوگوں کے رب مصیبت کو دور کر دے اور شفا دے تو ہی شفا دہندہ ہے شفا تیری ہی طرف سے ہے۔ ایسی شفا عطا کر کہ مرض باقی نہ رہے نیز بھڑیے کے بالوں کی دھونی بخار کو مفید ہے نیز عنکبوت ٹڈی کی دھونی بھی مفید ہے نیز تین کھجوروں پر حسب ذیل کلمات لکھ کر گودا مریض کو کھلا دیا اور جو کھجور مریض کھاتا رہے اس کی گٹھلی سے دھونی دیں اور ہر روز ایک کھجور کھلائی جائے پہلی پر لکھے بِسْمِ اللّٰهِ تَارَتْ دَوْمِرِي بِرِسْمِ اللّٰهِ حَوْلَ الْعَرْشِ دَارَتْ اَوْ تَمِيرِي بِرِسْمِ اللّٰهِ فِي عِلْوِ اللّٰهِ عَارَتْ نِيْزِ كَلِمَاتِ ذِيْلِ اَبِكِ فَرَاخِ بَرْتِنِ مِيْنِ لِكْهْ كَرِ بَانِيْ سِيْ كَهْلِ كَرِ مَرِيضِ كُوْ پِلَاوِيْنَ لَا يَدْرُوْنَ فِيْهَا سَمْسَا وَلَا زَمْهَدِيْنَ يَا عَفَا رَبَّاسَا يَا حَمْدِ اللّٰهِ يَعْنِيْ بَهْتِ مِيْنِ لُوْكَ نِيْ سُوْرَجِ دِيْكْهِيْنَ كِيْ نِيْ مِهْلِكِ مَرْدِيْ اِنِّيْ نَحْتَشِشُ كَرْنِيْ دَا لِيْ عِيُوْبِ بِرِ پَرُوْهْ دَا لِنِيْ دَا لِيْ اللّٰهِ تَعَالٰی كِيْ تَعْرِيفِ كِيْ سَا تَهْ نِيْزِيْ تَدْمِيْرِيْ جِيْ اِيْسِيْ هِيْ جِيْنِ كُوْ كِيْمِ لُوْكَ جَانْتِيْ هُوْنِ كِيْ اُوْر مَجْهِيْ اِيْكَ بَزْرِكِ كِيْ ہَاتْھِ سِيْ لِكْھَا ہُوْ اِلَا تَهَا ہُوْ ہِيْ ہے كَرِ مَرِيضِ بِنَارِ كِيْ پِيْھِ پَرَا ذَانِ وَا قَامَتْ لِكْھُوْ دِيْ قِيْ الْفُوْرَا جِھَا ہُوْ جَابِيْ كَا اِيْضَا مَرِيضِ بِنَارِ كُوْ اَسْمَا ذِيْلِ لِكْھُوْ كَرِ دِيْ كَرِ اِيْنِيْ پَسِ رَكْھِيْ اِزَالِہِ بِنَارِ كِيْ لِيْے جَرِبِ ہِيْ اَسْمَا ہِيْ مِيْنِ اللّٰهِ اَرْحَمِ الْجَدِي الرَّفِيْقِيْ وَ عَظْمِي الدَّقِيْقِيْ مِنْ شِدَّةِ الطَّرِيْقِيْ اِلَى اُمِّ مَلَكَمِ اَنْ كُنْتُ اَمْنِيْ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ فَلَا تُؤْذِي الرَّاسَ وَلَا تُفْسِدِي الْفَمَّ وَلَا تَاْكُلِيْ وَلَا تُشْرِبِي الدَّمَّ وَ تَحْوِيْ عَنِّ حَامِلِيْ هَذَا الْكِتَابِ اِلَى مَنْ جَعَلَ مَعَهُ اللّٰهُ اِلَهَا اَحَدًا وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَلِيْمًا۔ اِيْضَا اَسْمَا ذِيْلِ كِيْ كَا غِذِيْرِ لِكْھُوْ كَرِ بِنَارِ دَا لِيْ كِيْ كَلِيْ مِيْنِ لُكَاوِيْنَ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِبْرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ اِلَى فُلَاٰنِ بِنِ

لہ ترجمہ اے اللہ رحم کر میرے پتلے چڑے پر اور باریک ہڈیوں پر اس جلنے کی سختی سے اے ام لدم اگر تو اللہ عظیم پر ایمان رکھتی ہے پس سر کو انداز نہ دے اور چہرے کو خراب نہ کر اور گوشت نہ کھا اور خون نہ پی اور میری اس تحریر کو اٹھانے والے سے ایسے شخص کی طرف چلی جا جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہو اور رحمت نازل کرے اللہ اپنے رسول محمد پر اور اس کی اولاد پر سلام بہت ۱۲۰ لہ ترجمہ اللہ رحمن رحیم کے نام سے رخصت ہے عزیز و حکیم کی طرف سے ہر عارضہ سے اللہ کے اذن سے اے آگ سرد اور باسلامت ہو جا ابراہیم پر اور ہم اتار تے ہیں قرآن سے جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے یا اس شخص کی طرح جو کہ ایک اجڑی اپنی جھٹون گری سیسی یہ گرا۔ ۱۲۰

فَدَانَةٌ مِنْ كُلِّ مَا يَعْذُرُ لَهُ يَأْذِنُ اللَّهُ يَا نَارُ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ لَفْظِ آخِرِينَ  
تَكَ وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَيَّ قَرِيْبَهُ وَهِيَ  
خَاوِيَةٌ عَلَيَّ عُرُوشِهَا لَفْظٌ قَدِيْرٌ تَكَ۔

## باب ۱۲۱ حمی بارودہ کا علاج کتابت سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّا اَعْطٰیْنٰكَ الْکُوْثِرَ یَا شَانِیَ یَا اللّٰهُ اِیْکَ پَرِیْہِ مِیْنِ مَکْہِ دَوَّ  
پَرِیْہِ مِیْنِ سِیْمِ اللّٰهِ الرَّحِیْمِ فَصَلِّ لِیْرِیْکَ وَانْحَرِ یَا کَافِیَ یَا اللّٰهُ۔ تیسرے میں بِسْمِ اللّٰهِ  
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ شَانِیْکَ هُوَ الْاَبْتَرُ یَا مَعَا فِیْ یَا اللّٰهُ۔ ان کلمات کا ترجمہ پہلے باب میں گزر چکا  
ہے۔ پہلے کاغذ کو پانی میں گھول کر مریض کو بلائیں۔ اسی طرح دوسرے کو تیمل جیب کہ سخت بخار  
چڑھ جائے اسی طرح تین دفعہ کیا جائے۔ لیکن بیمار کو اس مکھے ہوئے مضمون پر مطلع نہ ہونا چاہیے۔

## باب ۱۲۲ حمی حادہ کے علاج میں

علیت یعنی ہینگ نصف درم ٹھنڈے پانی میں حل کریں اور نہار پی جاویں انشاء اللہ  
شفا ہو جاوے گی ایضاً ستمو نیا بقدر دو ماشہ عرق کلاب میں ملا کر پی لینے سے اسہال ہوں گے  
اور بخار تر جاوے گا ایضاً لہسن ایک ماشہ خوب باریک کر کے ایک اوقیہ روغن زیتون پر  
ملاویں اور نہار استعمال کریں انشاء اللہ تین دن کا استعمال سے بخار جاتا ہے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ رَلَّتْ بِسْمِ اللّٰهِ فَرَّتْ بِسْمِ اللّٰهِ مَرَّتْ بِسْمِ اللّٰهِ اَنْصَرَفَتْ بِسْمِ اللّٰهِ اَنْبَرَتْ  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ۔ یُخْرِجُ مِنْ بَطْنِهَا  
لَفْظِ النَّاسِ تَكَ الَّذِیْ خَلَقْتِیْ فَهَوَ یَهْدِیْنِ لَفْظِ شِفِیْنِ تَكَ قَدْ هُوَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا هُدٰی  
وَشِفَاءٌ اللّٰهُمَّ بَعْنِ هٰذِهِ الْاٰیٰتِ الْکَرِیْمٰتِ وَمَنْ نَزَلَتْ عَلٰی قَلْبِہِ اِنْ تَشِیْ حَامِلٌ هٰذَا  
اَلْکِتَابِ اَللّٰہِ کے نام کی برکت سے پیو پھر گئی اور بھاگ گئی اور گزر گئی۔ لوٹ گئی پیچھے ہٹ گئی باقی  
آیات کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے۔ اسے اٹھان بزرگ آیتوں کی برکت سے اور اس ذات کی برکت  
سے جس کے دل پر یہ نازل ہوئیں ان کلمات کے اٹھانے والے کو شفا مرحمت فرما ان کلمات کو مکھ



کر بانڈھا جاوے نیز تین بادام لے کر پہلے پر حشٹ دوسرے پر مسٹ تیسرے پر انقضت لکھ کر ہر روز ایک سے دھونی دیں صحیح اور محبوب ہے نیز کھجور کی تین گٹھل لے کر یہ کلمات لکھیں اور یکے بعد دیگرے ان سے دھونی دیں کلمات یہ ہیں کونا ۲ نونا ۳ احاجاع یا امد لا تا کل اللحم ولا تشرج الدم حافظ رازی علی بن یمان سے روایت ہے یہ تعویذ لکھ کر مریض کے سر کے نیچے رکھنے سے بخار جاتا رہتا ہے۔

۱۳	یا حی	۱۳
۱۳	وحسبنا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم	۱۳
۱۳	۱۳	۱۳

تیمی کا قول ہے کہ جو شخص تیرہ دفعہ صحت یا لکھے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قول عَلِمَانًا فَبَلَّغْهُ ضَعْفًا اضافہ کرے اور مریض کے سر پر لٹکا دیوے اور لکھنے کے وقت وضو کے ساتھ ہو تو انشاء اللہ حکم خلا بخار ٹوٹ جائے گا۔

ایضاً بیمار بنا کر مہندی یا کسی اور درخت کی لکڑی سے دائیں بازو پر لا الہ الا اللہ اور بائیں پر محمد رسول دائیں پنڈلی پر جبرئیل اور بائیں پر میکائیل دائیں پیلو پر اسرافیل بائیں پر عزرائیل لکھے انشاء اللہ شفا ہو جاوے گی صحیح اور محبوب ہے۔

## باب ۱۲ عشق اور محبت کے فراموش کرنے کے علاج ہیں

عشق کے یہ معنی ہیں کہ انسان کسی خوبصورت چیز کو نہایت پسند کرتا ہے مگر اس کو حاصل نہیں کر سکتا اس واسطے اس کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس سے ایک قسم کا جنون و حیرانی کثرت شوق کے باعث لاحق ہو جاتی ہے اور یہ حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ نصیحت و ملامت بھی کارگر نہیں ہوتی بلکہ ملامت کے بارود سے عشق کی آگ اور تیز ہوتی ہے سب سے افضل علاج تو مطلوب کا وصال ہے۔ اگر اصلی مطلوب و محبوب کا وصال نہ ہو سکے تو اس کی تصویر سے بھی تسکین ہو سکتی ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی دوسرے خوبصورت کی تصویر اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کی تعریف کی جاوے تاکہ اس کا دل اس کی طرف راغب و مائل ہو جاوے ورنہ خرید و فروخت وغیرہ سلسلہ تجارت میں جکڑا جاوے یا علم نحو۔ علم منطق، فلسفہ، علم ماحول وغیرہ

علوم ذہنیہ و دقیقہ کی طرف اس کی طبیعت مائل کی جاوے یہ سب تدابیر عشق کا خیال ترک کرنے میں بہت مفید ہیں۔ ایضاً جس کا دل کسی مرد یا عورت سے متعلق ہو جاوے اور وہ وصال پر قادر نہ ہو اور چاہیے کہ اس کا خیال دل سے محو ہو جاوے تو اسے چاہیے کہ حروف ذیل کسی پیالے یا ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھ کر نہا چھاٹ لیوے تین روز تک کرے اور ہر روز تین دفعہ کرے انشاء اللہ محبوب کا خیال اس کے دل سے محو ہو جائے گا۔ حروف یہ ہیں اب واں دل اور ساتھ آیات ذیل پڑھنا جائے اَیُّوْمَ نَسَاکُمْ کَمَا نَسِیْتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هٰذَا اَوْ نَسِیَ مَا قَدَّمْتُمْ بِدَاۤءِہٖ۔ وَلَقَدْ عٰہَدْنَا اِلٰی اٰدَمَ فَنَسِیَ وَکَانَ نَجِدَکَ عَرْمًا تَرۡجِمَہِمۡ نَسِیَ تَمَّ کُوۡفُرُ اٰمُوۡشِ کَرۡدِیَا ہِیَ جِیۡا کَمۡ تَمَّ ہِمۡ کُوۡ اَجۡ کَے دِنۡ لَمۡنَا بَہُوۡلۡ کُتَّہۡ۔ اور بھول گیا جو کچھ کہ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلے عہد کیا تھا۔ مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا گناہ کرنے کا ارادہ نہیں پایا ایضاً اسماء ذیل ہتھیلی پر لکھ کر چاٹے اسماء یہ ہیں یکموش۔ یکموش۔ ابھموش۔ ویکموش۔ اَللّٰهُمَّ کَمَا تَمَّحِیۡ ہٰذِہٗ اِلَّا سَمَلًاۤ اَمَّحِ مَحَبَّةً کَذٰ اَوۡ کَذٰ اَمِنۡ قَلۡبِ کَذٰ اَوۡ کَذٰ اِیضاً کورے پیالے یا کاغذ میں اسماء ذیل لکھ کر چاٹیں اسماء یہ ہیں سفون سفون اللہم بَرِّدۡ مَحَبَّةً فُلُوۡنِ اِبْنِ فُلُوۡنِ مِّنۡ قَلۡبِ فُلُوۡنِ بِنِ فُلُوۡنِ کَمَا بَرَّدَتۡ نَارَ النَّمۡرُوۡدِ عَلٰی سَیِّدِنَا اِبْرٰہِیۡمَ عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ وَمِثْلُ کَلِمَۃٍ خَبِیۡثَۃٍ کَشَجَرۃٍ خَبِیۡثَۃٍ اِجۡتَثَّ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مِنْ قَرَارٍ وَاہِ مَکِیۡنِ کَذٰ لَکَ لَا یُکُوۡنُ لِفُلَانٍ بِنْتُ فُلَانٍ نَّہۡ فِیۡ قَلۡبِ فُلُوۡنِ بِنِ فُلُوۡنَہٗ قَرَارٌ وَاہِ مَکِیۡنِ فُحۡشٌ یَّا فُحۡشٌ سِرَّہٗ لِفُلَانِ فُحۡشٌ عَنِ مَحَبَّةٍ کَذٰ اَوۡ کَذٰ۔ نیز جس شخص پر شہوات نفسانیہ غالب ہو جائیں یعنی کسی پر عاشق ہو جائے تو ایک پاک برتن میں خدا پاک کے وہ اسماء جس نے تحریر کئے جائیں جن میں لفظی آتا ہو جیسے عَلٰی عَظِیۡمٌ رَحِیۡمٌ۔ کَرِیۡمٌ عَلِیۡمٌ

۱۔ ترجمہ اسے اللہ جس طرح چاہئے سے یہ الفاظ سمجھ گئے ہیں اسی طرح تو میرے دل سے فلاں کی محبت مٹاؤں ۲۔ ترجمہ اسے اللہ فلاں بن فلاں کی محبت میرے دل سے ایسی سو کر دے جیسے تو نے نرود کی آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی کر دی میرے کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ضرب درخت ہو جو کہ زمین کے اوپر سے جلد اٹھ کر آئے اور اسے کوئی قرار نہیں ہوتا اسی طرح فلاں کو میرے دل میں کسی طرح کا قرار اور محبت نہ رہے۔

قَدِيئًا - وغیرہ سات روز تک صبح سویرے پیلے پیل پانی میں گھول کر پلائے جائیں نیز کلمات  
ذیل کفن کے ٹکڑے پر لکھ کر بکری کی سینگ میں رکھ کر موم سے بند کر دیں اور اس کو کسی پرانی  
قبر میں ہفتہ یعنی شنبہ کے روز سورج نکلنے وقت دباؤ میں کلمات یہ ہیں۔ بعفلجہ بطلطم  
سلسلہ وَقِيلَ الْيَوْمَ نُنَسِّئُكُمْ كَمَا نَسِئُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا كَذَلِكَ يَنْسِي كَذَا مِنْ كَذَا  
يُنْسِي مِنْكَ كَمَا يُنْسِي الْكُفَّارِ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ  
نَصِيرًا قَالَ أَتَنْكَ إِبْرَاهِيمَ فَلَنْسِيئَهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسِي كَذَلِكَ يُنْسِي x و x و x و x و x و x  
نیز ایک برتن میں جس میں کہیلے کھانا یا سالن وغیرہ نہ ڈالا گیا ہو یا نئے کاغذ میں کلمات ذیل لکھ  
کر مریض عشق کو کھلائے جائیں سقس ۳ سنس ۲ اللَّهُمَّ بَرِّدْ مَجْبَتَهُ x و x مِنْ قَلْبٍ كَمَا  
بَرَّدْتَ نَارَ الْمُؤُودِ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمِثْلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ إِلَى  
مِنْ قَرَارٍ وَلَا مَكِينٍ فِي x و x - ان کلمات کا ترجمہ پیلے گزر چکا ہے۔

## باب ۱۲۵ مر بو طار یعنی سست نامرد جسکی منی باندھی گئی ہو کا علاج ادویہ سے

ربط یعنی قوت رجولیت کے بند ہونے کی تین قسمیں ہیں ایک تو جان یعنی جنوں کی طرف سے  
دوسرے بنی آدم کے جادو کرنے سے تیسری یہ کہ طبعاً و اصالۃ نامرد ہو جو جنوں کی ہوا سے  
ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ مرد کی منی عورت کو لپٹنے سے پیلے ہی خارج ہو جاتی ہے  
علاج یہ ہے کہ تین انڈے لے کر ایک پر دَا السَّمَاءُ بَيْنَيْنَهَا بِأَيْدِيَنَا الْمُرْسَعُوتِ  
لکھے اور اس کو مرد کھا جاوے اور دوسرے میں وَالْأَرْضَ قَرَشْنَهَا فَغَمَّ الْمَاهِدُونَ لَكُمُ

لہ آج ہم تم کو ویسے ہی بھول گئے جیسے تم نے ہماری آج کے دل کی ملاقات کو فراموش کر رکھا تھا اسی  
طرح بھول جائے فلانہ فلاں عورت کو اور اس طرح وہ مایوس ہو جائے تجھ سے جیسے کافر قبروں والوں سے تا امید  
پھرتے ہیں وہ کہے گا اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں دیکھنا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے  
پاس میری آیات آئیں مگر تو نے ان کو فراموش کر دیا اسی طرح آج تو فراموش کر دیا گیا ہے ۱۲  
تہ اور آسمانوں کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور ہم فراموشی دینے والے ہیں ۱۲


اس کو عورت کھا جاوے اور تیرے میں <sup>شے</sup> دَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا نُوْحَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ  
 لکھے اور اس میں سے ادھا مرد کھا جاوے اور ادھا عورت انشاء اللہ اس مصیبت سے رہا ہو  
 جاوے گا اور جو قسم بنی آدم کے جادو سے ہو اور اس پر ایک مہینہ سے لے کر ایک سال تک  
 عرصہ گزرا ہو تو چاہیے کہ فلفل سفید۔ قرنفل۔ دارچینی۔ الائچی خورد۔ کاٹھنل بجا نفل خروں ان  
 سب کو مساوی لے کر کسی ہانڈی میں بہت سے پانی میں جوش دے کر مریض کو اس کا بخار سچاویں  
 تاکہ پسینہ آجاوے اور مریض کھل جاوے اور اگر اس حالت کو ایک سال سے لیکر دس سال  
 تک گزر گئے ہوں یا اس سے بھی زیادہ تو اس کا علاج یہ ہے کہ مذکورہ بالا ادویہ میں ذکر ثعلب و  
 ذکر گورغلا کر مریض کو سات دن تک کھاتے رہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ آرام ہو جاوے گا۔ لیکن طبعی  
 نامرد لا علاج ہوتا ہے۔ البتہ وہ علاج جو مسحور کی حالت میں لکھا گیا ہے۔ اس کی طرف رجوع کرنا شاید  
 کچھ مفید ہو سکے۔

## باب ۱۲۶ (مرلوبط) کا علاج کتابت و عزیمت سے

اسما و ذیل کسی پیالہ میں لکھ کر پانی سے دھو کر پی لیں۔ ریزانکا تعویذ بہا کر مریض کے بارو  
 پر باندھ رکھیں۔ اسما و آیات یہ ہیں۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ اخلاص و المعوذتین و یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ  
 صَفْصَفًا تَكَ وَكُوَيْرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَابْوَمُنُون تَكَ وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاءٌ مَّهِوْشَعَاءٌ وَرَحْمَةٌ  
 لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا نَجَلَى رَبُّهُ لِّلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَفَعَزَّ مَوْسَىٰ صَعِقًا مَّرَجَ الْبَحْرَيْنِ  
 يَلْتَقِيَانِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْعَجْرَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا قَدِيرًا  
 تَكَ وَعَنْتِ الْوَجُوْدَ لِلْحَيِّ الْقِيَوْمِ وَقَدْ اَلَمَ قَرِيْبًا ان کلمات کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے اس پر  
 مرد و عورت کا نام بھی لکھیں پھر ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ  
 بِحَقِّ هَذِهِ الْاَسْمَاءِ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ ایضاً سیاہ مرغی لے کر محفوظ رکھیں جب وہ  
 انڈے دینے لگے تو چھری یا تلوار کے کناروں پر اسما و ذیل لکھ کر انڈے کے دو حصے کریں ادھا

سے اور زمین کو سم نے پھایا ہے اور تم بہتر بچاؤ لے میں ۱۲۷ اور سر چیز کا ہم نے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔

مرد کو کھدائیں آدھا عورت کو اسما رہیں مالا عہ مالا لاولہ ۲۷ ایشیا مرضی کی نافرمانی کے نیچے آیت ذیل لکھ کر رکھیں آیت یہ ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يُعَادُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ الْغِيَاثُ الْمُنْتَهٰى - ایشیا صنوبر کی چھال جلا کر شہد میں ملا کر چاٹنا بھی شہوت کو کھول دیتا ہے۔ ایشیا مرغ کے سر کے دائیں طرف کا بھیجا مصطکی میں پس کر شہوت بستہ والا کام میں فائدہ کمال رکھتا ہے۔ ایشیا سورہ واقعہ لکھ کر عورت اور مرد کو پانی میں حل کر کے پلانا نہایت ہی مفید ہوگا نیز معقود کے زانور پر یہ تعویذ لکھیں فوراً کھل جائے گا۔



نیز شاشی کسی جانور کا نام ہے کے سر کو پانی میں اچھی طرح سے دھوئیں اور اس کے ساتھ معقود شخص نہائے یا غسل کرے تو مفید ہوگا نیز یہ کلمات چودہ کھجوروں پر لکھ کر سات مرد اور سات عورت کو کھدائی جائیں۔

کلمات یہ ہیں فقہ محمت تو اس مصیبت سے نجات ملے گی نیز ایک صان برتن میں پندرہ دفعہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لکھ کر معقود کو پلایا جائے نیز ایک برتن میں سورہ بقرہ کامل لکھ کر پانی میں دھو ڈالیں اور اس پانی میں مریض نہاؤں تو شفا پاؤں نیز اگر خارشت کے ذکر کو بھون کر اس مرض کا بیمار کھائے تو بفضل خدا فائدہ پائے نیز رختہ زرگرس کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے اسے نوق بھی کہتے ہیں، کو بھون کر کھاویں اور اس کی ہڈیوں سے دھونی دیں۔ بہت ہی مفید ہوگا نیز عک صنوبر کو جلا کر شہد ملا کر کھانا بھی فائدہ سے خالی نہیں نیز کتے کا سر اور مچھلی کا چمڑا لے کر تین دن تک دھونی دیں بندش کھل جائے گی لے

## باب ۱۲۷ شہوت بستہ کا علاج ادویہ کے ساتھ

کبابہ ہندی - قنفل سیاہ - فلفلہ رازہ جائل - کانچل - تھج - قرنفل - اندر جوہ - ہلیہ زرد - ہلیہ کابلی

لے ترجمہ تحقیق وہ لوگ جو اس کے زہل سے دشمنی کرتے ہیں اس طرح ہاک کی جائیں گے جیسے ان سے پہلے برابر کے گئے لے اس بار میں مائل کتاب میں اور بت سے کلمات و تعویذات درج ہیں جو کہ زیادہ طویل ہونگی وجہ سے درج نہیں کئے گئے ۱۳

الاٹچی خورد۔ الاٹچی کبیر۔ خونجاں تیرہ تیزک۔ دارچینی۔ جب الزلم کلونجی۔ فلفل سفید۔ سبباس  
 نودری سفید۔ سب کو کوفتہ بیختہ کر کے سہ چند شہد میں معجون بنائیں اور بقدر برداشت طبع استعمال کریں  
 ایضاً کانپہل۔ جائفل۔ الاٹچی صغیر۔ الاٹچی کلان۔ ہر ایک مساوی کوفتہ بیختہ کر کے شہد میں ملا کر معجون  
 بنائیں اور سوتے وقت کام میں لادیں۔ ایضاً کانپہل۔ جائفل۔ الاٹچی خورد۔ الاٹچی کلان۔ کبابہ  
 ہندی۔ خونجاں عقر قرحہ۔ سب کو کوفتہ بیختہ کر کے شہد میں معجون بنائیں بقدر برداشت طبع استعمال  
 کرو ایضاً فلفلہ راز۔ قرنفل۔ فلفل سفید۔ ہالیوں مساوی لے کر کوفتہ بیختہ کر کے شہد میں معجون بنائیں  
 اور استعمال کریں۔ ایضاً کبابہ ہندی۔ دارچینی۔ مساوی لے کر کوفتہ بیختہ کر کے شہد میں ملا کر استعمال  
 کریں ایضاً خونجاں کانپہل۔ جائفل۔ مساوی لے کر کوفتہ بیختہ کر کے شہد میں معجون بنائیں ایضاً  
 اندر حوی۔ قرنفل۔ ریوند چینی۔ ترہ تیزک۔ فلفل سفید۔ سب کو باریک کوٹ کر شہد میں ملائیں اور کام میں  
 لائیں ایضاً خونجاں۔ سنبل الطیب تاج۔ دار فلفل۔ جائفل۔ شیطرج ہندی۔ اورک۔ کانپہل۔ نیاز  
 بو۔ سب کو کوفتہ بیختہ کر کے شہد میں ملا کر استعمال کریں۔

## باب ۱۲۸ معقود کا سحر باطل کرنے میں

مسحور کو چاہیے کہ انوار کے روز ادھ سیر قلعی لیوے اور نماز صبح کے وقت چار پائی پر  
 بیٹھ کر اس کو گلا دے اور گلانے وقت وہ اسما جن کا ذکر ذیل میں آتا ہے پڑھتا جاوے اسی طرح  
 سات دفعہ قلعی کو گلاوے اور سہ دفعہ پانی میں سرد کرتا جاوے۔ اس روز بکری کی چربی سے  
 دھونی دیوے پھر پیر کے روز گھر کے وسط میں بیٹھے اور قلعی کو گلا تا جاوے اور اسما پڑھتا  
 جاوے اور پانی میں سرد کرتا جاوے اس روز یہ عمل چھ دفعہ کرے آخر میں گوگل کی دھونی دیوے۔  
 منگل کے روز پھر اسی طرح کرے مگر اس روز پانچ دفعہ عمل کرے اور مصطکی سے دھونی دیوے  
 بدھ کے روز بھی عمل جاری رکھے اور قلعی کو چار دفعہ گلا کر اور سرد کر کے آخر میں لوبان سے  
 دھونی دیوے۔ جمعرات کے روز یہ عمل قلعی کو تین دفعہ گلا کر جاری رکھے اور صرل کی دھونی  
 دیوے جمعہ کے روز یہ عمل دو دفعہ کرے اور آخر میں عود کی لکڑی سے دھونی دیوے ہفتہ کے  
 روز یہ عمل ایک دفعہ کرے اور آخر میں عنبر کی دھونی دین انشاء اللہ سحر باطل ہو جاوے گا انشاء

یہ ہیں۔ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ مَا عَمِلْتَهُ الْاَيْدِي وَمَا عَشَتْ عَلَيْهِ الْاَرْحُلُ وَمَا كَلَمَتْ بِه  
 الْاَلْسُنُ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ مَا غُلِقَتْ عَلَيْهِ الْاَبْرَابُ وَيَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْاَعْدَاءُ وَالْاَحْبَابُ  
 اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ مَا عَمِلَ فِي جَوْرِ الْمَصَابِيحِ وَمَا عَمِلَ فِي سُنُونِ الرِّمَاحِ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ  
 مَا عَمِلَ فِي الدُّفُونِ وَمَا دَفِنَ فِي السَّقُوفِ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ مَا عَمِلَ فِي الطِّينِ وَالطُّيْرِ وَ  
 السَّمْعِ وَالْحَرِّ الْغَزِيرِ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ مَا عَمِلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا دَفِنَ تَحْتَ  
 الْحَبْنَةِ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ مَا عَمِلَ فِي النَّعَاسِ وَمَا نَقَشَ فِي الرَّصَاصِ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ  
 مَا عَمِلَ فِي الْقَرْدِيدِ وَالْقُلُوبِ وَمَا مَرَّ فِي خِرْقَةٍ مَطْلُوبٍ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ مَا عَمِلَ فِي  
 الشَّعْرِ وَمَا دَفِنَ فِي الْقَابْرِ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ مَا عَمِلَهُ الْيَهُودُ وَالْيَهُودِيَّاتُ وَمَا دَفِنَ  
 فِي الْقُبُورِ الْمُنِيَّاتِ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ مَا عَمِلَ فِي الشَّجَرَةِ وَمَا دَفِنَ فِي الْكُهُونِ وَالْمَطْمُورَةِ  
 اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ مَا عَمِلَ فِي الثَّمَارِ وَمَا عَمِلَ فِي الْاَثَارِ وَالْوُدْيَانِ وَالْبَحَارِ وَالْاَحْجَارِ اَفْسِخْ  
 يَا خَفِيفُ صَادِقِ السَّرَاقِ وَمَا دَفِنَ فِي الْاَوَاقِ بِعَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَالَّذِينَ يَجْمَلُونَ الْعُرْشَ  
 وَمَنْ حَوَّلَهُ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ بِالسَّبْعِ اَرْصِيْنَ وَسَبْعِ سَمَوَاتٍ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ بِفَضْلِ سِتَّةِ  
 اَيَّامٍ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ بِفَضْلِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ بِفَضْلِ اَرْبَعِ كُتُبِ التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيلِ  
 وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيمِ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ بِفَضْلِ الثَّلَاثَةِ اِبْرَاهِيْمَ وَمَرْيَمَ وَعِيسَى اَفْسِخْ  
 يَا خَفِيفُ بِفَضْلِ ثَانِي اِثْنَيْنِ اِذْ هَمَانِي الْغَارِ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ بِعَنِ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ الْقَدْرِ  
 الْقَمَدِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اَفْسِخْ سِحْرَ السَّاحِرَاتِ وَمَكْرَ الْمَاكِرَاتِ وَالْحِجْنَ  
 وَالْاِنْسِ الْمُنْتَمِرِدِيْنَ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ مَا عَمِلَ فِي دِمَا الْعَوَائِضِ وَمَا دَفِنَ فِي الْمَرَائِضِ  
 اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ مَا عَمِلَ فِي الْعُنْكَبُوتِ وَمَا دَفِنَ فِي اَذْكَانِ الْبُبُوتِ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ  
 مَا عَمِلَ فِي الْاَوْقَادِ وَمَا كُنِبَ بِالْاَوْقَادِ اَفْسِخْ يَا خَفِيفُ مَا عَمِلَ فِي الْفُجَّارِ  
 وَمَا دَفِنَ فِي النَّارِ بِحَقِّ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ نِيْزِ مَقْعُودِ

ترجمہ یا خفیف رخصت کے معنی اس جگہ تخفیف کرنیوالے یا بوجھ ہلکا کرنیوالے کے معلوم ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں نے میرے  
 خلاف عمل کیا ہے یا تم جلدائے میں یا زبانوں نے کلام کی ہے دور کر دے جس پر کہ دراز بند کئے گئے ہوں اور جس پر  
 کہ دوست دشمن جمع ہوئے ہوں اور جو کچھ پر انہوں نے درمیان اور نیزوں کے کناروں میں عمل کیا گیا ہو۔

کاسحر باطل کرنے کے لیے۔ عوَج (ایک قسم کے کانٹے ہوتے ہیں) کی شاخیں لے کر ریحان کے ساتھ ملا کر پکائیں جب ایک تہائی رہ جائے تو پانچ روز متواتر ہر روز یون پاؤنی لیں دیگر خاتم بطرز مثلث جو پہلے گزر چکی ہے اور اس کے گرد وَاتَّبِعُوا مَا آتَاكُمُ السَّيِّئَاتُ وَرَحِمَتْ بَيْنَهُمْ وَمَا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ اور انہوں نے تابعداری کی جو کچھ کہ شیطان پڑھتے تھے حائل کیا گیا ان کے اور ان کی بری خواہشوں کے درمیان ایک برتن میں لکھ کر پانی سے مٹا کر گھر میں چھڑکیں صہا جی نے کہا ہے کہ ایک نادر کاغذ پر پانچ (۱) اور ایک (۲) لکھ کر قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا لکھ کر رات کو اسے ریزہ ریزہ کر کے دوسرے روز سحر زدہ کی گردن میں ٹسکاویں۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۸۸) اس سے نجات دے اور دفتوں اور چھتوں میں بھی جو کچھ عمل کیا گیا ہو اور جو کچھ زیندوں یا کچھ کانون اور خنزیر کے گوشت میں عمل کیا گیا ہو اس سے بھی نجات دے اور جو کچھ سونے یا چاندی میں عمل کیا گیا ہو نیز نجات دے اس بد عمل سے جو کہ پاؤدان کے نیچے کیا گیا ہو یا جو کہ تانبے یا قلعی میں نقش کیا گیا ہو یا جو کچھ کہ دلوں یا محبوبہ کے کپڑا میں کیا گیا ہو نیز اس بد عمل سے بھی رہائی دلا جو کہ بالوں یا پرانی چیزوں درختوں یا خاروں اور تہہ خانوں میں کیا گیا ہو نیز اس بد عمل سے بھی جو پھلوں اور نشاتوں اور پانی کی روؤں اور دریاؤں یا پتھروں میں کیا گیا ہو یا جو بد عمل کہ پانی پینے کی جگہوں یا استعمال کے برتنوں میں کیا گیا ہو اس سے بھی نجات دے سورہ فاتحہ اور ان فرشتوں کی برکت سے جو عرش اور اس کے گرد کی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی برکت سے نیز رہائی دلا مجھ کو چھ دنوں اور پانچوں نمازوں اور چاروں کتابوں تورات۔ انجیل۔ زبور۔ قرآن شریف اور حضرت ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اور حضرت ابوبکر کی برکت سے اور صلاحی دلا مجھے اس وسیلے سے بے نیاز خدا کی برکت سے جو کہ اولاد اور بیٹیوں سے پاک ہے اسے اللہ دور کر دے جادو گر نیوں کا جادو اور مکاروں اور انسانوں اور جنوں کا فریب اور شرارتیں اور دور کر دے جو کچھ کہ بد عمل حیض کے خون اور حیوانوں کی رہائش کے مکانوں اور پڑیوں اور گھروں کے گوشوں میں کیا گیا ہو نیز دور کر دے جو کچھ کہ قدموں میں بد عمل کیا گیا ہو یا قلموں سے لکھا گیا ہو اور جو کہ بے ہوش برتنوں میں کیا گیا ہو یا آگ میں دبا گیا ہو بادشاہ زبردست کے حکم سے دلا حول آخر تک۔



## باب ۱۶۹ تقویت باہ جس سے جماع کی طاقت بڑھے کے بیان میں

یاد رہے کہ قوت باہ کبھی تو گرم طبیعت میں بسبب کثرت حرارت ضعیف ہو جاتی ہے یا گرم اغذیہ و اشربہ کی استعمال سے ضعیف ہو جاتی ہے اور کبھی کثرت برودت سے ضعیف ہو جاتی ہے مگر ایسے شخص میں جس کی مزاج سرد ہو یا اس کو اشیاء بارہ کے استعمال کا اتفاق بکثرت ہوا ہو۔ پس اگر کثرت حرارت سے ضعیف ہو جاوے تو سی پکی خوب پینی چاہیے اور خمیری روٹی کھانی چاہیے اور ترشیاں کا استعمال کرنا چاہیے اگر سردی سے قوت باہ کمزور ہو جائے تو شہد خالص کف گرفتہ میں گذر لکھو کر اس میں سے بقدر دو تولہ صبح و دو تولہ شام استعمال کریں اور غذا گندم کی روٹی اور یکساہہ دنبہ کا گوشت ہونا چاہیے کہ نہایت مفید ہے فائدہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد پر بوقت مجامعت عورت کی طرف سے ایک قسم کا رعب چھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مرد کی حرکت باطل ہو جاتی ہے اور اس کا قضیب استاودہ نہیں ہو سکتا اور انسان اس کو بوجہ باواقفیت نامردی و سستی خیال کرتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کو اصطلاح اطباء میں احتشام کہتے ہیں۔

معجون فلاسفہ جس کو مادۃ الحیات بھی کہتے ہیں۔ نامردی و ضعف قوت باہ کے ازالہ میں نہایت مفید ہے۔ بلغم فاضلہ کو خارج کرتی ہے۔ دل کو طاقت دیتی ہے۔ مضر ح و ہاضم ہے۔ چہرہ کی رنگت صاف کرتی ہے۔ ذہن و حافظہ کو بڑھاتی ہے۔ زبان کی طاقت کو تیز کرتی ہے۔ سردی کو دور کرتی ہے۔ سلس البول کو رفع کرتی ہے۔ مہنی کو بڑھاتی ہے۔ عضو خاص کو مضبوط کرتی ہے۔ دانوں کو مستحکم بناتی ہے۔ اور جماع کم و مفاصل کو دور کرتی ہے۔ ترکیب اس کی یہ ہے صفت فلفل۔ دار فلفل۔ زنجبیل۔ دار چینی۔ آملہ۔ بلیلمہ۔ شیطر ج ہندی۔ سزر۔ اوند، بیج بابونہ۔ حب صنوبر۔ جوز مندی۔ بھند بیدستر۔ ہر ایک ایک اوقیہ ثعلب مصری تین اوقیہ سب کو باریک کوفتہ بختہ کر کے سہ چند شہد میں ملا کر معجون بناویں اور بقدر مقدار اخروٹ استعمال میں لاویں۔ ایضاً یہ نسخہ تقویت جماع کے لیے نہایت عجیب ہے۔ یہ سلطان تلمسان کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کی برکت سے چالیس بکر عورتوں کو ایک رات میں خوش کر سکتا تھا۔ سنگدان جوزہ مرغ ادرک۔ کا پھل۔ جا نفل۔ دار فلفل۔ دار چینی۔ الاچی کلان۔ خولخاں۔ اندر جو۔ قر نفل۔ بیج

کبابہ ہندی۔ حب ارشاد۔ ملح اندرانی۔ ہر ایک اوقیہ زعفران پر اوقیہ سب کو کوفتہ بختہ کر کے  
سہ چند شہد میں ملا کر معجون بنائیں اور کسی روغنی برتن میں ڈال کر تین روز آگ کے قریب رکھیں  
پھر اس کی بمقدار نخود گویاں بنا رکھیں اور جماع کے وقت گولی زبان کے نیچے رکھ کر مصروف  
کار ہوں تو عجیب کیفیت ظاہر ہو صحیح و مجرب ہے ایضاً قرفل مصطلکی۔ کبابہ ہندی۔ الہچی خورد۔  
جائفل۔ کا پھل۔ زنجبیل۔ سح۔ عاقرقحا۔ سب کو کوفتہ بختہ کر کے شہد میں معجون بنائیں اور کام  
میں لاویں۔ ایضاً بھیڑیا کا اعلیل خشک کر کے اپنے پاس رکھیں جماع کے وقت مقدار نخود  
بھون کر نکل جائیں اور بہت عجیب ہے ایضاً بڑی چینیٹی ایک سو عدد پکڑ کر دیک سفید کے  
روغن میں ڈال دیں۔ تین ہفتہ تک پڑی رہنے دیں بعد ازاں صاف کر کے اعلیل پر مالش کریں  
اس سے خیزی پیدا ہوتی ہے۔ اور اعصاب مضبوط ہوتے ہیں ایضاً عاقرقحا سرد مزاج والے  
میں قوت جماع کو زیادہ کرتا ہے۔ عاقرقحا ہا تو لے کر اس میں اسی قدر آرد باقلا ملا کر ایک تھیلی  
میں ڈالیں اور اس میں اعلیل اور خصیتین کو رکھ کر چند روز باندھے رہیں کہ نہایت مفید ہے ایضاً  
یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے۔ لوبان ایک رطل مقرقل نصف اوقیہ۔ قرفل رتج، نصف  
اوقیہ سب کو کوفتہ بختہ کر کے دو رطل شہد میں ملا کر معجون بنائیں اور صبح و شام بقدر جوڑ ہندی استعمال  
کیا کریں۔ ایضاً زیرہ سیاہ اوقیہ۔ تخم نشبت۔ انیسون چار اوقیہ سب کو بار یک پس  
کر سہ چند شہد ملا کر معجون بنائیں اور صبح و شام بقدر جوڑ ہندی کام میں لاویں ایضاً سداب کو  
پانی میں پکاویں جب اس کا اثر نکل آوے تو صاف کریں اور اس میں شہد ملاویں پھر ان میں  
ادویہ ذیل کو کوفتہ بختہ کر کے ملاویں اور بقدر جوڑ ہندی صبح و شام استعمال کریں ادویہ  
یہ ہیں کندر حب ارشاد۔ زنجبیل۔ ہر ایک مساوی ایضاً مرغ کا خصیہ لے کر کسی کلیا میں رکھیں  
اور اس کے اوپر نیچے نمک اندرانی پر کردیں اور گل حکمت کر کے آگ دے دیں تو وہ  
ایک سفید رنگ کا سنگریزہ ہو کر نکلے گا اس میں سے تھوڑا سا منہ میں رکھنا وقت پر  
بہت فائدہ دیتا ہے۔ ایضاً پیاز کوٹ کر اس کا پانی پھوڑیں۔ جتنا یہ پانی ہو اس کا دو گنا  
شہد میں دونوں کو ملا کر آگ پر پکائیں کہ پانی خشک ہو جاوے اور شہد باقی رہ جاوے  
پھر اس شہد میں سے تھوڑا سا لے کر بگھوئے ہوئے حنوں کے ساتھ استعمال کریں اور قوت

باہ کے بڑھانے میں نہایت مفید ہے۔ ایضاً قز نفل دو درہم۔ قرفہ۔ جوز بویہ۔ قاقہ صغار  
 ہر ایک دو درہم۔ سنبل الطیب۔ سعد کوفی۔ آملہ ہر ایک دو درہم سب کو کوفتہ بختہ کر کے دو چند  
 وزن ادویہ شہد میں ملا کر معجون بناویں اور صبح و شام بقدر ایک تولہ استعمال کریں ایضاً معجون  
 نعناع اس کام میں نہایت مفید و مجرب ہے۔ سودہ کو گرم کرتی ہے۔ منی کو بڑھاتی ہے رنگ  
 سرخ کرتی ہے۔ منہ کی بد بوئی کو دفع کرتی ہے۔ دانتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ ریح کو توڑتی ہے۔  
 قویج کو دفع کرتی ہے۔ دل کو قوت دیتی ہے۔ بواسیر کو دور کرتی ہے۔ سنگریزہ کو توڑتی ہے  
 قوت باہ کو بڑھاتی ہے۔ اچلیل کو سخت کرتی ہے۔ قوت باصرہ کو طاقت دیتی ہے۔ حکماء  
 اطباء کی احتیاجی سے چھوڑاتی ہے۔ جس کی ترکیب حسب ذیل ہے۔ تخم نعناع۔ تخم کرنس۔  
 تخم سوپا۔ تخم شلغم۔ تخم پیاز۔ تخم ارشاد۔ تخم ازبایانہ۔ تخم خردل۔ کلونجی۔ ہر ایک دس درہم۔  
 مصطکی۔ قز نفل۔ قرفہ۔ عقر قرقا۔ انیسوں۔ سبباس۔ ہر ایک تین درہم زعفران ایک مثقال۔ عود  
 ہندی۔ مسک۔ کستوری۔ ہر ایک نصف درہم ہر دو کو الگ الگ کوٹیں پھر سب کو  
 ملا کر چھان لیں۔ پھر ایک سو درہم کھانڈ کا قوام کر کے ادویہ اس میں ملاویں۔ پھر بچاؤں درہم  
 شہد خالص اور پے ملاویں اور بیس روز تک دانہ گندم میں معجون کے برتن کو دبا دیں پھر نکال  
 کر صبح شام بمقدار ایک مثقال۔ استعمال کیا کریں نہایت مفید ہے۔ ایضاً سرخ گاہری لے  
 کر ان کو مٹی سے صاف کریں پھر ان کا نرٹا نکال کر پھینک دیں۔ باقی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے  
 کر کے کسی ہانڈی میں ڈال کر شہد خالص سے پوشیدہ کر کے آگ پر قوام کریں۔ پھر اتار کر ادویہ  
 ذیل شامل کریں۔ زنجبیل۔ جوز بویہ۔ قز نفل۔ قرفہ۔ خونجاں۔ ہر ایک ایک درہم زعفران نصف  
 درہم۔ سنبل۔ مصطکی ہر ایک نصف درہم سب کو کوفتہ بختہ کر کے شہد میں ملاویں اور بوقت  
 حاجت جماع سے تین گھڑی پہلے پانچ درہم استعمال کریں اور قدرت خدا کا نفاذ دیکھیں۔  
 ایضاً عنبر ایک درہم۔ مسک ایک درہم۔ عرق گلاب دو درہم۔ زعفران تین درہم ادویہ کو عرق گلاب  
 میں خشک کر کے شہد خالص میں معجون بنائیں اور بوقت ضرورت دو گھڑی پہلے بقدر دانہ عدس  
 (سور) استعمال کریں۔ ایضاً پنبہ حکما کا حلوا سے لہاتا ہے۔ جسم کو تندرست رکھتا ہے۔  
 روح کو خوش کرتا ہے۔ اور خیزی پیدا کرتا ہے۔ منی کو بڑھاتا ہے۔ ترکیب یہ ہے

سفید پیاز کا پانی نصف رطل شہد خالص ایک رطل پیسے دونوں کو جلا کر آگ پر چڑھا دیں یہاں تک کہ پانی خشک ہو جائے۔ شہد باقی رہ جائے پھر اس میں اشیاء ذیل شامل کریں۔ سنبل ہندی۔ عود ہندی ایک ایک درم۔ قرقہ۔ زعفران۔ دار فلفل۔ الائچی جوڑ لوا۔ ہر ایک تین درم مک نصف درم سب کو کوفتہ کر کے شہد میں ملاویں اور ایک روغنی برتن میں بند کر کے ایک ہفتہ رہنے دیں۔ اس کے بعد ہر روز بقدر دو تولہ استعمال کریں۔ ایضاً جو شخص ہر روز انڈے کی زردی صبح کے وقت کھاوے تو شہوت بھراک اٹھتی ہے۔ اور اگر ہر روز تین عدد زردی بیفہ اور پیاز استعمال کی جاوے تو قوت باہ بکثرت بڑھے۔ ایضاً جو شخص پیاز کوٹ کر کسی برتن میں ڈالے اور اس پر مصالحہ گرم ڈال کر روغن زیتون میں انڈوں کی زردی کے ساتھ بھونے اور ہمیشہ استعمال کرے تو قوت جماع بے شمار پائے ایضاً اوٹنی کے دودھ میں شہد ملا کر ہمیشہ استعمال کرنا بھی یہی فائدہ دیتا ہے۔ ایضاً پر داریا سیاہ موٹی چیونٹیوں کو پکڑ کر کسی بوتل میں بند کر دیں اور ان پر روغن زیتون خالص ڈال کر پانچ روز تک دھوپ میں لٹکائے رکھیں پھر تیل کو صاف کر کے اھلیل پر مالش کیا کریں کہ اس سے اعصاب بڑے قوی ہو جاتے ہیں۔ ایضاً تھوم بقدر ضرورت لے کر خوب باریک پیسیں کہ حلو کی طرح ہو جاوے پھر اس میں اس کے نصف برابر عاقرقرا کو قوتہ بختہ کر کے ملاویں پھر اس میں روغن زرد عمدہ اور شہد خالص ہر دو ادویہ سے دو چند ملا کر آگ پر قوام کریں پھر سرد کر کے رکھ چھوڑیں اور اس میں سے بقدر ایک اوقیہ نہار استعمال کیا کریں۔ اس کے استعمال سے شہوت برانگیختہ ہوتی ہے اور خیزی پیدا ہوتی ہے قوت حافظہ بڑھتی ہے۔ بلغم زائدہ خارج ہوتی ہے۔ دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ درد کم دور ہو جاتی ہے۔ قوت باہ زیادہ ہوتی ہے۔ منی بکثرت پیدا ہوتی ہے۔ ایضاً تخم جرجیر۔ فلفل۔ زنجبیل۔ تخم کرفس سب مساوی کوفتہ بختہ کر کے شہد خالص میں معجون تیار کریں اور بقدر نصف اوقیہ نہار استعمال کیا کریں۔ ایضاً سانڈ (گاؤنز) کے اھلیل کو خشک کر کے سرمہ سا بنا کر رکھ چھوڑیں جماع کے وقت اس میں سے بقدر ایک ماشہ شہد میں ملا کر چاٹ لیں۔ نہایت ہی عجیب ہے۔ ایضاً سیدنر کا بھون کر کھانا بھی اطبا کے نزدیک یہی تاثیر رکھتا ہے۔ ایضاً سید کی چربی سے



ایضاً تخم پیاز، تخم کونج، تخم ترب، تخم شلغم سب مساوی کو فستقہ پیختہ کر کے شہد میں سمون بنا دیں اور بقدر ایک تولہ صبح اور ایک تولہ شام استعمال میں لادیں ایضاً یہ نسخہ خواص ہندیہ سے ہے اہل ہند اس کو نہایت مجرب خیال کرتے ہیں۔ جب کتا اور کتی باہم ملے ہوئے ہوں اس حالت میں کتے کی دم جڑ سے کاٹ لیں اور چالیس روز تک زمین میں دفن کر دیں جب نکالیں گے تو صاف بڑیاں باقی ہوں گی ان بڑیوں کو کسی کپڑے میں پی کر مجامعت کے وقت کمر پر باندھ لیں جب تک یہ باندھے رہیں گے انزال نہ ہوگا۔ ایضاً چمکا ڈر کا خون دونوں قدموں پر طلا کرنے سے بھی عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایضاً شہد اور روغن زرد رات کے وقت ملا کر پینا اس بارہ میں عجیب کیفیت دکھاتا ہے۔ ایضاً اجیل کو دنبے کے پتے سے طلا کر کے مقاربت کرنا بھی عجیب لطف دکھاتا ہے۔ ایضاً سما و ذیل انکور کے پتے پر لکھ کر بائیں بلان پر باندھیں

اسما و یہ ہیں ابجد ہوز حطی کل من سعض قد شت تغذ صظع وقیل یارض  
 ابلعی ما ترک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقفی الامر کما اوقد وانا ابل خوب  
 اظفاھا اللہ امیک ایہا الماء النازل من صلب فلان بن فلانہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ

## باب ۱۳ عورت کی شہوت بستر کرنے میں تاکہ اس پر دوسرا قادر نہ اس کے

مؤلف کہتا ہے کہ جو شخص عورت کی شہوت بند کرنا چاہے کہ اس پر دوسرا قادر نہ ہو سکے اس کو چاہیے کہ اپنے عضو خاص کو بھیرے کے پتے سے طلا کرے اور عورت سے مجامعت کرے پھر کوئی اس کے ساتھ مقاربت نہیں کر سکے گا۔ مؤلف کہتا ہے کہ ایک سپاہی آدمی نے مجھے اپنی کہانی سنائی کہ میں جوانی کے وقت میں موصل کے شہر میں ایک گانے والی لونڈی پر عاشق تھا مگر وہ دولت مند لوگوں کو مجھ سے زیادہ پسند کرتی تھی۔ اور مجھے اس سے بغیر آتی تھی۔ لیکن اس کو ان کی طرف مائل ہونے سے روک نہیں سکتا تھا۔ میں نے ایک طبیبت کے پاس اس حال کی شکایت کی اور اس سے کہا کہ آپ براہ مہربانی کوئی ایسی دوا دیں جس سے میرے دل سے اس کی محبت جاتی رہے حکیم نے کہا محبت کا تیرے دل سے نکلنا تو مشکل ہے۔ لیکن میں تجھے ایک دوا بتاتا ہوں اس کو استعمال کر کے جب تو اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو پھر تیرے سوا کوئی دوسرا

اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ پھر مجھے حکم دیا کہ بھیڑیے کا پتہ استعمال کرو یہ کہہ کر اپنے پاس سے مجھے تھوڑا سا دے دیا میں نے اس کو استعمال کیا جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ اس کے بعد ان دو لہندوں میں سے جب کوئی اس لوندی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا تھا تو اس کا آہ مخصوص ٹیڑھا ہو جاتا تھا اور اس کی محبت پست ہو جاتی تھی اور دوسرا آدمی اس کی مقابرت پر قادر نہیں ہو سکتا تھا۔ پس دولت مندوں نے اس کو چھوڑ دیا اب وہ میرے پاس رغبت سے آئی اور اوروں کے پاس جانے سے توبہ کی پھر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور اس کو اپنے ساتھ ملک شام میں لے گیا ایضاً بھیڑیے کے عضو خاص کو عورت کے رحم پر باندھنا بھی یہی فائدہ دیتا ہے۔ ایضاً بھیڑیے کا خون اچلیں پر طلا کرنا یہی طاقت رکھتا ہے۔ ایضاً بھوکا پتا اچلیں پر طلا کرنا بھی اسی کام آتا ہے۔ ایضاً بھیڑیے کا خسیہ خشک کر کے پس لیں اور روغن زیتون میں ملا کر عضو خاص پر طلا کریں اور عورت سے مقابرت کریں۔ پھر کوئی دوسرا اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ ایضاً سیاہ مرغی اور سیاہ مرغ کا پتہ اور کوٹے کا پتہ اور بھیڑیے کا پتہ اور شہد سب کو ملا کر جو شخص اچلیں پر طلا کرے اور جس عورت سے چاہے مجامعت کرے تو وہ عورت اس سے ایسا پیار کرے گی کہ پھر کوئی شخص اس پر قادر نہ آسکے گا۔ یہ نسخہ صحیح مجرب ہے اس میں کوئی شک نہیں ایضاً سیاہ کرے کا پتہ اور اسی کا بھیجا ملا کر عضو تناسل پر طلا کریں اور جس سے چاہیں مجامعت کریں پھر کوئی دوسرا اس پر قادر نہیں آسکے گا۔ ایضاً عورت کے بال جو کنگھی کرتے وقت اس کے سر سے گرتے ہیں لے کر جلاویں اور عورت کی بے خبری میں اچلیں پر فود کر کے مجامعت کریں تو وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے محبت نہ کرے گی ایضاً بھوکا خسیہ خشک کر کے باریک کریں اور روغن گنجد میں ملا کر اچلیں پر طلا کریں تو مقابرت کے وقت عجب لذت اٹھائیں اور غیر اس پر قادر نہ ہو سکے۔ و اگر عورت چاہے کہ اس کا مرد کسی غیر کے ساتھ زنا نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ اس کا ذیل لکھ کر اپنے پاس رکھے اس کا یہ ہیں۔ عَقْدْتُ سَمْعَكَ وَبَصْرَكَ وَذَكَرَكَ لَا يَقُومُ إِلَّا فِي الْحَلَاقِ بِعَقِي هَذِهِ  
الاشعراء - ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰  
ذِكْرِ فُلَانٍ + عَنِ الْحَرَامِ ————— ایضاً بھوکا گوشت خشک کر کے باریک

پس کر اور روغن بنفشہ میں ملا کر عضو نوالہ پر طلا کریں اور مقاربت کریں تیرے سوا کوئی اس پر قادر نہیں آسکے گا۔ ف اگر کوئی شخص ایک زانی اور زانیہ یا کسی مرد اور عورت میں جدائی ڈلوانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ایک سبز درخت کی ٹہنی پر سات دفعہ لفظ بدوح لکھے پھر اس کو کاٹنا شروع کر دے اور کاٹتے وقت یہ الفاظ کہتا جائے قَطَعْتُ قَلْبَ فُلَانٍ عَن فُلَانٍ مَدْبَغَةً فُلَانٍ عَن فُلَانٍ۔ پھر اس ٹہنی کو کسی پرانی قبر میں دفن کرے اور دفن کے وقت یہ آیت ذیل پڑھے اَلْيَوْمَ نَنَّاكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا كَذَلِكَ يَوْمَ يَنْسَى اَنَّ بَنِي فُلَانٍ مَجْبَةٌ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانَةٍ يَمُوتُ قَلْبًا كَمَا سَاتَ عَلَيْهِمْ صَاۤءُ الْقَبْرِ۔

## باب ۱۳۱ لذت جماع کے بیان میں

سیندرغ کا بھیجا شہد میں ملا کر آلہ مخصوص پر طلا کرنا لذت جماع کو بڑھاتا ہے سووم کو روغن زیتون میں گلا کر طلا کرنا بھی یہی کام دیتا ہے۔ ایضاً اونٹ کی کوبان کی چربی گلا کر طلا کرنے سے فریقین لذت سے مسرور ہو جاتے ہیں۔ ایضاً عاقر قرحا جماع کے وقت چامے اور ذکر پر طلا بھی کرے تو عجیب لذت پاوے ایضاً بھوکا برازا حلیل پر مالش کرے تو بڑی لذت پاوے اور خیزی کمال پیدا ہو ایضاً بھڑیے اور مینٹوے کا پتہ ملا کر اعلیل پر طلا کرنے سے عورت لذت سے بھرا ہو جاوے ایضاً مرغی کا پتہ جماع کے وقت اعلیل پر طلا کریں اور لذت جماع اٹھائیں ایضاً فریون۔ زنجبیل۔ عاقر قرحا۔ ہر ایک مساوی۔ کستوری نصف جزو سب کو باریک پس کر روغن بلسان میں ملا کر اعلیل و خستیں کو مالش کریں ایضاً بورہ ارنی۔ شہد۔ روغن بلسان۔ سب کو ملا کر اعلیل پر مالش کریں ایضاً دار چینی باریک پس کر شہد میں ملائیں اور بوقت ضرورت عضو خاص پر طلا کریں ایضاً گاؤزر (سانڈ) کا پتہ شہد زنجبیل۔ فلفل سب کو ملا کر طلا کریں ایضاً عورت کے دودھ سے آلہ مخصوص پر مالش کرنا بھی لذت جماع کو بڑھاتا ہے۔ ایضاً کبابہ کے چبانے اور اعلیل پر طلا کرنے سے بھی لذت عظیم پیدا ہوتی ہے۔ ایضاً عاقر قرحا۔ زنجبیل کو باریک پس کر روغن زنبق میں ملا



کرموئے زہار و خستین و اعلیل پر طلا کرنا لذت جماع و طاقت جماع کو قوی کرتا ہے۔

## باب ۱۳۲ عورت کی شہوت تیز کرنے اور کم کرنے کے بیان میں

اگر عورت کے اندام نہانی میں سیر بھوٹی (ایک قسم کا سرخ کپڑا ہوتا ہے جو موسم برسات میں پیدا ہوتے ہیں) بے خبری کی حالت میں رکھی جاوے تو اس کی شہوت بھرطک اٹھے ایضاً اگر ایک حصہ زنگار اور نصف حصہ نوٹا درپانی میں ملا کر عورت اس سے استنجا کیا کرے تو اس کی قوت اور خواہش جماع بہت بڑھ جاوے اگر عورت کی شہوت قطع کرنی چاہیں تو چاہے کہ سرخ بیل کا ذکر خشک کر کے اس میں سے بقدر ایک مثقال عورت کو کھلائیں شہوت جماع منقطع ہو جاوے گی۔ ایضاً شجرہ مریم کو نعناع کے پانی میں تھمیق کر کے نصف نصف دانگ کی گویاں بنائیں اور ایک گولی عورت کو کھلائیں عورت کی شہوت کم ہو جاوے گی۔

## باب ۱۳۳ عضو خاص کی کمزوری کا علاج

زبد البحر (سمندر جھگ) پانی میں پین کر ذکر پر طلا کرنا اسکو موٹا کرتا ہے۔ صبح و محرب ہے ایضاً فلفل جنگلی پیاز و خولجاں۔ ہر ایک ایک جزو کتوری نصف جزو سب کو کوفتہ بختہ کر کے شہد و مرہ زنجبیل میں ملائیں اور ذکر کو پیلے شیر گرم بناو فاتر پانی سے خوب دھو کر پھر اس دوا سے خوب ملیں ایضاً چند چونک سے کسی بوتل میں ڈال کر گھوڑے کی بید میں اکیس روز تک دفن کر دیں تاکہ وہ تیل ہو جائیں پھر اس تیل سے ذکر کی مالش کیا کریں انشاء اللہ کامیابی ہوگی یہ صبح و محرب ہے۔ ایضاً جس کا عضو خاص چھوٹا ہو اور بڑا کرنا چاہے تو اس کو چاٹے کہ جماع کے وقت سے اس کو باو فاتر نیم گرم) سے اتنا ملے کہ وہ گرم ہو جاوے اور خون پھورٹ پڑے پھر اس پر مرہ زنجبیل کے شہد کی مالش کرے بقید و محرب ہے ایضاً فلفل سنبل مساوی کوفتہ بختہ کر کے زنجبیل کے مرہ کے شہد میں ملا کر مالش کیا کریں۔ ایضاً پیلے نیم گرم پانی سے آہ مخصوص کو یہاں تک ملیں کہ سرخ ہو جاوے پھر ایک بار ایک کاغذ پزفت رومی کا لپ کر کے ذکر پر لپ کریں اس کو کئی دفعہ کریں۔ ایضاً چونک کو کسی

شیشی میں ڈال دیں اور اس کے اوپر روغن زیتون ڈالیں جس سے وہ پوشیدہ ہو جاویں پھر چند روز دھوپ میں رکھ کر تیل صاف کر لیں اور اس سے چند روز متواتر مالش کرتے ہیں انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔ ایضاً نگیں کی جڑ باریک کر کے قنیت پر ملنے سے طوالت و غلظت میں بڑھتا ہے۔

## باب ۳۲ فرج بارد و سیلان رحم و ضیق و بدبو زائل کرنے کے علاج میں

تجربہ کاروں کا اتفاق ہے کہ ابتداً بخار میں جب کہ عورت کو بخار چڑھ رہا ہو اس سے جماعت کرنا لذت عظیم نختا ہے ایسے ہی جب کہ عورت زیادہ چلنے یا سواری وغیرہ حرکت کثیر سے تھکی و ماندی ہو و صبر یہ ہے کہ اس وقت رحم گرا جاتا ہے۔ جب رحم سرد ہوتا ہے تولذت نہیں آتی پس اگر رحم بلغم کی وجہ سے سرد ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ مازو پھٹکڑی۔ تخم ریحان۔ پوست انار۔ سب کو مساوی لے کر اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر شافہ بناویں۔ اور عورت ہر روز اس کو اپنے اندام نہانی میں رکھے ایضاً بکری کی پشم کا گرد وغبار بھی بطور شافہ استعمال کرنا رطوبت زنان کو خشک کرتا ہے۔ ایضاً مازو پھٹکڑی۔ تخم ریحان۔ پوست انار سب مساوی کو فترہ بنختہ کر کے گائے کے پتہ میں ملاویں پھر پشم کا ٹکڑا اس میں تر کر کے عورت اپنے اندام نہانی میں رکھے اور اس پر مداومت کر کے تمام رطوبات بلغمیہ خشک ہو جاویں گی۔ ایضاً سنبل العیب باریک پیکر عرق گلاب میں تر کریں اور عورت اس میں پشم تر کر کے فرج میں رکھے اس سے اس کی بدبو دور ہو جاتی ہے ایضاً اگر عورت پھٹکڑی کو پانی میں حل کر کے اس سے استجا کرتی رہے تو اندام نہانی تنگ ہو جاتا ہے ایضاً جفت بلوط و پوست انار کو پانی میں جوش دے کر کسی بڑے ٹب میں پانی ڈال کر عورت اس میں بقدر برداشت طبع بیٹھا کر سے چند روز کے استعمال سے رحم کی برودت زائل ہو جاوے گی اور نقص دور ہو جائے گا۔ ایضاً چھال درخت صنوبر چار حصہ تخم ریحان ایک حصہ سعد کوفی ایک حصہ مازو ایک حصہ سب کو کوٹ کر بہت سے پانی میں جوش دیں اور اس پانی سے عورت ہر روز طہارت کیا کرے انشاء اللہ کام یابی ہوگی۔ ایضاً پھٹکڑی سردہ سنباہ ہر ایک مساوی لے کر خوب باریک کریں اور عورت اس میں سے تھوڑا سا لے کر اندام نہانی پر چھڑکے تو بھی فائدہ حاصل ہو۔

## باب ۱۳۱ نابالغ لڑکی کے بالغ کرنے اور اس کے رحم سے

### خون جاری کرنے کے علاج میں

اگر کسی لڑکی کا خون حیض جاری کرنا چاہیں تو چاہیے کہ چونہ دوا بون دونوں کو ملا کر اس میں سے بقدر مدانہ باقلا اس کے فرج میں رکھے اور جماع کرے انشاء رحم کھل جاوے گا۔ اور خون جاری ہو جاوے گا ایضاً چونکہ خشک کر کے باریک پس کر لڑکی اپنے فرج میں شاف کرے اس سے بھی خون جاری ہو جاتا ہے۔

## باب ۱۳۲ ثیب کے بکر بنانے میں یعنی وطی کردہ شدہ عورت کو

### کنواری کی مانند کر دینا

شیخ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جاننا چاہے کہ عورت بیابھی ہوئی ہے یا کنواری تو چاہیے کہ وہ عورت رات کے وقت تھوم کی ایک تری چھیل کر فرج میں رکھے اگر صبح کے وقت تھوم کی بو اس کے منہ سے آوے تو سمجھ لو کہ بیابھی ہوئی ہے۔ ورنہ کنواری۔

اگر کوئی شخص بیابھی عورت کو غیر مستعملہ کنواری کی طرح کرنا چاہے تو چاہیے کہ کندر زبکری کی بیگنی دونوں کو کو فتمہ بیختہ کر کے بلسان کے پانی سے گوندھ لیں اور عورت اس سے شافہ کیا کرے بکر ہو جاوے مجرب ہے ایضاً مازو کوٹ کر پانی میں جوش دیں پھر اس میں روٹی کا پھوپھو بھگو کر عورت اپنے اندام میں رکھا کرے ثیب سے بکر ہو جاوے۔ ایضاً بیل کے پتہ میں صوف تر کر کے عورت فرج میں رکھے اور بکر ہو جاوے ایضاً مجیٹہ۔ پوست انار کو پانی میں جوش دیں اور اس کے پانی میں ریشم تر کر کے عورت مقام مخصوص میں رکھے۔ ایضاً پھٹکڑی۔ مازو، سنگ راسخ سب باریک پس کر پانی میں جوش دیں پھر اس پانی میں صوف تر کر کے عورت اپنے عضو مخصوص میں رکھا کرے ایضاً جفت بلوط۔ مازو ہر ایک مساوی پانی میں جوش دے کر اس سے طہارت کیا کرے دن میں دو تین دفعہ طہارت ہونی چاہیے ایضاً خرگوش کے پانی میں اندام نہانی میں رکھنے سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے ایضاً زنگار۔ مازو۔ پھٹکڑی ان

کو پانی میں ملا کر نورت اس سے طہارت کیا کرے چند روز کی مداومت سے باکرہ ہو جائے۔

## باب ۱۳۷ سلسل البول کے علاج میں

سلسل البول کے یہ معنی ہیں کہ بول مثانہ میں جمع ہونے سے پہلے ہی بے اختیار خارج ہو جاتا ہے۔ سبب اس کا مثانہ کا استرخاء (ڈھبلا ہونا) ہے۔ علاج خود کو تیز سر کر میں تین روز تک بھگور رکھیں۔ پھر چنے کھالیں اور سر کر پی لیں۔ نہایت مفید و مجرب ہے۔

تقطیر البول و حرقت البول کا علاج | تخم حرمل - زرنجیل - فرفرہ - دار چینی ، فلفل - ہر ایک مساوی خوب باریک پس کر سفون

بنائیں اور صبح و شام بقدر تین ماشہ لسی کے ساتھ استعمال کریں۔ معجون ماسک البول جو مثانہ کو طاقت دیتی ہے۔ اور معدہ کی رطوبات کو خشک کرتی ہے۔ صفت اس کی یہ ہے۔ سعد کوفی سینبل ہندی - مسطون خود دوس - کندر - بلوط بریان ہر ایک پانچ درہم شکر سفید پندرہ درہم کوفتہ بیختہ کر کے سفون بنائیں اور بقدر چار درہم صبح و شام استعمال کریں۔ ایضاً بلوط مقشر بقدر ایک کف تین رطل پانی میں جوش دیں پھر اس کا آٹا بنا کر بقدر دو ماشہ ہر روز استعمال کریں ایضاً سرخ کبوتر کا گوشت خشک کر کے اس کا ایک درہم دو درہم دار چینی کے ساتھ استعمال کریں نہایت مفید و مجرب ہے۔ ایضاً اشنان لانی ایک بوٹی ہے جس سے سحی بنتی ہے، کی جڑیں جدا کر رکھ بنائیں پھر اس میں پانی ڈال کر تھار کر نہا کر پیائیں چند روز میں آرام ہو جاوے گا۔ ایضاً بلوط مقشر کر کے اس کا آٹا بناویں اور ہر ایک روز بقدر سہ ماشہ کام میں لاویں۔ ایضاً لوبان سود کوفی - جفت بلوط ہر ایک مساوی سب کو باریک کر کے شہد میں ملائیں اور بقدر چھ ماشہ ایک وقت استعمال کریں ایضاً بکری کے کھروں کو جدا کر رکھ بنائیں اس میں سے بقدر ایک ماشہ پانی سے پیئیں۔ ایضاً گل سرخ خشک - آرد جو - دونوں کو باریک کر کے شہد و سر کر میں ملائیں اور ایک کپڑے پر ضا د کر کے عانہ رجاے موئے زہار پر رکھیں نہایت مفید ہے۔ ایضاً قرفل - حرمل ایک ایک درہم شکر سفید دو درہم سب کو سفون بنا کر بقدر سہ ماشہ کام میں لاویں ایضاً جفت بلوط ایک اوقیہ کے گرد رات و دن سر کر تیز میں

بھگو دیں پھر خشک کر کے اس میں سماق نصف اوقیہ طباشیر ۱۶ اوقیہ سب کو کل سرخ لبان ہر ایک ۱۶ اوقیہ سب کو کو فتر کر کے اور شکر سفید ملا کر سفون بنا دیں اور بقدر ۱۶ اوقیہ پانی کے گھونٹ کے ساتھ استعمال کیا کریں۔

**تقطیر البول کے لیے** | کلڑی رتر کے پتے پانی میں جوش دے کر پیں۔ تخم خیارین اور تخم ریحان کے استعمال سے بھی یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔

ایضاً جفت بلوط مقشر کا آرد بناویں اور اس میں سے بقدر ایک ماشہ پانی کے ساتھ کھاویں۔ معجون بلوط سلسل البول کے واسطے نہایت مفید ہے۔ ترکیب اس کی یہ ہے۔ شاہ بلوط سعد کوفی۔ اسطوخودوس۔ کشینتر۔ ہر ایک مساوی سب کو باریک پس کر وزن ادویہ کے برابر شکر سفید ملا کر شہد خالص میں گوندھ لیں اور ہر روز بقدر تین درم اس میں سے استعمال کیا کریں۔

## باب ۳۸ تنگی بول کے علاج میں

اس کے معنی یہ ہیں کہ بول کرنے کے وقت جلن اور درد محسوس ہوتی ہے اور بڑی تکلیف کے بعد چند قطرے نکلتے ہیں سبب اس کا مثانہ کی خشکی ہے۔ اگر خشکی کے ساتھ سردی کا اثر بھی ہوگا۔ تو پیشاب سفید بغیر خون کے ہوگا۔ علاج یہ ہے کہ آرد گندم کا شیرا رو دھی استعمال کریں اور مطبوخ حلبہ جس کا ہم نے ادویہ میں ذکر کیا ہے بھی مفید ہے۔ اور اگر خشکی کے ساتھ حرارت ہو تو پیشاب کا رنگ سرخ ہوگا۔ علاج کدو کے پتوں کا پانی شکر سفید کے ساتھ پینا نہایت مفید مجرب ہے۔ نیز گائے کا دودھ شکر سفید ڈال کر بطور غذا کے استعمال کریں۔

ایضاً چوہے کی مینگنی۔ لوبان اور سداب کے ساتھ باریک پس کر پانی کے ساتھ استعمال کرنا بھی اس مرض کو فائدہ دیتا ہے۔ ایضاً تھوم کو باریک پس کر روغن زیتون میں ملائیں اور اس کے ساتھ گندم کی روٹی کھائیں تین یوم تک ایسا کریں انشاء اللہ آرام ہو جائے گا۔ ایضاً گلغہ راہک چول کا نام کی جڑوں کا پانی پینا بھی عمر بول کے لیے نہایت مفید ہے ایضاً حب الرشاد کو پانی میں جوش دے کر تین دن تک اس کا پانی پینا بھی یہی کام دیتا ہے۔ ایضاً سداب کو دودھ میں جوش دے کر نہار پینا بھی نہایت مفید ہے فائدہ بکری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ

جو شخص کیلے کے پتے پر سات دفعہ حرن ظ اور ایک دفعہ حرن (د) لکھے اور اس کے ساتھ ہی تَقْدِ اسْبَالِ بَيْدَرٍ لکھ کر اس پتے کے عود کو دھونی دے پھر اس کو بطور تعویذ پاس رکھے تو انشاء اللہ اس مرض سے خلاصی پاوے ایضاً انجیر خشک، زیرہ سیاہ، دونوں کو خوب باریک پس کر پیٹ کے اس موقع پر جو گردوں کے متصل ہے صناد کریں انشاء اللہ بہت جلد بول کھل جائے گا۔

**عسر بول کا علاج** | جب کہ اس میں حرقت بھی ہو۔ شاہ بلوط ایک اوقیہ سرکہ میں بھگو کر خشک کریں پھر اس میں اتنا ہی طباشیر ملا کر کوفتہ بیختہ کریں۔ اس میں سے بقدر ایک درہم صمغ عربی کے پانی کے ساتھ استعمال کریں ایضاً۔ کلونجی چروٹی ہر ایک ایک درہم دونوں کو پانی میں گھوٹ کر پینا بھی اس مرض میں مفید ہے۔ ایضاً بیخ نرگس۔ تخم ترہیزک۔ نانخواہ سب کو باریک پس کر بقدر ایک درہم پانی کے ساتھ پینا بھی مفید ہے۔ ایضاً تخم خیار۔ تخم خر بوزہ۔ اصل السوس سب کو پانی میں جوش دیں اور صاف کر کے استعمال کریں۔ ایضاً خود سیاہ پکا کر اس کے شوربے سے روٹی کھانا بھی پیشاب کو کھولتا ہے ایضاً اس تنگی بول کے لیے جو سردی سے ہو علاج زنجبیل۔ قرفہ۔ قر نقل۔ عاقر قرحا۔ فلفل ہر ایک نصف اوقیہ چروٹی۔ ایک اوقیہ عاقل ۱/۲ اوقیہ اندر جوہر اوقیہ بڑی الائچی نصف اوقیہ سب کو کوفتہ بیختہ کر کے نصف رطل شہد خالص میں معجون بنائیں اور اس میں سے صبح و شام بقدر ایک درہم استعمال کریں نہایت مفید ہے۔ ایضاً باقلی جڑیں پانی میں جوش دے کر پینا بھی مفید ہے ایضاً تین یا پانچ کھیاں کسی کرچی میں روغن زیتون میں ملا کر پینا نہایت مفید صبح و مجرب ہے۔

## باب ۱۳۹ سنگرزہ و رگ نشانہ کے علاج میں

اس کے یہ معنی ہیں کہ قضیب میں ایک قسم کا سدہ پڑ جاتا ہے جو بول کو نکلنے سے روکتا ہے بعض اوقات اس سے مرعین ہلاک بھی ہو جاتا ہے سبب سدے کا کچے دانوں کا کھانا اور خراب اور غلیظ غذاؤں کا استعمال کرنا ہے علاج اول تو یہ ہے کہ قضیب کو استرے سے چھاڑیں مگر اس میں خطرہ ہے اس واسطے نسخہ ذیل استعمال کریں۔ امید ہے کہ سدہ دور ہو جائے گا

اور سنگریزہ بھٹ جائے گا۔ تخم خیارین۔ تخم خرلوزہ ہر ایک تین درہم۔ جب ارشاد ایک درہم صبر سقوطی ایک درہم شکر سفید ہوزن ادویہ سب کا سفوف بنائیں اور بقدر تین درہم استعمال کریں۔ ایضاً سنگدان مرغ (پوٹہ مرغ کا) ہر ایک پس کر پانی کے ساتھ پینا بھی فائدہ دیتا ہے۔ ایضاً تخم خیارین۔ تخم خرلوزہ۔ تخم ترہ تیزک۔ تخم ریجان۔ چردنچی۔ سعد کوفی۔ زیرہ سیاہ۔ ہر ایک مساوی کوفتہ بخیتہ کر کے اس میں سے بقدر دو درہم روغن زیتون سے کھانا بھی فائدہ کرتا ہے۔ ایضاً تھوم زکور روغن زیتون میں گھوٹ کر روٹی کے ساتھ استعمال کریں۔ ایضاً گدھے کی لید کا پانی نکال کر مریض کو تین یوم تک پلائیں نہایت مفید ہے۔ ایضاً ریوند چینی پانی میں جوش دے کر اس کا پانی پلانا بھی فائدہ کرتا ہے۔ ایضاً کلونجی حریل۔ زیرہ سیاہ ہر ایک مساوی اس سے بقدر دو درہم شہد روغن زرد میں ملا کر نہار کھایا کریں تو سنگریزہ ٹوٹ جاتا ہے ایضاً قند (سب) کے ہر دو گروے خود سیاہ کے شوربے کے ساتھ استعمال کرنے سے اس مرض کو بڑا فائدہ ہوتا ہے ایضاً کبوتر سرخ کی پنچال ایک درہم دار چینی دو درہم استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایضاً ریوند چینی۔ فلفل۔ کرفس ہر ایک ایک درہم پنچال کبوتر ۱۶ درہم سب کو ملا کر سہ چہد شہد خالص میں گوندھیں اور اس میں سے بقدر ایک مثقال استعمال کیا کریں۔

## باب اس شخص کا علاج ہو تو ن اور پیپ کا بول کر باہر

ترہ تیزک کے پتے پانی میں خوب پکائیں پھر صاف کر کے اس میں شہد اور گھی ملا کر استعمال کریں اٹھارہ ایک ہفتہ میں آرام ہو جاوے گا۔ ایضاً لکڑی (پنجابی میں لکڑی کو تر کہتے ہیں) کے پتے پانی میں پکا کر بقدر برداشت طبع یہ پانی پینا اس مطلب کے واسطے بہت مفید ہے ایضاً تخم گاجر بقدر ایک مثقال سفوف بنا کر ہر روز پانی کے ساتھ استعمال کریں سات دن تک کریں۔

## باب خروج مقعد کا نچ نکلنا کے علاج میں

علاج مازو بقدرہ تولہ لیکر بیت سے پانی میں جوش دیں پھر اس میں پھلگڑی بقدر

ایک تولہ ملا دیں اور کسی بڑے برتن میں ڈال کر مرین کو اس میں بٹھادیں۔ چند روز تک ایسا ہی کرتے رہیں یہاں تک کہ کانچ کا نکلنا موقوف ہو جائے ایضاً ریش بڑھ (درخت بڑھ کی داڑھی) جدا کر رکھنا دین پھر آرد جو آرد مائیں خرید ہر ایک مساوی ملا کر سب کو سرکہ میں گوندھ کر مفعد پر طلا کریں اور غذا میں سرکہ ملا لیا کریں ایضاً مرغ کی چربی سے صرم (کانچ) کی تدہین کرتے رہنا اس مرض کو زائل کر دیتا ہے۔

## باب ۱۲۲ وجع خصیتین (درد خضیمہ) کے علاج میں

درد خضیمہ و مثانہ و قروح مثانہ کا علاج بل کا پتہ موضع ماؤن پر طلا کریں ایضاً سرکہ کسی شیشی میں ڈال کر اس میں ایک زندہ بچھو ڈال دیں اور شیشی کو چند روز دھوپ میں رکھیں تاکہ بچھو اس میں حل ہو جاوے پھر اس سے مالش کیا کریں۔ ایضاً کھجور کی گٹھلی کا آٹا۔ تخم خطمی ہر ایک مساوی سرکہ میں پس کر ضاد کریں ایضاً کرب کے پتے جدا کرانڈے کی سفیدی میں پس کر موضع ماؤن پر طلا کریں ایضاً ورق سداب ورق اونٹ کٹارا کو پانی میں چوش دے کر اس پانی سے خضیموں کو دھویا کریں۔ ایضاً روغن زیتون میں ایک زندہ بچھو ڈال کر دھوپ میں رکھیں اکیس روز کے بعد صاف کر لیں پھر اس سے ذکر و خضیمہ پر مالش کریں۔ نیز اس کو آنکھ میں ڈالنے سے آنکھوں کا چوندھیا پن دور ہو جاتا ہے ایضاً آرد باقلا پکا کر پیلے جانے مخصوص پر روغن گل کی مالش کریں پھر وہ آٹا کسی کپڑے پر لگا کر لپیٹ دیں۔

## باب ۱۲۳ ذکر و فرج کے درد و زخم کے علاج میں

توتیا ہندی (رنیلا تھوتھہ) کو پس کر دس دفعہ پانی میں دھوئیں پھر روغن چنبلی و عرق گلاب میں ملا کر مالش کیا کریں ایضاً عدک الانباطر (ایک قسم کی گوند ہے) کو روغن زرد میں ملا کر مالش کریں ایضاً تخم السی باریک پس کر عرق گلاب میں ملا کر طلا کریں۔ بس مفید ہے ایضاً ان کے زخموں کا علاج مرتک سہاگہ دونوں کو پس کر مائیں ملائیں اور تھوڑا سا آگ پر گرم کر کے اس سے مالش کیا کریں۔



## باب بوا سیر کے علاج میں

بوا سیر جمع ہے باسور کی یہ ایک قسم کی عروق رگیں ہوتی ہیں جو مقعد کے کنارے کے گوشت پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سے مقعد میں خارش پیدا ہوتی ہے جس سے اس جگہ پر ایک آگ سی لگی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس کا اثر رطوبت سمیہ کے سبب سے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے جس سے تنگی نفس، سانس کا پھولنا، پست ہمتی، شکستہ دلی پیدا ہوتی ہے اور اس سے رنگ زرد بدن کست، تہج چہرہ و چشم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ رگیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ سیالہ رہنے والی (جامدہ رہنے والی) اور سبب ان کا دوروی خلطیں ہوتی ہیں جو ردی غذا کے فضلوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو فضلہ مائئہ یعنی وہ ردی خلط ہے جو جگر سے گردوں کی طرف لیس دار سفید پانی کے ساتھ اترتی ہے اور یہ بوا سیر سیالہ کا سبب بنتی ہے۔ دوسری وہ ردی خلط ہے جو جگر سے طحال کی طرف سیاہ خون کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بوا سیر جامدہ کا موجب ہوتی ہے بوا سیر سیالہ کا علاج یہ ہے کہ تھوم و نمک کوٹ کر شہد میں ملائیں اور ضماد کریں اور تہا وقت شہد میں تھوم ملا کر استعمال کیا کریں یہ قسم بہ نسبت جامدہ کے علاج کو جلدی قبول کرتی ہے جامدہ کا علاج قطع ہے۔ مگر اس میں خطرہ ہے اور ماہر و حاذق حکما کا کام ہے۔ اس واسطے نسخہ ذیل کا استعمال کریں۔ نوشادر زریخ، نورہ نائاب رسیدہ (چونہ) ہر ایک مساوی لے کر باریک پس لیں۔ پھر مسوں پر نشتر لگا لگا کر دوائی مذکور ان پر چھڑکتے جائیں یہ دوائی ان کے اندر گھس جائے گی اور ان کو کھائے گی اگر درد ہو اور برداشت نہ ہو سکے تو گرم گھی سے ٹکور کریں جب درد کی تسکین ہو جاوے تو پھر وہی کام کریں اور درد کی حالت میں ٹکور کرتے جائیں یہاں تک کہ تمام سے کٹ جائیں پھر نمک و تھوم پس کر اس پر ضماد کریں ایضاً تھوم زنجبیل، سداب ہر ایک مساوی کو باریک کر کے شہد میں ملا کر کھانے اور مسوں پر ضماد کرنے سے ہر دو قسم کی بوا سیر سیالہ و جامدہ دور ہو جاتی ہے۔ غذا اس مرض میں چوزہ مرغ کا شوربہ اور گندم کی روٹی ہونی چاہیے اور ہر ایک شرش چیز اور سرد ترانذیہ و ادویہ سے پرہیز کرنا چاہیے ایضاً صمغ عربی ایک مثقال، ایک ادقہ روغن زرد کے ساتھ کھاویں ایضاً زرد کوٹری ایک

عدد عرق لیموں میں گلا کر استعمال کیا کریں چند روز کے استعمال سے کمال فائدہ ہوگا ایضاً  
 سرسوں کی جڑوں میں پانی میں گوشت کی طرح پکا کر اس کا پانی تیار پینا بھی فائدہ کرتا ہے ایضاً  
 تخم گندنا ایک حصہ۔ شہد خالص دو حصہ۔ گندنا کوٹ کر شہد میں ملائیں اور صبح و شام لہا تو لہ استعمال  
 کیا کریں۔ نہایت صبح و مجرب ہے ایضاً زنگار۔ نیلا تھو تھہ۔ بارود ہر ایک ایک حصہ موم  
 سفید دو حصہ سب کو آٹھ حصہ روغن زیتون میں ملا کر آگ میں پکائیں اور طبع کی حالت میں تھوڑا  
 سا گھی اور سرکہ بھی ملا دیں جب مرہم کا قوام ہو جاوے تو تار لیں اور بوسیر پر لگایا کریں ایضاً  
 مسوں کی جڑوں کو کسی مضبوط دھاگہ سے باندھ لیں پھر سوئی کے ساتھ داغ دیں کئی دفعہ داغ  
 دیں یہاں تک کہ مسے زائل ہو جاویں۔

تھوم اور شہد کا کھانا اس بیماری میں تمام چیزوں سے زیادہ مفید ہے۔  
 ایضاً کاسنی کو آگ پر بھاڑ کر اس میں شکر سفید ملا کر صبح پینا بھی مفید ہے ایضاً  
 تھوم مقشر۔ جوز مقشر۔ تخم جو جیر ہر ایک مساوی لوبان ذکر نصف حصہ سب کو باریک پیکر  
 شہد خالص میں ملا دیں اور کچھ روغن زردھی شامل کریں اور اس میں سے ہر صبح و شام بقدر  
 ایک اوقیہ استعمال کیا کریں ایضاً برگ ریحان کا پانی تھوڑا شہد میں ملا کر پکائیں جب پانی خشک  
 ہو جاوے تو شہد استعمال کریں۔ ایضاً تخم خنظل بقدر ایک درہم روغن زرد میں استعمال  
 کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایضاً تھوم تر۔ سرکہ تیز۔ نیلا تھو تھہ۔ فلفل۔ تخم خرنوب سب کو مرہم  
 کی شکل میں لاکر ضماد کرنا بھی بوسیر کو قطع کرتا ہے۔ ایضاً فلفل۔ جائفل۔ قریون حب اسلاطین  
 سناکی سب مساوی کوفتہ بخیتہ کر کے شہد میں ملائیں اور بقدر ایک درہم ہر روز استعمال کریں۔

بوسیر رچی کا علاج

پہلے مسہل لیں پھر تریاق جس کا ذکر معجزات کے بیان  
 میں آئے گا استعمال کریں۔ ایضاً پہلے مسہل لیں

اس کے بعد لعاب بہدہ میں شکر سفید ملا کر چند روز تک استعمال کرتے رہیں۔

## باب عرق النساء و رنگین واؤم کے علاج میں

یہ ایک قسم کا درد ہوتا ہے۔ جو ران سے لے کر قدم تک پہنچتا ہے۔ اس کا سبب برودت و

یہ سنت کی کثرت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے واسطے عربی دنیہ کی ایسے چکی اگلا کر پینے کا حکم کیا کرتے تھے۔ تین روز میں مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے یہ دوا کی ایک ہزار تین سو آدمی کو بتلائی سب اچھے ہو گئے اور اگر دنیہ کی چکی شہد اور روغن زرد ملا کر استعمال کریں تو زیادہ مفید ہے۔ اس مریض کے علاج کا کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ اخلاط روہ فضلات فاسدہ کو بدن سے خارج کریں اور اس کے واسطے سب سے عمدہ طریقہ تھے کر دانا ہے جب بدن صاف ہو جاوے تو خردل یا سمین بری کو گھوٹ کر ان بلکہ ساری ٹانگ پر ضاد کرنا چاہئے سب سے زیادہ مفید دوائی اس مریض میں درباسی ہے۔ اس کے بعد جنگلی چنبلی ہے اس کے بعد گندھک املہ سار ہے ان اشیاء کو مریض کو حمام میں داخل کرنے کے بعد اس کے موضع ماؤن پر ضاد یا طلا کر اوپر بعض حاذق حکماء کا قول ہے کہ شیطان جہدی اس مریض میں سب سے عمدہ علاج ہے اس کی ٹکڑی کو فتنہ بختہ کر کے اس میں چربی ملا کر ان پر بلکہ ساری ٹانگ پر ضاد کریں پھر مریض کو حمام میں لے جاویں جب پسینہ آنے لگے اور مریض عضو میں لذت محسوس کرنے لگے تو اس دوا کو تاریں اور عضو کو روغن گندھ سے مالش کریں اور ٹانگ کسی موٹے گاڑے کے پڑے میں لپیٹ دیں اگر مریض کو اٹھا کر حمام میں داخل کریں گے تو وہ اپنے پاؤں پر چلتا ہوا انگلیگا اگر بالفرض کچھ درد باقی رہ جاوے تو ایک ہفتہ کے بعد پھر یہ تدبیر کریں ایضاً خردل و چربی کا ضاد بھی اس ترکیب سے ہی فائدہ دیتا ہے فریون و چربی بھی اسی تدبیر بالا سے اس مریض میں مفید ہے۔ ایضاً بکری کی میٹھی سرکہ میں پکا کر طلا کرنا بھی عرق النساء کے واسطے مفید ہے ایضاً جوز الطیب کا عرق ایک مثقال پینا بھی اس میں نہایت مفید ہے ایضاً جمیہ بقدر درہم کو فتنہ بختہ کر کے شہد میں ملا کر استعمال کرنا بھی ہر ایک کی وجہ المفاصل کو زائل کرنا ہے خصوصاً عرق النساء کو تو نہایت فائدہ کرتا ہے ایضاً پودینہ ہندی گھونٹ کر طلا کرنے سے عرق النساء کو دور کرتا ہے ایضاً دانہ حمرل بقدر پرا مثقال ہر روز پانی کے ساتھ چھانکنا بارہ روز میں فائدہ کرتا ہے۔ ایضاً قشر درخت جوز ہندی راخروٹ کا چھلکا یا سمین بری ر جنگلی چنبلی، ہر دو مساوی کوٹ کر تیار جگہ پر طلا کریں۔ رات ساری رہنے دیں صبح کے وقت دوا دور کریں اس جگہ سے ایک قسم کا پانی بہتا ہوگا پھر اس پر گرم گھی سے ٹھوکر کریں اور کسی مرہم سے

زخم کو بھردیں ایضاً کعب رٹخنہ کے چارہ انگل اور پرداخ دینے سے بھی کمال فائدہ ہوتا ہے  
ایضاً کسی قسم کی بوسیدہ ہڈی لے کر خوب باریک کر کے اس میں سانپ کی چربی ملاویں اور بیس  
روز تک درد کی جگہ پر ملتے رہیں ایضاً چکادر کے گوشت کو کسی روغن میں پکا کر اس تیل کی  
مالش کریں۔ ایضاً شجرہ مریم خشک کریں اس میں بقدر ایک درہم آرد گندم میں ملا کر اس کی  
روٹی کھایا کریں صحیح و مجرب ہے۔

## باب ۲۶ فالج اور ناک کے علاج میں

فالج کے معنی یہ ہیں کہ انسان کا تمام بدن یا ایک حصہ بے حرکت ہو جاتا ہے اس کا سبب  
برودت و پیوست کی کثرت ہوتی ہے علاج پہلے مسہل سودا، دیں۔ پھر روغن زیتون۔  
روغن گندم میں نمک۔ تھوم۔ مصطکی ملا کر آگ پر چڑھائیں جب ادویہ کا اثر تیل میں آجاوے تو  
اس سے مریض کے بدن پر خوب زور سے مالش کریں اور غذا وہ کھاویں جو ہم نے سکتے کے  
باب میں ذکر کی ہے۔ مالش کے بعد مریض کے بدن پر کپڑا اڑھا دیا کریں یہی علاج کئی دفعہ  
کرتے رہیں۔ انشاء اللہ شفا ہو جاوے گی۔

## باب ۲۷ برص کے علاج میں

تعریف یہ ایک قسم کی سخت سفیدی تمام بدن میں یا اس کے بعض حصہ میں ہوتی ہے  
جو تمام بدن میں سرایت کر جاتی ہے۔ اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام بدن گھیر لیتی ہے  
یہ نہایت ردی اور مزمن بیماری ہے اس کا سبب خلط بلغمی کی کثرت ہوتی ہے جو بدن  
میں مستحکم ہو جاتی ہے۔ علاج پہلے بلغم کا مسہل لیں پھر بٹا سپاز گرم خاکستر میں بھونیں  
اور اس کا پانی نچوڑ کر اس میں تخم تریب کو خوب پیسیں اور رکھ چھوڑیں اور موضع ماؤت پر  
مالش کریں ایک رات دن مالش کے بعد پھر گرم پانی سے غسل کیا کریں اگر ایک ہفتہ تک اچھا  
ہو جاوے تو فبہا ورنہ پھر مسہل لیں پھر اسی دوا کی مالش کریں اس طرح ہر ہفتہ یا ماہ میں  
دو دفعہ مسہل لیا کریں اور مسہل لے کر طلا کیا کریں یہاں تک کہ آرام ہو جائے اور غذا اس

حالت میں عمدہ گندم کی روٹی اور یکساہہ دنبہ کا گوشت جس میں گرم مصالحہ خوب پڑے ہوئے ہوں استعمال کیا کریں نیز ہر روز شہدا و قہوم ملا کر کھایا کریں اس سے تدریجاً بہت جلد آرام ہو جاوے گا۔

ایضاً حنظل کی جڑ۔ جال کی جڑ۔ ہر دو مساوی دونوں کو خوب پیس کر سیاہ گائے کے دودھ میں ملاویں اور بکری کو ذبح کر کے اس کی گرا گرم جلد اتار کر اس میں وہ دودھ ڈال دیں اور خوب ملا کر اس میں سے تھوڑا سا پی جائیں اور باقی بدن پر مل کر دھوپ میں بیٹھ جائیں اور اس جگہ کو مریض کو بہنا دیں انشاء اللہ ایک دن میں اچھا ہو جاوے گا۔ ایضاً جنگلی چنبیلی کی جڑ۔ اکاسن بلی۔ حنظل کی جڑ سب کو خشک کر کے باریک پیس لیں پھر شہد خالص میں گوندھ لیں۔ اور ہر روز بقدر ایک درہم کھایا کریں۔ ایضاً اباہیل کا گوشت لے کر اس میں تھوڑا سا چونہ اور روغن لگاویں اور دھوپ میں رکھ دیں یہاں تک کہ خشک ہو جاوے پھر روغن زیتون کسی کوزہ میں ڈال کر اس میں وہ سوکھا گوشت ڈال دیں اور کوزے کو کسی کوزے میں دفن کر دیں ایک ہفتہ کے بعد نکال کر اس میں خردل (رائی) رگڑ کر برس پر لگایا کریں ایضاً تخم اطریلاں (کاگ جنگا) جال (ون کا درخت) سرکہ تیز۔ شہد۔ کاگ جنگا اور جال کی جڑ کو سرکہ و شہد میں رگڑیں اور برس کی جگہ کو رگڑ کر اس پر وہ دوا اطلاق کریں ایضاً زعفران پیس کر گندھک محلول میں شامل کریں اور برس کی جگہ پر طلا کریں۔ اسی روز آرام ہو جاوے گا۔ ایضاً شیطرح ہندی۔ جھینڈہ۔ تخم ترب ہوزن سب کو سرکہ میں گھوٹ کر برس پر طلا کریں اور دھوپ میں بیٹھیں پھر غسل کر ڈالیں۔ ایضاً زنگار۔ شہد۔ زنگار کو شہد میں حل کر کے برس کی جگہ کو گرم پانی سے دھو کر طلا کریں انشاء اللہ آرام ہو جاوے ایضاً زرنخ۔ توتیا۔ تخم ترب سب ہوزن باریک پیس کر روغن زیتون میں ملاویں اور برس کی جگہ کو رگڑ کر طلا کریں تین روز میں آرام ہو جاوے گا۔ ایضاً زنگار تخم تخم ترب باہی سب ہوزن باریک پیس کر سرکہ تیز میں ملا دیں اور برس کی جگہ کو کسی کپڑے وغیرہ سخت چیز سے رگڑ کر طلا کریں۔ ایضاً تخم پنواڑ کو سیاہ گائے کے بول میں ڈبو دیں اور چالیس روز تک کسی گڑھے میں دفن کر رکھیں۔ پھر نکال کر خوب باریک پیسیں۔ پھر اس میں شہد ملا کر برس پر طلا کریں انشاء اللہ سات دن میں آرام ہو جاوے گا ایضاً برس کا علاج

کتابت سے اسماذیل کاغذ پر لکھ کر ان کو پانی سے دھو دیں اور اس پانی سے غسل کریں اسماذ  
یہ ہیں کہ بعض جمع کو تین گھنٹی رات گزرے ہوئے لکھے۔

## باب ۱۲۸ جذام کے علاج میں

علامت اس مرض کی یہ ہے کہ آواز میں حدت و غنت ہوتی ہے یعنی آواز تیز ہو جاتی ہے  
اور باوجود اس کے ناک میں بولتا ہے۔ یہ بیماری ناک کے اطراف کو کھاتی ہے انگلیوں کا  
گوشت کم ہو جاتا ہے طبیعت میں یوست آجاتی ہے۔ حرارت رو بہ کاغذ ہو جاتا ہے سبب  
اس کا مادہ سودا کا مستحکم ہونا ہوتا ہے۔ علاج اس کا چھ ماہ تک ممکن ہے اس کے  
بعد ایک کمال تک مشکل ہے اس کے بعد محال ہے۔ پس جب ان علامتوں میں سے کوئی علامت  
ظاہر ہونے لگے تو علاج کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور سب سے پہلے خلط سوداوی کا  
استفراغ کرنا چاہیے۔ پھر معجون ذیل کا استعمال کرنا چاہیے۔ ٹوم۔ منقشر۔ کنوار۔ گندل کا  
گودہ ہر ایک مساوی ہر دو کو پیس کر روغن زرد۔ شہد خالص میں ملائیں اور آگ پر قوام معتدل  
کریں اور اس میں بقدر برداشت طبع سوتے وقت استعمال کیا کریں۔ غذا اس حالت میں  
چوزہ مرغ کا شوربہ اور گندم کی روٹی اور شہد و روغن زرد ہونی چاہیے اور اس کے ماسوا  
پر ہنر کرنا چاہیے اور ہر ہفتہ میں ایک دفعہ ایک ہینہ میں دو دفعہ مرض کی قوت و ضعف کے  
موافق اسہال لیا کریں کہتے ہیں کہ اگر صرف شہد خالص و روغن زرد عمدہ ہر ایک مساوی لے کر  
ان میں گائے کا تازہ دودھ ملا کر پی کریں تو اس مرض اور ہر ایک سوداوی مرض کو رفع کرتا  
ہے۔ ایضاً حریل کا پودا سارا کا سارا مع جڑوں وغیرہ کے اکھاڑ کر پانی میں جوش دیں  
اور اس پانی سے نہایا کریں اور سر پر بہت پانی ڈالا کریں شفا ہو جاوے گی۔ ایضاً معجون ذیل  
کا استعمال کریں کہ نہایت مفید ہے۔ زیرہ سفید۔ زیرہ سیاہ۔ کشنیز۔ کلونجی، گندم بریان۔  
نخود بریان خشخاس۔ سمسم۔ بادیان۔ فلفل۔ زنجبیل۔ قزقل۔ اندر جو۔ جوز الطیب۔ قحوم۔  
الانچی خورد۔ حریل۔ صعتر بزرگتان۔ نانخواہ۔ چرونچی ہر ایک ایک حصہ زعفران بہ حصہ شہد  
خالص۔ زیتون۔ روغن زرد۔ ایک مساوی ادویہ ماقبل کو قوتہ بیختہ کر کے باقی اشیاء

سانگہ میں ملا کر کسی روغن دار برتن میں ڈال کر ایک ہفتہ دھوپ میں رکھ چھوڑیں پھر اس سے  
بغیر ایک اوقیم ہر روز صبح کے وقت کھانا شروع کریں۔ جذام کے علاوہ یہ معجون تھیل العقل  
کثرت سودا، وبلغم، جرب، دیدان، ریح، درد جگر، ورم طحال و سواس کو بھی فائدہ کرتی ہے۔

## باب ۱۲۹ جنون و سواس کے علاج میں

حکیم جالینوس کا قول ہے کہ گدھ کا دماغ کھانا صاحب جنون کو کمال فائدہ دیتا ہے نیز  
مرغ کے سر کی کلغی (تاج) کا بخور (دھونی دینا) بھی اس مرض میں مفید ہے۔ ایضاً سورہ کوٹ  
کر پانی میں پکائیں اور وہ پانی مریض کو پلائیں امید ہے کہ تین یا سات روز کے پینے سے  
نفع میں معلوم ہوگا۔ جسے جو شخص شیطان رجیم کے سواس سے بچنا چاہے اسے چاہئے  
کہ دعا ذیل پڑھتا رہا کرے دعا یہ ہے یا اللہ الذی یبصر فی الباطن یا اللہ الذی یخفی العظیم  
العظیم الرؤوف الکریم یا اللہ العلیٰ القیوم القابض علیٰ کل نفس بما کسبت حل بیئتی و  
وین عددی دیگر عزالی کی خاتم جس کا ذکر گذر چکا اور آیت الکرسی اور ان الذین اتقوا  
اذا مسہو طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ایک سونے یا چاندی یا تانبے  
یا قلعی کے برتن میں لکھ کر پانی میں مٹا اور حل کر کے تین روز صبح خالی پیٹ پیئیں۔

## باب ۱۳۰ اختلام کے دفع کرنے میں

اس مرض میں اگر مریض سوتے وقت سورہ السجاد پڑھ لیا کرے تو اختلام سے محفوظ رہے۔  
ایضاً اگر سوتے وقت انسان اپنے دائیں ران پر آدم اور بائیں ران پر حوا لکھ لیا کرے۔

لے ترجمہ اے اللہ نگہبان و حفاظت کرنے والے رحم کرنے والے اے اللہ زندہ رکھنے والے زمی کرنے والے عظمت  
مہربان و فضل کرنے والے اے اللہ زبیر اور قائم رکھنے والے خود ہمیشہ قائم رہنے والے ہر نفس پر اس چیز کے ساتھ  
جو کچھ کہ اس نے کہا میرے اور میرے دشمن کے درمیان حائل ہو کہ ترجمہ پر ہیزگار لوگوں کو شیطان کی طرف سے  
جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے ۱۲

## باب ۱۵۱ ملعونہ یعنی آکلہ گوشت خورہ کے علاج میں

گھگرویل کی جڑ ایک تولا سے الفار زرد ایک رتی۔ دونوں کو کوٹ کر ملا دیں اور دن بہ  
کی چربی میں شامل کر دیں۔ پھر زخم کے منہ کو گرم روغن زرد سے چھڑک کر اس پر اس دوا میں  
سے بقدر ایک رتی دھوڑ دیں۔ کئی روز تک ایسا ہی کرتے رہیں انشاء اللہ تعالیٰ یہ مرض  
ملعون دفع ہو جاوے گی ایضاً زنگار ایک اوقیہ۔ سم الفار زرد ایک ماشہ دونوں کو ملا  
کر سفوف سا بنالیں۔ پھر زخم کے منہ پر شہد چھڑ دیں۔ اور اس پر دوا مذکورہ میں سے بقدر  
حاجت جھڑک دیں مگر خیال رہے کہ یہ دوا تازہ گوشت یا رقیق جگہ پر نہ پڑے دوا میں  
اس جگہ پر پڑنی چاہیے جو گلی ہوئی ہو۔ شہد اور زردی بیضہ ملا کر آکلہ کے منہ پر لگانا بھی مفید ہے  
ایضاً اگر گوشت خورہ ہاتھ میں ہو تو اس کو تیزاب سے جگہ دینا چاہیے۔ اگر تیزاب میسر  
نہ ہو تو زرنیخ اصفر (بہڑتال زرد) اس پر دھوڑنی چاہیے ایضاً بسکھرہ بوٹی ایسے روز اکھاڑ کر  
لا دیں کہ اس روز نہ ہوا ہونہ۔ بادل اکھاڑ کر سایہ میں خشک کریں اور بارہک پیس کر خبیث  
زخم کے منہ پر چھڑکیں ایضاً خود سیاہ پانی میں پکائیں۔ جب پھول پکائیں تو خود کو اس  
پانی میں پیس کر آکلہ کی جگہ پر لگا دیں انشاء اللہ آرام ہو جاوے ایضاً جنگلی پیاز کی جڑ۔  
تخم کبر۔ تخم درباس۔ تخم گھگرویل بوسیدہ ہڈی سب کو پیس کر روغن زرد اور تھوڑا سا پانی  
مائل کر پکادیں۔ جب مرجم کا سا توام ہو جاوے تو امار لیں اور اس سے تدہین کرتے  
رہا کریں۔

## باب ۱۵۲ بہت جننے والی عورت کے بیان میں

اگر عورت حاملہ ہونا نہ چاہے تو چاہیے کہ ایک درہم کافور کھا جاوے پھر کبھی بچہ نہ  
جنے۔ ایضاً خصی دینے کا بول پینے سے عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا۔ ایضاً گدھے کے کان  
کی میل پینے سے بھی حمل قرار نہیں پکڑتا ایضاً اگر عورت نفعاً کے پتے اپنے پاس رکھے تو جب



تک پتے اس کے پاس رہیں گے حمل نہیں ہوگا ایضاً اگر عورت کا سنی کے پھولوں کو پانی میں گھوٹ کر حین کے بعد پی جاوے تو حاملہ نہ ہو۔ ایضاً اگر عورت خرگوش کا دل نغناغ کے ساتھ پاس رکھے تو حاملہ نہ ہو ایضاً تخم ارند کا حلو بنا کر کھانے سے بھی حمل قرار نہیں پکڑتا ایضاً اگر مرد جماع کے وقت تھوڑی سی انیون اھیل کے منہ میں رکھ کر جماع کرے تو نطفہ فاسد ہو جاوے اور تولید کے قابل نہ رہے ایضاً اگر مجیٹھ پکا کر اس کا پانی بنا کر پی جاوے تو سہ گز حمل نہ ٹھہرے ایضاً اگر تھوڑی سی پھٹکڑی پانی میں حل کر کے مرد اپنے ذکر پر طلا کرے یا عورت تھوڑی سی پھٹکڑی پسینے کو فرج میں رکھ لے اور پھر مقاربت کریں تو حمل نہ ہونے جس عورت سے کثرت جماع کیا جاوے وہ عقیمہ (بانجہ) ہو جاتی ہے۔ ایضاً اگر مرد و عورت جماع سے پہلے روغن سے تدہین کر لیا کریں۔ تو حمل نہ ٹھہرے ایضاً اگر رو سیاہ مرغی کے پتے کو ذکر پر طلا کر کے جماع کیا کرے تو عورت بھی حاملہ نہ ہو ایضاً اگر عورت کسی بچے کے اس دانت کو جو زین پر نہ گرا ہو کسی کپڑے میں باندھ کر پاس رکھے تو سہ گز حاملہ نہ ہو ایضاً اگر عورت ایک اوقیہ سندروس کھا جاوے تو کبھی حاملہ نہ ہو۔ ایضاً اگر عورت ہر مہینے حین کے بعد خمیر کابل پی لیا کرے تو حمل سے رہ جاوے ایضاً سداب و نغناغ کا پانی پینے سے بھی عورت کو حمل نہیں ہو سکتا۔ ایضاً اگر سلطان پیکر گدھی کے دودھ سے ٹیکہ بناویں اور عورت کے بائیں بازو پر باندھیں تو حین تک وہ بندھا رہے گا عورت حاملہ نہ ہوگی ایضاً اگر عورت آنکھ بند کر کے ازند کا ایک دانہ نکل جاوے تو ایک سال تک حاملہ نہ ہو سکے دو دانہ نکلے تو دو سال تک تین نکلے تو تین سال تک چار نکلے تو چار سال تک حاملہ نہ ہو ایضاً اگر چکاڈر کا سر عورت کے سر کے نیچے رکھا جاوے تو اس روز حمل قبول نہ کرے ایضاً اگر عورت اونٹ کے منہ کی جھاگ (جگالی) جو مستی کے وقت اس کے منہ سے نکلتی ہے پی جاوے تو سہ گز حاملہ نہ ہو ایضاً چکاڈر کو ذبح کر کے اس کے پیٹ کی آٹش دور کریں اور باقی کستی ٹیکہ میں بھرا کر عورت بطور سر ہانہ استعمال کیا کرے جب تک وہ ٹیکہ اس کے سر کے نیچے رہا کرے گا حاملہ نہ ہوگی۔

**بات ۱۵۳ اس بات کے معلوم کرنے میں کہ آیا عورت حاملہ ہے یا نہیں**

صاحب الخواص نے کہا ہے کہ اگر معلوم کرنا چاہیں کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں تو عورت کو

چاہیے کہ ایک دانہ تھوم چھیل کر اس میں چند جگہ سوئی سے چھیدے اور رات کے وقت اندام نہانی میں رکھ کر سو جاوے اگر صبح کے وقت اس کی بومنہ سے آوے تو جان لے کہ عالم نہیں ہے ورنہ حاملہ ہے اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ حمل نرسے یا مادہ تو عورت کے ہر دو ٹخنوں کو دیکھیں اگر وہ صاف اپنی اصلی حالت پر ہوں تو حمل نرسے اگر سبز ہو گئے ہوں تو جان لو کہ مادہ ہے دیگر اگر عورت کا دائیں طرف بھاری ہو تو نرسے ہوگا اور اگر بائیں طرف بھاری ہوگا تو مادہ ہے ورنہ اگر عورت خرگوش نرسے تو اس کے ہر دو خضیہ کے ساتھ کھا جاوے تو لڑکا جنے اور اگر خرگوش مادہ کا پنیہ کھاوے تو لڑکی پیدا ہو صاحب خواص کا قول ہے کہ اگر وہ عورت جس کو حمل نہ ٹھہرتا ہو یہ معلوم کرنا چاہے کہ میرا حمل کبھی ٹھہرے گا یا نہیں تو اسے چاہیے زراوند حرج کو گائے کے پتہ میں پیس کر محض سے فارغ ہونے کے بعد ایک رات حمل کرے اگر صبح کو اس کا ذائقہ موندہ میں معلوم کرے تو جان لے کہ حاملہ ہو جاوے گی ورنہ نہیں۔

## باب ۱۵۲ حمل نہ ہونے کے علاج میں یعنی حمل ٹھہرانے

### کے بیان میں

یاد رہے کہ حمل کا نہ ٹھہرنا کئی وجوہات سے ہوتا ہے بسھی تو رحم میں کسی قسم کی گرہ پڑ جاتی ہے۔ کبھی رحم کا منہ منقلب ہو جاتا ہے۔ کبھی رحم اپنی جگہ سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اگر رحم میں گرہ پڑھ گئی ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ پھول کلفہ خشک کر کے آتش جو میں پکائیں اور تھوم ڈال کر چند روز استعمال کریں اور غذا و نہایت پاکیزہ ہونی چاہیے اگر رحم اٹا ہوا اونچا ہوا ہو تو عورت کو چاہیے کہ حلیہ کو پانی میں جوش دے کر اس کے پانی سے حمل کرے اور پیٹ اور پیٹھ پر بھی ملے۔ کبھی رحم کے ایوان سست ہو جا کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ نطفہ جلد گر جاتا ہے اور عورت مجامعت کے بعد ہولناک خواب دیکھتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ گندنا کی جڑیں روغن زرد میں جوش دیں اور بقدر برداشت طبع اس روغن کو پی جاویں اور پیٹ اور پیٹھ پر اس روغن کی ماسش بھی کریں پھر عورت کا خاوند اس سے مجامعت کرے

ایضاً اگر سیاہ گائے کا پتہ روغن زرد میں ملا کر اس میں صوف کا ٹکڑا تر کر کے عورت  
 حمل کرے۔ پھر تین روز کے بعد خاوند اس سے مجامعت کرے انشاء اللہ باردار ہو جائے  
 اگر چربی و گوشت کی زیادتی سے رحم کا منہ بند ہو جس کے سبب سے نطفہ قرار نہ پاتا ہو تو یہ  
 نسخہ کام میں لاویں۔ سیاہ گائے کا پتہ۔ زیرہ کرمانی۔ مصطکی۔ تخم حنظل سب کو کوٹ کر  
 روغن بلسان روغن سوسن میں ملائیں اور صوف بھگو کر عورت اس سے شافہ کرے پانچ روز  
 تک یہ عمل کرنے کے بعد پھر اس کا خاوند مجامعت کرے انشاء اللہ حاملہ ہو جاوے اگر  
 رحم میں تشنج ہو تو اس کا علاج یہ ہے۔ بکری کی چربی سے روغن نکال کر اس میں گائے  
 کا دودھ ملاویں اور عورت اس سے اپنے فرج کی تدہین کرے چند روز کے بعد خاوند سے  
 مجامعت کرے اگر رحم میں رتخ ہو جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ عورت مجامعت کے  
 ساتھ ہی نطفہ گرا دیتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ گائے کے پتے میں اسبغول پیکر صفوف  
 میں لپیٹ کر عورت چند روز حمل کرے پھر خاوند اس کے ساتھ مجامعت کرے ایضاً  
 زنگار۔ قفل۔ حب الرشاد۔ زیرہ سفید۔ زیرہ سیاہ۔ خرگوش زکا پنیر۔ نوشادر سب مساوی  
 کوفتہ بنجیہ کر کے شہد خالص میں ملا کر حصین سے پاک ہونے کے بعد چند روز تک اس دوا میں  
 سے حمل کیا کرے ایضاً ہدیس کے گوشت کا شوربہ بہار پینا بھی یہی فائدہ دیتا ہے ایضاً  
 کلفہ باریک پس کر مارا الشغیر میں پکا کر چند روز استعمال کرنے سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے  
 ایضاً زنجبیل۔ قفل۔ جوز الطیب سب سموزن فرنیون ہر حصہ سب کو باریک پس کر گائے  
 کے گوشت میں ملا کر بھونیں اور حصین سے پاک ہونے کے بعد عورت استعمال کرے چند روز  
 کے بعد اس سے مجامعت کی جاوے انشاء اللہ حاملہ ہو جاوے ایضاً بیضہ مرغ کو ہل کر  
 خاک کریں۔ اور وہ خاک پانی میں ڈال کر نہاری جاویں۔ کامیابی ہو جاوے ایضاً مہلب و قفل  
 ہر دو مساوی کوٹ کر شہد میں ملاویں اور حصین سے پاک ہونے کے بعد عورت چند روز  
 اس کو بطور شافہ کام میں لاوے پھر اس سے مجامعت کی جاوے ایضاً بلی کا پتہ سے کر  
 اس میں صوف تر کریں اور کسی قدر روغن بلسان۔ روغن نارویں۔ روغن پان ملا کر عورت  
 اس سے حمل کرے بفضلہ تعالیٰ حاملہ ہو جاوے ایضاً اگر عورت ایام حصین میں

ہر روز تین دفعہ مرد کے بالوں کی دھونی لے۔ پھر حیض سے پاک ہونے کے بعد خاوند اس سے مجامعت کرے حاملہ ہو جاوے ایضاً ابن اسحاق کہتا ہے کہ اگر دانہ ارنڈ کو ایک رات و دن پانی میں تر کر کے اس میں عورت صوف بھگو کر حمل کرے۔ پھر خاوند اس سے مجامعت کرے۔ تو حاملہ ہو جاوے ایضاً اگر خرگوش کا پنیر لے کر جماع سے پہلے اس کا حمل کر کے اس سے مجامعت کی جاوے تو انشاء اللہ حاملہ ہو جاوے ایضاً اگر عورت کتے کے بول میں صوف تر کر کے حیض کے بعد حمل کرے اور پھر خاوند اس سے مجامعت کرے حاملہ ہو جاوے ایضاً خرگوش کا پنیر۔ اور اس کی میٹھی اور شہد ہر ایک مساوی باہم خلط مط کر کے اس میں صوف تر کر کے عورت تین روز تک حمل کرے اور ان ایام میں ہاتھی دانت کا برادہ بھی بقدر ایک ماشہ ہر روز استعمال کرتی رہے۔ پھر اس سے مجامعت کی جاوے حاملہ ہو جاوے ایضاً سوسن کی جڑ خرگوش کی میٹھی۔ بادام کی گوند ہر ایک دو درہم سب کو باریک کر کے روغن پان میں ملائیں اور اس میں صوف تر کر کے عورت نو روز تک حمل کرتی رہے پھر اس سے مجامعت کی جاوے حاملہ ہو جاوے ایضاً زعفران ربیعہ مصطکی ہر ایک دو درہم موم سفید چار درہم روغن نار دیں یا روغن گل آٹھ درہم روغن موم کو گلا کر باقی ادویہ کو فنتہ کر کے ملا دیں اور مرہم کا سا قوام کر کے اٹھا رکھیں۔ پھر اس میں سے صوف تر کر کے عورت اس سے حمل کیا کرے۔ چند روز کے بعد اس سے مجامعت کی جاوے ایضاً کا پھل۔ خرگوش کے بال۔ سداب خشک ہر ایک مساوی لے کر فنتہ بخیتہ موم سفید کے ساتھ ملا کر قرض بنا لیں اور حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت اس سے دھونی یوں نہایت جلدی حاملہ ہو جاوے صحیح و مجرب ہے ایضاً اک کی جڑیں بارہ یک کر کے پانی میں ڈالیں اور اس میں گندم کے دانے ڈال کر جوش دیں جب دانے پھول جاویں نکال کر خشک کریں اور پیکر اس کا علو ابنا کر تین روز تک نہارا استعمال کرے انشاء اللہ حاملہ ہو جاوے ایضاً خرگوش نر کی گھیری اور اوجھری اگر حیض کے بعد بھون کر کھاوے تو حاملہ ہو جاوے ایضاً اگر عورت کو اس کی لاطلی میں گھوڑی کا دودھ پلایا جائے اور اس کے ایک گھنٹہ بعد اس سے مجامعت کی جاوے تو حاملہ ہو جاوے۔ صحیح و

مغرب ہے۔ ایسا اگر عورت جماع سے پہلے نعناع بستانی کا حمل کر لیوے تو حاملہ ہو جاوے۔ ایسا زردینخ احمر کا پھل ہر ایک مساوی لے کر کوفتہ کر کے موسم سفید کے ساتھ مل کر غسل کے بعد تین روز تک عورت اس سے دھونی لیوے پھر اس سے جماعت کی جائے۔ ایسا زراخ قبرسی، شاخ حریل، زنگار سراتی، لوبان زہر ایک ایک منتقال سب کو کوفتہ کر کے حادیوں کے پیچ میں ملائیں اور کپڑے پر لگا کر ہر روز صبح اور شام اس سے دھونی دیں نوروز تک ایسا ہی کرتے رہیں۔ اس کے بعد عورت کا خاوند اس سے جماعت کرے انشاء اللہ حاملہ ہو جاوے۔ ایسا پتہ ہرن میں ایک بتی تر کر کے رحم میں حمل کرنے سے بھی یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا سبہ کے عضو تناسل کو جلاویں اور اس کے ساتھ میتھی اور گندم بریاں ملا کر باریک پیسیں اور شہد میں ملا کر ہر روز رات کے وقت تھوڑا سا چاٹا کریں۔ تین دن تک ایسا کرنے سے کامیابی ہو جائے گی۔

**باب ۱۵۵ جنین راقد یعنی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں سویا ہوا**

**ہو اس کے بیدار کرنے کے بیان میں**

حب بطم پیکر نمک ملا کر دس روز تک استعمال کریں، ایسا آیات ذیل کو کسی صاف برتن میں زعفران کے پانی سے لکھیں اور بارش کے پانی اور مینڈس کے بول سے دھو کر نہا پس انشاء اللہ بیدار ہو جائے گا آیات یہ ہیں۔ **اَدَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيِنَا وَجَعَلْنَا لَكَ نُورًا اَيْتِي فِي النَّاسِ قَالَ مَنْ نَجِي الْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يَحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَبِئْسَ خَلْقٍ عَلَيْهِمْ وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ...**

**ایسا انڈا چھ عدد لے کر توے پر بھونیں اور اس میں تھوڑا سا گرم**

**مصالحہ ملاویں جب اس میں سے خوشبو نکلنے لگے تو ان میں روغن زیتون ڈال دیں**

لے ترجمہ کیا وہ شخص جو مر رہا ہے ہم نے زندہ کر دیا اور اس کے لیے نور بنایا لوگوں کے درمیان پھرتا ہے کہتا ہے کافر کون شخص بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے کہہ دے کہ وہ ذات زندہ کرے گی جس نے ان کو پبی دفعہ پیدا کیا تھا وہ ہر پیدائش کو جانتا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ گزر چکا ہے

جب اچھی طرح سے زیتون میں پک جاویں تو نہار کے وقت استعمال کریں تو انشاء اللہ پیٹ کا بچہ سدا رہو جائے گا ایضاً اسما ذیل سات پتوں پر لکھیں اور پانی سے دھو کر پیئیں اسما یہ ہیں۔ وَذَالتون اذ ذہب معاضباً فظن ان کن نقدر علیہ فنادی فی الظلمت ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم عافوا یولیکنا من بعثنا من مرکیدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ہ ان کانت الی صیحة واحدہ فاذا هو جمیع لداینا محضرون ہ وَنُفِخ فی الصور فاذا هو قیام یتظرون و ان یمسک اللہ بصری فلا کاشف الا هو ط ۔۔۔۔۔۔ ایضاً زیر سیاہ شمر مریم سدا بہر ایک ساوی سب کو پانی میں پکا کر عورت تین روز تک پٹے اگر بچہ مردہ ہو گا چلا پڑے گا اور اگر زندہ ہو گا ہوش میں آجائے گا۔ ایضاً عروق صفصاف، لوبان مبعہ، سمندری جھاگ، زنگار، ہر ایک ساوی سب کو باریک پیس کر روغن زیتون میں ملا کر اس میں صوف تر کر کے عورت حمل کرے ایضاً مرغی کا انڈا پکا کر اس میں نمک ملا کر تین روز تک کھانے سے بچہ بیدار ہوتا ہے ایضاً سرکہ تیز، ہندی، کتے کی دم جلی ہوئی ان کو کتیا کے دودھ میں ملا کر عورت سات روز تک پٹے۔ انشاء اللہ تعالیٰ پیٹ کا بچہ بیدار ہو جائے گا ایضاً برواق کو لیکر کسی تو سے پر جلا لے اور زیانہ، راس الہنش کو لے کر برواق کی ہمراہ پیس لیں اور شہد میں ملا کر عورت تین دن تک استعمال کرے صحیح و مجرب ہے۔ ایضاً ار جاتی، حروب، الکلاب، دونوں کو ملا کر پانی میں بھگو دیں اور

اور ذوالنور یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب غصبہ کی حالت میں اپنی قوم میں سے چلے گئے پس (گو یا کر) اس نے گمان کر لیا کہ ہم اس پر غالب نہ آئیں گے جب ان کو پھلی نے نکل لیا تو اندھیرے میں پکارا کہ کوئی معبود و مطلوب تیرے سوا برحق نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں پس ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور غم سے نجات دی (کافر قیامت کو) کہیں گے ہائے افسوس کس نے ہم کو لیٹنے کی جگہ سے اٹھا دیا یہ وہی بات ہے جسکا ہم نے وعدہ دیا ہے اور رسولوں نے سچ کہہ دیا تھا نہ ہوگی مگر ایک ہی صحیح پس یکا یک وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے اور اگر اللہ تجھے تکلیف پہنچائی تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور نہیں کر سکتا۔

ساری رات ستاروں کی روشنی میں پڑا رہنے دیں صبح کے وقت صاف کر کے وہ پانی استعمال کریں تین دن تک کے استعمال سے بچہ بیدار ہو جائے گا۔

## باب ۱۵۶ جنین کے بیدار کرنے میں

زیرہ سیاہ، سرخ اور دونوں کو خوب باریک پیسے اس میں سے تھوڑا سا ہر روز استعمال کریں تین یومیہ استعمال سے کمال فائدہ ہوگا ایضاً عورت پیٹ کے بل لیٹ جائے اور ایک تو اگرم کر کے پیٹ پر ٹکڑ کر کے انشاء اللہ ایک دفعہ کے استعمال سے بیدار ہو جائے گا اس کے ساتھ زیرہ سیاہ کو باریک کر کے شہد میں ملا کر رکھے اور وقت ضرورت اس میں تھوڑا سا چاٹ لے صحیح و مجرب ہے۔

## باب ۱۵۷ جنین و مشیمہ یعنی جھلی کے ساقط کرنے کے بیان میں

خربزہ کے بیج پانی میں جوش دے کر پینے سے بفضلہ تعالیٰ جنین اور مشیمہ ساقط ہو جاتے ہیں ایضاً دارچینی، گوگل سرخ، دونوں کو پانی میں جوش دے کر تھوڑا سا پینے اور اسی پانی میں صوف تر کر کے جمول کرنے سے جنین اور مشیمہ ساقط ہو جاتے ہیں صحیح اور مجرب ہے۔ ایضاً ایک حصہ کتیا کا دودھ اور ایک حصہ شہد ملا کر پینے سے جنین و جھلی ساقط ہو جاتے ہیں ایضاً کرنب کے بیج پانی میں جوش دے کر اس پانی کو کسی ٹونٹی میں ڈال کر فرج میں داخل کرنے سے جنین مردہ و مشیمہ خارج ہو جاتے ہیں ایضاً بزرانکرنب، بزرانجیار، رائی سفید، گوگل ازرق ہر ایک مادی لے کر کوفتہ بنختہ کر کے روغن میں ملا کر جمول کرنے سے جو کچھ پیٹ میں ہو ساقط ہو جاتا ہے ایضاً کتاب فردوس میں لکھا ہے کہ گھوڑے یا گدھے یا خچر کے کھرن کی دھونی دینے سے جنین مردہ و مشیمہ سب ساقط ہو جاتے ہیں ایضاً ماکی کبتا ہے کہ اونٹ کا بول اور شراب پلانے سے بھی یہی مدعا حاصل ہوتا ہے ایضاً زراوند کوٹے ہوئے حب الرشاد ہر ایک ایک حصہ دونوں کو باریک کوٹ کر گائے کے پتے میں گوندھ لیں اور عورت اس کو بطور شافہ

کام میں لادیں **ایضاً** اگر عورت بچہ کو دائیں ہاتھ اپنے قدموں کے نیچے رکھے تو فوراً وضع حمل ہو جائے۔ **ایضاً** شحم خنظل کے حمل کرنے سے بچہ پیٹ میں مرجاتا ہے۔ **ایضاً** کسی صوف میں زعفران پیٹ کر حمل کرنے سے بھی یہی کام نکل آتا ہے **ایضاً** اگر عسر ولادت ہو رہا ہو تو روغن قطران کے حمل کرنے سے سہولت ہو جاتی ہے **ایضاً** کبریت و مینگ کا دھواں دینے سے بھی بچہ پیٹ کا ساقط ہو جاتا ہے **ایضاً** اگر عورت ایک اونٹنیہ سندرس پی جاوے تو جو چیز پیٹ میں ہو خواہ مردہ خواہ زندہ گر پڑے **ایضاً** سیاہ کتیا کے دودھ میں سندرس کو گوندھیں اور بیٹھریے کی کھال پر اسی نقطہ ڈال کر عورت اس کھال کو اپنے اور پر لٹکائے جنین گر پڑے **ایضاً** تم کرفس۔ فریبون۔ بنار السماء ان سب کو ملا کر نہا پینے سے جنین ساقط ہو جاتا ہے۔

## باب ۱۸۵ جنین کی حفاظت میں

بائیں ہاتھ کے ذریعہ نیزے کی نوک سے گندم کا ایک دانہ گدھے کی جلد پر گاڑیں۔ اور چہرہ ابھرتے ہوئے عورت اپنے بازو پر باندھ رکھے تو جس عورت کا بچہ مدت وضع حمل سے پہلے گزر جاتا ہو اس تدبیر سے محفوظ رہے گا۔ **ایضاً** اسماء ذیل لکھ کر اپنے پاس رکھے

افق مریق تزریق وثیق لابدا ولا نریخ اسکن ایہا المودید بیت عادو ثمود ونقرنی الارحام  
 ما نشاء ائی اجل مستی ... **ایضاً** اسماء ذیل کسی تعویذ پر لکھ کر عورت اپنے پیٹ پر باندھے رکھے۔

سواللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یمسک السموات والارض ان  
 تزولا ولین نالنا ان امسکھما من احد من بعدہ ان اللہ کان حلیمًا غفورًا ویمسک  
 السماء ان تقع علی الارض الا بادنہ ان اللہ بالناس کرؤف رحیمہ اللہ حافظ

لے ترجمہ ٹھہر جائے بچے سے قوم ثمود کے رب کی قسم ہے اور تم ٹھہرتے نہیں صوں میں جو کچھ کہ ہم چاہتے ہیں وقت مقرر تک لے ترجمہ شروع اللہ ضمن الرحیم کے نام سے تحقیق اللہ نے روکا ہے آسمانوں اور زمینوں کو گرنے سے اور اگر وہ ڈگمگا جائیں تو کوئی بھی اس کے سوا ان کو تھما نہیں سکتا بے شک اللہ تعالیٰ ڈھیل دینے والا ہے اور



مَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْحَامِلِ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ قَالَ اللَّهُ الَّذِي  
 أَمْسَكَ السَّمَاءَ أَمْسِكَ مَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْحَامِلِ وَرَبُّ بَطْنٍ عَنْ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا رَبَّنَا  
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ أَشْطَطْنَا فَنُصِرْنَا إِلَىٰ آدَمِ  
 فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مِنْ سُحُورِ الْبَلَدِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ  
 لَيْسَ فِي كَافِرِيهِمْ تَلَاةٌ مِائَةٌ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعَارًا هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ  
 فَبَشِّرْنَهَا يَا سَمُوعُ وَمَنْ وَرَاءَ السَّمُوعِ يَعْقُوبُ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

## باب ۱۵۹ عسر نفاس یعنی تنگی ولادت کے علاج میں

اگر جنے میں تنگی ہو اور دیر لاحق ہو تو اسما ذیل کسی صاف برتن میں لکھ کر عورت کو  
 مغفرت کرنیوالا ہے اور اس نے تمھارا ہوا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے مگر اپنے حکم کے ساتھ  
 بیشک اللہ لوگوں پر مہربان اور رحم کرنیوالا ہے جو کچھ کہ اس نے تحریر کو اٹھانیوالی کے پیٹ میں ہے  
 اللہ اس کا نگہبان ہے اللہ زمین اور آسمانوں کو احاطہ کرنیوالا ہے وہ ذات پاک جس نے آسمان کو  
 تمھارا ہوا ہے اس کو بھی تمھارے گاجو کہ اس تعویذ کو اٹھائے والی کے پیٹ میں ہے اور ہم  
 نے مضبوط کیا ان کے دلوں کو جب کہ وہ کھڑے ہوئے اور کہا ہمارا بھی وہی رب ہے جو  
 آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے ہم اسکے سوا کسی کو عبادت کیلئے نہیں پکاریں گے اگر ہم اسکے سوا  
 کسی دوسرے کو پکاریں گے تو ہم نے ظلم کی کہی پس ہم نے غار میں ان کے سالوں کل ٹھونکے  
 اللہ کے حکم سے اس کے دائیں بائیں سے حفاظت کریں گے شب و روز کے مصائب کی برائی ہے  
 اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ ہر مونث کے حمل میں ہوتا ہے اور جو کچھ کہ رحموں میں پیدا ہوتا ہے بیشک اللہ  
 آسمانوں اور زمینوں کی چھپی باتیں جاننے والا ہے اور وہ غار میں تین سو نو سال ٹھہرے رہے  
 رب مجھے حکمت بخش اور نیکیوں کے ساتھ ملا پس ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کو  
 حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہما السلام کی خوشخبری دی فرشتے نے  
 جواب دیا اسی طرح تیرے رب نے حکم کیا ہے بے شک وہ حکمت و علم والا ہے

پلاویں انشاء اللہ تکلیف آسان ہو جاوے گی۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ  
 الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ وَسُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ كَا نَهُمْ یَوْمَ یُرَوْنَهَا كَمَا  
 یَلْبَثُوْنَ اِلَّا عَشِیَّةً اَوْ ضَعَاہَا كَا نَهُمْ یَوْمَ یُرَوْنَ مَا یُوعَدُوْنَ لَمْ یَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ  
 ۱۰۰۰۰۰۰۰ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب عورت کو دروزہ شروع ہوا اور جنے

میں ہو تو کسی نئے برتن میں آیات ذیل لکھ کر پلاویں۔ لَقَدْ كَانَ فِیْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ  
 مَا كَانَ حَدِیثًا یُفْتَرٰی وَلٰكِنْ تَصْدِیْقًا الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیْلًا لِّكُلِّ شَیْءٍ قَدْ هَدٰی وَرَحْمَةً  
 لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ كَا نَهُمْ یَوْمَ یُرَوْنَهَا كَمَا یَلْبَثُوْنَ اِلَّا عَشِیَّةً اَوْ ضَعَاہَا اِذَا السَّمَاءُ اُنشَقَّتْ  
 وَاِذْ تُرِیُّهَا وَحَقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِیْهَا وَتَخَلَّتْ ابن عربی نے  
 روایت کی ہے کہ عسر ولادت کے وقت آسمان ذیل کسی نئے برتن میں لکھا اور دھوکہ اس  
 سے عورت کا چہرہ دھلایں نیز عورت وہ پانی پی جائے ولادت آسان ہو جائے اسماء یہ  
 ہیں۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَمِیْدُ الْكَرِیْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ  
 الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِیْمُ الْكَرِیْمُ كَا نَهُمْ یَوْمَ یُرَوْنَهَا كَمَا یَلْبَثُوْنَ اِلَّا عَشِیَّةً  
 اَوْ ضَعَاہَا كَمَا یَلْبَثُوْنَ اِلَّا عَشِیَّةً اَوْ ضَعَاہَا كَمَا یَلْبَثُوْنَ اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ۔  
 اس کا ترجمہ پیدے گزر چکا ہے۔ ایضاً جنگلی گائے کا سینگ عورت پر لٹکانے سے فی الفور

دردزہ سے نجات ہو جاتی ہے۔ ایضاً بھوکا دایاں یا ننھ عورت کے قدموں کے نیچے  
 رکھنے سے ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے ایضاً بیل کے پتے میں تین قیراٹ حنظل کا

لے شروع اللہ رحمن الرحیم کے نام سے اللہ وہ ذات پاک ہے کہ کوئی لائق عبادت نہیں مگر  
 وہی علم و حکمت والا پاک ہے عرش کا صاحب عظمت کا رب سب قسم کی تعریف اللہ ہی کو خاص  
 ہے جو جہانوں کا پیدا کنندہ ہے گویا کہ وہ جس دن (قیامت کو برپا) دیکھیں گے نہ ٹھہر سکیں  
 گے سواریات کے بلے اس دن کے دوپہر کے جس روز وہ قیامت کا وعدہ سچا ہوتا  
 دیکھیں گے گویا کہ وہ دن میں سے ایک گھڑی بھی نہ ٹھہر سکیں گے۔ بہرہنچا نا ہے لوگوں  
 کی طرف سے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم مان لے گا اور حق بجالا بیگا۔  
 اور جب زمینیں پھیلائی اور پھینک دیں گی اور جو کچھ کہ اس کے اوپر ہے خالی ہو جائیں گی ۱۲۱ نم

شیرہ ملا کر اس میں صوف تر کر کے حمل کرنے سے فی الفور بچہ باہر آجاتا ہے اور روزہ سے آرام آجاتا ہے جالینوس کا قول ہے کہ عسر ولادت کی حالت پر سیا و شاپ و فودنج ہر ایک ایک حصہ لے کر تھوڑے سے پارہ کے ساتھ سحق کر کے اس میں سے ایک درہم تینل درہم شراب کے ساتھ عورت کو پلائیں عسر ولادت و روزہ سے نجات ہو جاوے ایضاً اگر ابابیل کا گھونسا گرم پانی میں مل کر صاف کریں اور اس سے مقدار چالیس درہم عورت کو عسر ولادت کی حالت میں پلائیں آسانی ہو جاوے ایضاً اگر عورت خرگوش کی اوجھری کھا لیوے تو عسر ولادت آسان ہو جاوے ایضاً سماذیل کو کسی برتن میں لکھ کر عورت کو دھو کر پلائیں نیز اس پانی سے عورت کے ہر دوران فرج کو دھو ویں انشاء اللہ آرام ہو جاوے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا بِسْمِ اللّٰهِ النَّانِیْ بِسْمِ اللّٰهِ الْمَعَانِیْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کَاذْهُوَ یَوْمٌ یُّرْوَنَهَا اِلٰی ضِعَاہَا کَا لَہُمْ یَوْمٌ یُّوَدْنَ اِلٰی الْفَا سِقُوْنَ اِذَا السَّمَآءُ اُنشَقَّتْ ہ اِلٰی وَاَنْفَقَتْ ہٰذِہِ الْجَاہِلُ مَا فِی بَطْنِہَا وَتَخَلَّتْ کَمَا تَخَلَّتْ اُمَّةٌ مُّحَمَّدٍ اِس کَا ترجمہ قریب پہلے گزر چکا ہے ایضاً گدھ کے پروں کی دھونی دینے سے فی الفور بچہ باہر آجاتا ہے ایضاً شب یمانی عورت کے دائیں ران پر باندھنے سے جننے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ اس طرح گدھ کے پروں کو عورت کے تدموں کے نیچے رکھنے سے سہولت ہو جاتی ہے۔ ایضاً مینڈھے کے پتے کو گاگر گرم پانی کے ساتھ پینا فی الفور بچہ نکل دینا ہے۔ ایضاً تعویذات میں سے ایک تعویذ چمک پتھر پر لکھ کر عورت کے بائیں قدم کے نیچے رکھ دیں اور دوسرا تعویذ ایک گنگھی پر لکھ کر دائیں قدم کے نیچے رکھ دیں۔

چمک پتھر پر لکھ کر بائیں قدم کے نیچے رکھنے کا تعویذ  
گنگھی پر لکھ کر دائیں قدم کے نیچے رکھنے کا تعویذ

۲	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱۰	۶

د	ط	ب
ح	ھ	ز
ح	ا	و

ان مع الحصر

دیگر ایک گنگھی پر کلمات ذیل لکھ کر عورت کی داہنی ران پر باندھنے سے فائدہ ہوگا  
 أَخْرِجْ أَيُّهَا الْجَيْنُ مِنْ بَعْنِ أُمَّكَ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَدْعُكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَمْ  
 يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَفْظَ حَىٰ تَك۔

## باب ۱۶۱ درد رحم کے علاج

صبح سزنی ایک مثقال ایک ادقیہ روغن زرد کے ساتھ ہر روز استعمال کرنا چند روز میں  
 آرام کر دیتا ہے ایضاً انا ترشس کا چھلکا دونوں کو خوب باریک کر کے کسی کپڑے میں  
 باندھ کر اور تھوڑا سا شہد شامل کر کے حمل کرنے سے درد رحم کو افاقہ ہوتا ہے ایضاً  
 ایسغول کونتہ روغن زرد میں صوف تر کر کے حمل کرنے سے آرام ہو جاتا ہے۔

## باب ۱۶۲ حیض جاری کرنے کے بیان میں

نوشادر فرنیون، شب یمانی، سعد کونی، سب کونتہ بیختہ کر کے پانی میں گوندھ لیں  
 پھر عورت اس کو بطور شافہ کام میں ملاوے خون کھل جاوے ایضاً الوبان مصطکی، خزامتہ  
 قرظہ، ہر ایک مساوی کونتہ بیختہ کر کے درخت دن کے پانی سے گوندھ کر بطور شافہ  
 کام میں لانے سے کھل جاتا ہے ایضاً زنگار بقدر دورتی شہد میں ملا کر چلٹے سے خون  
 جاری ہو جاتا ہے ایضاً حرمل باریک کر کے شہد میں ملا کر چلٹے سے خون بستہ کھل  
 جاتا ہے۔ ایضاً نوشادر فرنیون، زنجفر، تخم تربہ، دانہ حرمل، دانہ کنیر، سب کو ملا کر دھونی  
 لینے سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ ایضاً مجیٹھ ایک تولہ، میتھی ایک تولہ دونوں کو پانی میں  
 جوش دے کر تین روز تک پینے سے خون جاری ہو جاتا ہے ایضاً الوبان فرنیون،  
 دونوں کو باریک کوٹ کر حمل کرنے سے یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے ایضاً صرف مجیٹھ  
 کوٹ کر پانی میں جوش دے کر پینا بھی یہی فائدہ دیتا ہے۔

# کثرت طمث کا علاج یعنی حیض کے خون کی کثرت

## کو روکنے کے بیان میں

آرد گندم - مازو - دونوں کو خوب باریک کر کے شراب میں پکا میں اور عورت کی نان پر صناد کریں انشاء اللہ خون بند ہو جائے ایضاً سرسبہ - گل سرخ - مازو - سب کو باریک کر کے پانی میں ڈبو دیں اور اس سے صون تر کر کے حول کرے یہ کام ایک دن میں دو دفعہ کیا کرے ایضاً پوست انار - مازو انکو تخم ریجان - یار ریجان کے شیرہ میں گوندھ کر صون تر کر کے حول کرنے سے خون کی کثرت کم ہو جاتی ہے - ایضاً مائیں خورد - باریک کر کے عرق گلاب میں ملا کر کھانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے - ایضاً جاد شیردست - قنطریق ہر ایک مساوی کوفتہ بنجیہ کر کے بکری کے پتے میں ملا کر شاف کرنے سے بند خون جاری ہو جاتا ہے -

## باب ۶۲ کثرت طمث کا علاج کتابت و تعویذ و دوا سے

دفع مسدس ذیل کو چمکا ڈر کے خون کے ساتھ عورت کے کپڑے پر لکھو دیں خون بند ہو جاوے گا - اس مسدس کے ساتھ اسماء ذیل بھی لکھیں مسدس یہ ہے -

ب	ط	د	و	ا	ح
ا	د	ب	ح	د	ط
د	ح	ط	ا	ب	و
ح	ا	و	د	ط	ب
و	ب	ا	ط	ح	د
ط	د	ح	ب	و	ا

عزیمت یہ ہے

برہیتہ کریہ تلبیہ طوران برجل برجل ترتب  
ترقب برہش علمش خرطیل حوطیل حوطیل  
بلتھود برشان کظہید نموشلخ برہیو  
بشکبدخ ترمز الغلیظ قبرات عیام اکبدھو

لَوْ شِئْنَا مَوْجِدٌ وَحِجْرُ الْعَمْدِ لَمَّا خُوذَ عَلَيْكُمْ سَعْنَةُ لَيْسَ كَمَثَلِ شَيْءٍ وَهِيَ السَّمِيعَةُ  
البصیر ما فعلتتم - ایضاً اگر کثرت طمث والی عورت گدھی کا دودھ پی لے تو  
خون بند ہو جاوے ایضاً - صغ عربی ایک شقال ایک اوقیہ روغن زرد میں ملا کر پینے  
سے بھی خون بند ہو جاتا ہے ایضاً دم الاخون بقدر ۳ ماشہ پس کر پانی کے ساتھ پینے سے

کثرت طمٹ کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا رکھا اور ریت پر پانی چھڑک کر عورت اس پر سوئے اور اس میں سے کچھ حصہ فرج کے نیچے سکھ کثرت طمٹ کے واسطے نہایت مفید ہے۔ ایسا گندھک آملہ سار کی دھونی لینے سے بھی ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا شتر مرغ کے انڈے پر تعویذ ذیل لکھ کر اس کے گرد کلمات ذیل تحریر کرنے کے بعد عورت کے داہنے ران پر لٹکا دیں کلمات یہ ہیں اَجِبُوا يَا رُوحَانِيَةَ هَذَا الْخَاتَمِ بِرَفْعِ الدَّمْعِ عَنْ هَذِهِ الْاُدْمِيَةِ بِحَقِّ

هَذِهِ الْاَسْمَاءِ الْوَحَاۤءِ الْعَجَلِ ۱۲ السَّاعَةِ ۲

دیگر طفل ابیض پر مذکورہ ذیل کلمات لکھ کر ہندی ملا کر شہد میں حل کریں اور سات روز اس معجون سے روزہ افطار کریں کلمات یہ ہیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ يَا اللّٰهُ طَسْم طَسْم يَكْلِي بِنَاءٍ مُّسْتَقْرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ وَقِيْلَ يَا اَرْضُ اَبْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقَفِي

ب	م	ح	م	ج	ق	ف
م	ج	ق	ف	ب	م	ج
ق	ح	م	ج	م	ت	ف
م	ت	ن	ق	ج	م	خ
ج	م	خ	م	ت	ت	ق
ق	ف	ق	ج	م	خ	م
م	خ	م	ت	ت	ق	ج

الْاَرْضِ يَا اللّٰهُ ۲ قف ۲ قف ۲ قف ۲ اَيْهًا ۲ مَرَّ كَمَا وَقَفَ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ

تَعَالَى وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَعْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ۔ تین بار دیگر ربط مثلث جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے ایک کاغذ پر لکھ کر اس کے گرد کلمات ذیل کر کے معنی کی گوردن میں لٹکادیں کلمات یہ ہیں۔ يَكْلِي بِنَاءٍ مُّسْتَقْرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ۔ اس کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ اَوْ يُضِيْعُ مَاءُهَا عَوْرًا اَقْلَنَ تَسْطِيْرًا لِّهٖ طَلْبًا يَا اَرْضُ اَبْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي وَغِيضَ

۱۷ ترجمہ ہر ایک بات کے لیے ایک جگہ قرار ہے۔ عنقریب تم جان لوگو کے اور کہا گیا اسے زمین نکل لے پانی اپنا اور اسے آسمان اٹھالے اور پانی زمین کے اندر چلا گیا اور خدا کا حکم پورا ہوگا اسے خون تو اللہ کے حکم سے رک جا جیسا کہ خدا پاک کا عرش اللہ کے ہی حکم سے ٹھہرا ہوا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کی شکلیں انہی کے مکانات میں بدل ڈالتے ۱۲ ترجمہ اگر اس کا پانی کھڑا ہو جائے تو ہرگز نہ نکال سکے بس تو جو کچھ تیری طرف وحی کیا گیا ہے۔ مضبوط پکڑے یقیناً تو سیدھے راستے پر ہے ۱۲ متر

اَلْمَاءُ فَاَسْتَمْسِكُ بِالْاَيْدِيْ اَوْحٰى اَيْلِكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ — فاجر اور ظالم مرد یا عورت کا خون جاری کرنے کے لیے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور خدا پاک کی طرف خالص توبہ سے رجوع ہوں سورہ قمر کی ابتدائی گیارہ آیات اقترب سے بیکر علیٰ امیر تک ایک کپڑے پر لکھ لیں اور شہد کے چھتے سے موم لے کر جسے ابھی آگ سے گرم نہ کیا جا چکا ہو اس کا نام لے کر جس پر عمل کرنا منظور ہو اس موم کو لپیٹیں پھر اسے دھو کر شہد سے بالکل صاف کر دیں پھر اس موم کی اس شخص کا خیال رکھ کر ایک مورتی بنائیں اور یہ عمل بدھ کے روز اس وقت شروع کریں جبکہ سورج مریخ کے برج میں ہو پھر تانبے کی سوئی سے اس تصویر کے پیٹ پر مگر تصور میں وہ شخص موجود ہے یہ کلمات کہیں اترن اتر فالانز فالانز فالانز فالانز تنقیصن یجری کملو الیتار والعیون العوار ولا یثشف ولا امد امد رارق اللیل والنهار العجلۃ پھر اس تصویر کو ان آیات تحریر کردہ ٹکڑے میں لپیٹ کر گرم حمام سے پانی بہنے کی جگہ دبا دیں۔ اگر خطرہ ہو وہ شخص بالکل ہلاک ہی نہ ہو جائے تو فوراً اس تصویر کو نکال ڈالیں اور موم گلا دیں اچھا ہو جائے گا مگر خدا سے ڈرنا ہر بات کا حساب لے گا بلا عمل اسے استعمال نہ کرنا چاہیے۔

## باب ۶۲ اس شخص کے علاج میں جس کو دیوانہ کتا کاٹ

گیا ہو

کلب رکتا کے لفظ میں لوسٹر اور نیولا کا کاٹنا بھی شامل ہے۔ اس کے کاٹنے سے انسان میں خلط سوداوی روی الکیوس پیدا ہو جاتی ہے۔ جو خون میں ملکر اس کو فاسد کر دیتی ہے یہ خلط اکثر زیادہ سردی بادل و بارش کے وقت زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ ان حالات میں دیوانہ کہتے کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی زبان باہر نکل جاتی ہے گردن دراز ہو جاتی ہے۔ وہ بخیری میں ہر طرف دوڑتا ہے اور جو شکل و صورت سامنے آئے اس کو کاٹنا چاہتا ہے اور حیب کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس میں بھی اس جیسے علامات شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے خون میں زہر نہایت کر جاتا ہے۔ سگ گزیدہ کی بڑی علامت یہ ہے کہ پانی سے انکار کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر سگ گزیدہ اپنا چہرہ آئینہ میں

دیکھے تو اس کو کہتے کا چہرہ معلوم ہوتا ہے۔ علاج اسی کا کپڑا جلا کر اس کی راکھ روغن درود  
سرکہ میں ملا کر کہتے کے ڈنگ پر رکھیں۔ اس سے درد ساکن ہو جاتی ہے۔ درم کم ہو جاتا ہے۔ اور  
جلدی اچھا ہو جاتا ہے ایضاً اس سے پیلے کر پالی سے انکار کی نوبت پہنچے ڈنگ کے ارد  
گرد حلقہ کو آگ سے جلائیں اور تھوم و ننگ شہد میں ملا کر اس جگہ پر ضا د کریں اور شہد خالص  
روغن زرد تازہ دونوں کو آگ پر چڑھا کر اس میں تھوڑا تھوم پس کر ملاویں جب اچھی طرح  
سے مل جاوے تو اتار کر شیر گرم پی جاوے۔ یہ دوا اس مرض میں نہایت ہی مفید و مجرب  
بتلائی گئی ہے ایضاً بسکیرا کو شہد میں ملا کر کھانا بھی اس مرض میں مفید ہے۔ اسی طرح  
ایک بوٹی ہوئی ہے جس کو شہد نوره کہتے ہیں اس کا شہد میں ملا کر کھانا بھی فائدہ مند ہے  
وہیسا ہی شہد و مصطکی ملا کر سات روز تک استعمال کرنے سے کمال فائدہ ہوتا ہے۔

سگ گزیدہ کا علاج رقیہ (منتزاع سے)  
اسما زیل لکھ کر سگ گزیدہ  
کی گردن میں ٹکا دیں۔ بزیق

بزیق ۱۲۰ شادق حادار بخمدوح۔ ایضاً خاتم غزالی جو کی روٹی پر رکھیں  
اور یہ آٹا وہ ہو جس کو نابالغ لڑکی نے پیسا ہو چہرہ روٹی سگ گزیدہ کو کھلاہیں سات  
روز تک ایسا ہی کریں اور اس خاتم کے گرد آیت ذیل لکھ لیا کریں وَ لَقَدْ ذَهَبَ  
مَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّرْوِعُ وَ جَاءَتْهُ الْبُشْرَى الْمُرْتَكِبُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ  
خاتم غزالی یہ ہے۔

ب	ط	و
-	ھ	ج
و	ا	ج

## باب ۱۶۴ مسموم یعنی زہر خوردہ کے علاج میں

بقراط حکیم کا قول ہے کہ تھوم ہر ایک زہر خوردہ کے لیے شفا ہے مگر اس قول پر  
یہ اعتراض ہے کہ بعض زہر گرم ہوتے ہیں اور بعض سرد۔ ہاں اگر اس کی مراد مسموم



بارہ (سر زہر) سے ہو تو پھر کوئی اعتراض نہیں پس اصول علاج یہ ہے کہ سموم حارہ میں ادویات بارہ کے ساتھ علاج کیا جاوے اور سموم بارہ میں ادویات حارہ کے ساتھ سموم حارہ کی علامات کثرت پیاس سخت گھبراہٹ پیٹ میں ہوش اور التهاب عظیم ہو کرتی ہیں ایسی حالت میں عرق لیموں - تمر ہندی سے علاج کرنا چاہیے اور السی کا کپڑا سرد پانی میں بھگو بھگو کر مریض کے پیٹ پر لپیٹنا چاہیے اور سموم بارہ کی علامات بدن کی سردی پیاس کی کمی التهاب کی قلت اور جسم کا بھاری ہونا ہو کرتی ہے۔ اس حالت میں علاج یہ ہے کہ مریض کو شہد روغن زرد جس میں تھوم پکا لیا گیا ہو ملانا چاہیے یہ دراجس قدر مریض پی کے پلا دیں امید ہے کہ زہر کا اثر خون میں سرایت نہ کرے گا ایک اوز تدریر جو فی الفور زہر کو معدہ سے خارج کر دے پنچال مرغ نصف درہم نوشادر نصف درہم پانی میں ملا کر گرم کریں مریض کو پلائیں قے ہوگی اور تمام زہر خارج ہو جاوے گا یہ نسخہ صحیح و مجرب ہے۔ ایضاً مرغی کا بھیجا - خرگوش کا خون بھی زہر کو خارج کرنے میں مفید ہے ایضاً سانپ کا ہرا گھسکر پلانا زہر خوردہ کو فی الفور کر دیتا ہے جس کے پاس یہ ہرا ہو اس کو کبھی کوئی سانپ نہیں کاٹ سکتا اور جو شخص اس کو اپنے پاس رکھے وہ اندھیری رات میں چراغ کی طرح روشنی دیکھ سکتا ہے اللہ اعلم۔

## باب ۶۵ افعی (سانپ) بچھو وغیرہ موزی حشرات الارض کے

### ڈنگ مارتے کے علاج میں

نسخہ ذیل تمام اقسام کے زہروں کی سرایت کو مانع ہے اگر انسان اس کا استعمال کر سکتا ہے تو موزی جانوروں کے خون سے محفوظ رہے تو م مقشردس درہم - برگ مدار (اک) دس درہم - برگ انجیر دس درہم نوشادر پانچ درہم - گل ارمنی پانچ درہم - سب کو باریک کر کے شہد میں معجون بنالیں اور تھوڑا سا اس میں سے کھالیا کریں نیز جو شخص ہر روز شہد و تھوم نہا رکھالیا کرے وہ ان کے زہروں سے محفوظ رہے۔

## سانپ کے کاٹے کا علاج

فے الغور اس جگہ پر پھینے لگا دیں اور وہ جگہ آگ سے داغ دیں پھر اس کے اوپر کی جگہ کو دھاگہ سے باندھ دیا جاوے اور تھوم و نمک کو ضماد کیا جاوے۔ اس ترکیب سے ذہر بدن میں سرایت کرنے سے رک جاتا ہے۔ پھر عرق لیموں و سرکہ جتنا پی سکے پلاویں کہ اس سے سانپ کے زہر کی تاثیر منقطع ہو جاتی ہے اور بچھو کا زہر بہ نسبت زہر سانپ کے سرد ہوتا ہے اس میں ڈنگ کی جگہ پر ایسینخول سرکہ میں بھگو کر ضماد کرنا در دکو تکین دیتا ہے اور درم کو ہلکا کرتا ہے۔ ایضاً روغن زردہ صمغ بطم، ملا کر پینا بھی معتبر ہے ایضاً اسما و ذیل لکھ کر شہدیا

بارش کے پانی یا روغن زیتون سے دھو کر نیش زدہ کو پلاویں اسما و یہ ہیں، تلقیم، فلقضاً  
 قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ أَيُّهَا السُّعْرُ وَالْأَزْجَاعُ إِذْ تَفَعَّى إِلَى مَكَانِكَ الَّذِي  
 أَنْتَشَاتِ مِنْهُ أَوْ لَا وَكُنْ كَمَا كَانَتْ النَّارُ بَدَا أَوْ سَلَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ  
 إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ..... ایضاً اگر نیش زدہ جنگلی زیتون کے پتے کھا لیے

تو شفا پاوے ایضاً اترج دکھٹا میٹھا سنگترہ، گلگل و بنہ اس جنس کی چنیزوں کے بیج بقدر دو  
 شقال کوٹ کر پیئے سے زہر کی سرایت نہیں ہوتی ایضاً گوندھا ہوا آٹا سرکہ میں ملا کر ڈنگ  
 کی جگہ پر باندھنا فی الفور فائدہ دیتا ہے ایضاً برگ سیب، برگ گل آس، برگ درخت  
 بادام، برگ اخروٹ ہر ایک نصف رطل کوٹ کر پانی نکالیں اور نیش زدہ کو پلاویں، سیب  
 کے پتے نیش زدہ جگہ پر ضماد کریں، دیگر جب کسی مہینہ کا پلادن ہو تو فخر ہونے سے پہلے ہی  
 اٹھ کر دھو کریں اور صبح ظاہر ہو جانے پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر کلمات ذیل  
 دائیں بائیں دونوں ہاتھوں پر لکھ کر گھر کے ایک کونہ میں کھڑے ہو کر دائیں ہاتھ کو بائیں  
 پر ایسے طور سے ماریں جیسے تللی بجائی جاتی ہے اور اسما ٹے ذیل چار بار پڑھ کر گھر کے  
 چاروں کونوں میں اسی طرح سے پھیریں۔ اگر باقی کل کونوں میں اسی طور سے کریں تو زیادہ

لے ترجمہ پس اللہ بہت حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اسے زہر دور دور  
 جہاں سے تم آئی تھی واپس علی جاؤں ورنہ ایسی ہو جاوے جیسی کہ آگ حضرت ابراہیم السلام کے لیے سرد اور  
 سلامتی والی ہو گئی اور نہیں طاقت نیکی پر اور نہ بچاؤ گناہوں سے سوا اللہ کی مدد کے ۱۲۔

بہتر ہو یہ اسماء ہاتھوں پر تکریر کریں۔ ہار خارج نطق اور یہ کلمات زبان سے پڑھیں۔ سَلَامٌ  
 عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِينَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔  
 قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ  
 مِنْ شَرِّ الْعَقَارِبِ السَّمَامَاتِ الْأَذْغَاتِ خَدَّ لَهِمُ اللَّهُ بِنُورِهِ وَمَوْلَى بِتُورَاتِهِ وَعَيْنِي  
 بِأَنْجِيلِهِ وَدَاوُدَ بِزُبُورِهِ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَفَاعَتِهِ هَبْطَ أَدَمَ جَنَّتَهُ  
 فَلَقَاهَا عَجَبٌ عَجِيبٌ يَا اللَّهُ ۳۔ اجْعَلْ جِبْرَائِيلَ عَلَى قَرْنِهَا وَعِزْرَائِيلَ عَلَى وَسْطِهَا  
 إِنْ مَسَّتْ أَنْشَقَّتْ وَإِنْ تَحَدَّتْ انْفَلَقَتْ بِعِزِّ اللَّهِ وَبِنُورِ وَجْهِ اللَّهِ وَبِنَا  
 جِزِي بِهِ الْقَلَمُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَى خَيْرِ خَلْقِي اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ هَيَّا جَوْلُ ۲ وَأَنْتَ يَا عَقْرَبُ تَأْكُلُ التُّرَابَ وَتَسْكُنُ الْكُورَ ارْجِعِي إِلَى  
 مَنْزِلِكَ وَأَبْرِدِي كَمَا بَرَدَتِ النَّارُ عَلَى سَيِّدِنَا الْخَلِيلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
 قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَكَوْ قَصْنَا مِنْ قُرْبَةٍ لَفْظَ خَائِدِينَ

تک یعنی سترھواں پارہ دوسرے رکوع کی پہلی چار آیتیں پڑھنی اس سے کل موزی اشیاء

لقرہ نوح پر دونوں جہاں میں سلامتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسولوں میں پس منقریب  
 انکو اللہ پاک کفایت کرے گا اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ پس اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے  
 اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ہیں اللہ کے پورے کلمات سے پناہ چاہتا ہوں کل مخلوق کی  
 بدی سے اور زہریلے کاٹنے والے پھوؤں کی شرارت سے انکو اللہ اپنے نور اور موسیٰ اپنی تورات  
 اور عیسیٰ اپنی انجیل اور سے رسوا کریں حضرت آدم اپنے باغ سے اترے اور ان کو ملا یہ عجیب بات  
 ہے اسے اللہ جبریل کو اس کے اگلے حصہ اور عزرائیل کو اس کے درمیانی حصہ پر مقرر کر اگر چلے  
 تو پھٹ جائے اگر حرکت کرے تو خشک ہو جائے اللہ کی عزت اور اس کی وجہ سے نور  
 اور اس چیز کی برکت سے جس پر آج تک قلم جاری ہوا اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
 تک اسے پھو تو مٹی کھا اور ہلاک ہو جا اپنی جائے قیام میں لوٹ جا اور ایسا سرر موجیسا  
 کہ آگ حضرت ابراہیمؑ پر سرر ہو گئی۔

ہلاک ہو جائیں گی مجموعہ و تجرب ہے ایضاً ڈنگ کی جگہ پر پھینے لگا کر پھر مرجح سیاہ شہد میں  
پیس کر اس جگہ پر لگا دیں مفید ہے دیگر خاتم نغزالی مثلث لکھ کر اس کے گرد آیت **تَوَقَّهُوْ**  
**اَللّٰهُ سَيَاتِ مَا مَكُوْرَا اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ رِیْضَیْ وَرِیْکُمْ لَقَطًا مُّسْتَقِیْمًا** آیت **فَسَیْکَفِیْکُمْ اللّٰهُ**  
پوری آیت تمہرے کرنے کے بعد مریض کو باندھیں۔

## باب ۶۶ مچھروں، گبریوں، مکڑیوں، سانپوں، لپسوؤں، وغیرہ

### موزی جانوروں کے گھر سے نکالنے میں

جنگلی گائے کا سینگ گندھک کے ساتھ جس جگہ جلایا جاوے وہاں سے سانپ  
بھاگ جائیں۔ ایضاً جس گھر میں بھیڑیا کی داہنی آنکھ لٹکانی جاوے وہاں سے چوہے، مچھر  
درندے سب بھاگ جائیں ایضاً کنیر کے پتوں کی دھونی دینے سے مچھر بھاگ جاتے  
ہیں۔ ایضاً ترمس لے کر تین روز تک پانی میں بھگور رکھیں اور پھر اس پانی میں چوہہ ملا کر گھر  
میں سفیدی کریں تو اس مکان سے مچھر دور ہو جائیں ایضاً درخت صنوبر کے بورہ سے  
دھونی دینا بھی مچھروں کو ہانک دیتا ہے۔ ایضاً گوگل ازرق و زرنیون کی دھونی دینے  
سے مچھر جاتے ہیں ایضاً جنگلی گائے کے بالوں کی دھونی دینے سے مکان سے  
چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ نیز بھیڑیے کے پاخانہ کی دھونی دینے سے بھی چوہے  
مفرد ہو جاتے ہیں ایضاً ہر ہفتہ ہر تال زرر کی دھونی دینے سے بھی چوہے بھاگ جاتے  
ہیں۔ ایضاً اگر لوبے کا بارہ آٹے میں ملا کر چوموں کے سوراخ میں ڈالا جائے تو جو چوہا  
اس کو کھائے گا مر جاوے گا۔

جس مکان میں چیل بہت آتی ہو وہ ہینگ کی دھونی سے بھاگ سکتی ہیں جس جگہ  
کوڑن کی کثرت سے تکلیف ہوتی ہو تو وہ چھپکلی مقتولہ کی دھونی سے بھاگ سکتے ہیں، گل  
آس و زریہ سیاہ کی دھونی سے مچھر بھاگ جاتے ہیں بلکہ اکثر مرجاتے ہیں۔

نہے۔ پس پچالیان کو ان کے اللہ نے ان کے نرسوں کی بدی سے تحقیق میں نے اپنے

رب سے پھر و سہ کیا ہے۔ ۱۳ منہ

## مکھیوں کا گھر سے نکالنا

حب الردہ گھرانہ پانی میں بھگو کر مکان کی دیواروں پر چھڑک دیں اور اس طرح چند روز کرتے رہیں سب مکھیاں بھاگ جائیں گی۔

**مچھروں کا بھگانا** | اگر بکری کے پتے میں روغن زیتوں ملا کر چارپائی کے پاؤں کو مل دیں تو مچھر پاس نہ بھٹکیں ایضاً انجیر کی چار لکڑیاں لے کر ان پر بکری کا خون چھڑک لیں اور گھر کے چار کونوں میں ایک ایک لکڑی رکھ دیں اور اسماء ذیل پڑھنا شروع کریں۔ مچھران لکڑیوں میں جمع ہو جائیں گے پھر ان لکڑیوں کو باہر پھینک دیں۔ مگر بلاک نہ کریں اسماء یہ ہیں۔ **آيَةُهَا الْبِرَاعِيَةُ السُّودِيَّةُ اَتَكُوْنُ مِنْ جُمَّلَةِ الْجَنُوْدِ اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْوَاحِدِ الْمَعْبُوْدِ الَّذِي هَلَكَ عَادًا وَاَثْمُوْدًا اَنْ تَجْتَبِعُوْا عَلَيَّ هَذَا الْعُوْدِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ وَالِدًا وَاَوْوَادًا** — اگر انسان حرم کو اپنے پاس اور پاؤں کے پاس رکھے تو مچھر نزدیک نہ آویں ایضاً چقدر کے پتوں کی دھونی دینے سے بھی مچھر بھاگ جاتے ہیں۔

**پتھکلی کے ہانکنے سے علاج** | یہ زعفران کی بو سے بھاگتی ہے، اگر زیرہ سیاہ بوش دے کر اس کا پانی گھر میں چھڑکا جاوے تو مچھر بھاگ جائیں اگر سرداب کا پانی گھر میں چھڑکا جائے تو مچھر بھاگ جائیں نیز گندھک اور ریوند کی دھونی سے بھی مچھر بھاگتے ہیں ف ابوذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تجھ کو مچھر و پسو دکھ دیں تو ایک پیالہ پانی کا لیکر اس پر آیت ذیل سات دفعہ پڑھ کر اس کو اپنی چارپائی کے ارد گرد چھڑک دے وہ رات ان کی شرارت سے آرام سے کاٹے گا آیت یہ ہے۔ **مَا لَنَا اَنْ لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَاَنْصُرِنَا عَلٰی مَا اَدْبَتُنَا وَاَعَلٰى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ** پھر کہے **اَيُّهَا الْبِرَاعِيَةُ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَكُفُّوا شُرَكَكُمْ وَاِذَا كَفَرْنَا**۔

۱۔ اے سیاہ مچھر تو تم ایک اللہ کے لشکروں سے ہو میں تم کو قسم دیتا ہوں اس ایک ذات (باقی ائمہ)

اگر گھر کے پتوں کا دھواں دے کر گھر کے دروازے و دریچے  
مکھیوں کا بھگانا بند کر دیئے جائیں۔ تاکہ گھر دھوئیں سے بھر جائے مکھیاں  
مر جائیں گی۔

اگر بلوط کی لکڑی کی راکھ چوہوں کے سوراخوں میں  
چوہوں کے قتل کرنے کی تدبیر ڈال دی جائے تو ایک دوسرے کو کھا کر مر  
جائیں گے۔

اگر زرنیخ سرخ (سحل) گائے کی چربی میں ملا کر گھر میں  
بچھوؤں کے ہانکنے میں دھونی دی جاوے تو بچھو گھر سے بھاگ جاویں نیز  
اگر آدم اور حوا کا نام گھر کے کونوں میں لکھ دیں تو سانپ بھاگ جائیں نیز اگر زیتون کی  
شاخ پر خار پست کی چربی مل کر رکھیں تو کل مچھر اس پر جمع ہو جائیں تو پھینک دو۔

باب ۱۲ حب کے بیان میں یعنی مرد و عورت کی باہمی محبت

یا کسی عورت کو اپنی طرف مائل کرنے کی تدبیریں

صاحب خواص کا قول ہے کہ جو شخص ہمدرد کے ناخن اور اپنے ناخن جلا کر کسی عورت

کو جس سے وہ محبت کرنا چاہتا ہو پانی میں پلاوے تو وہ عورت اس کی طرف ایسی مائل ہو کہ  
اس کے بغیر ایک ساعت صبر نہ کر سکے۔ ایضاً شاقان ہندی کا قول ہے کہ اگر سیاہ کوے  
کا سر لے کر اس میں سے دماغ نکال دیں اور اس کے بجائے اس جگہ کی مٹی جہاں کہ وہ

نوریت اکثر بیٹھتی ہو ڈال دیں اور اس مٹی کے ساتھ ہی کبوتر کی پینچال بھی شامل کر دیں  
اور ان میں سات دانہ جو ڈال دیں اس سر کو مٹی میں دفن کر دیں۔ جب جوگ کر چار انگل کے

سے بقیہ کی جس نے ہلاک کیا عادا اور نمود کو ان لکڑیوں پر اکٹھے ہو جاؤ کوئی بڑا یا چھوٹا باقی  
نہ رہے ۱۲ سالہ ہمیں کیسا ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہم کو سیدھے راستہ کی ہدایت  
کی یقیناً ہم تمہاری ان تکالیف پر صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسا کرنا چاہیے۔

اے مچھر اگر تم کو اللہ پر ایمان ہے تو تکلیف اور شرارت کو ہم سے روک۔ ۱۲

بلبر ہو جاویں تو ان کو مل کر مرد اپنے چہرہ اور دونوں بازوؤں پر ضما کر کے اس عورت کے سامنے جاوے اور اس سے کلام نہ کرے وہ عورت خود اس کے پیچھے دوڑے گی اور اس کے بغیر ایک ساعت صبر نہ کر سکے گی یہ امر رخصت میں سے ہے ایضاً اگر مرد اپنے رخصت اور ٹھوڑی کے نیچے کے بالوں کو نہایت باریک کتر کترستوں میں ملا کر عورت کو کھلاوے تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاوے اگر عورت چاہے کہ اس کا خاوند اس پر کبھی ناراض نہ ہو بلکہ اس کے حکم کے تابع رہے تو عورت کو چاہیے کہ سیاہ مرع کا سر کسی نئے پیالے میں رکھ کر اس کو اس چارپائی کے نیچے دفن کر چھوڑے جس پر وہ اس کے ساتھ مجامعت کیا کرتا ہے۔ جب تک وہ دفن رہے گا مرد ہمیشہ عورت کے تابع فرما رہے گا۔

### اسرار عجیبہ

یہ خاص ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے ہر دو قدم کو دھو کر کسی عورت کو پلاوے تو وہ اس کی مطیع و منقاد ہو جاوے ایضاً اگر انسان اپنی منی میں شکر تر کر کے کسی عورت کو بے خبری و بے علمی میں کھلاوے تو وہ اس کی تابع رہے اور فرما نہ رہے اور اس کے ایضاً اگر کسی کھانے کی چیز یا سونگھنے کی چیز (مثلاً کھجور و گلاب کا پھول) پر اسم بدوح چار دفعہ پڑھیں پھر اس پر تھوک کر کسی عورت کو کھلاویں یا سونگھائیں تو وہ اس کی محبت میں دیوانہ و متوالہ ہو جاوے ایضاً اگر کوئی اسم مزدوجات کسی چھری پر لکھ کر اور اس سے کوئی کھانے کی چیز (مثلاً خر بوزہ وغیرہ) قطع کر کے اس میں سے عورت کو کھلاوے تو وہ اس پر فریفتہ ہو جاوے ایضاً اگر کوئی اسم مزدوجات سات دفعہ پانی پر پڑھ کر اپنے منہ میں ڈالے تو پھر اس کو نکال کر کسی برتن میں ڈال کر کسی عورت کو پلاوے مطیع ہو جاوے ایضاً اگر کوئی شخص ہر دو با بیل کی آنکھ بطور تعویذ اپنے پاس رکھے تو جو اس سے لمس کرے گا ف الفور اسے محبت کرے گا اور جو اس سے لڑے گا منسوب ہوگا ایضاً اگر کوئی بھیڑیا کا پتہ عورت کے ہر دو پستانوں کے مابین مل دیوے تو وہ اس سے محبت کرنے لگے صحیح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ف جو شخص چیتے کا چمڑا اپنے پاس رکھے اس کی ہیبت

لوگوں پر چھا جاوے اور جو شخص اس کے چمڑے پر بیٹھا کرے بوا سیر سے محفوظ رہے  
 ایضاً اگر انسان خرگوش کا ٹخنہ اپنے پاس رکھے تو اس پر کوئی جادو و دھنڑا اثر نہ کرے اگر انسان  
 ہر ہر کے بازو اپنے پاس رکھے تو اپنے دشمنوں پر ہمیشہ غالب رہے اور اس کی تمام  
 حاجتیں پوری ہوتی رہیں۔ اگر کوئی شخص گرگس کا دل بھڑیٹے کے چمڑے میں باندھ کر  
 اپنے پاس رکھے تو سب لوگ اس سے ہیبت کھائیں اگر کوئی انسان ہر ہر کی آنکھ  
 اپنے پاس رکھے تو اس کی مرض نسیان نہ ہو۔

### باب ۶۸ مرد و عورت کی غیرت و دشمنی رفع کرنے کے بیان میں

شریک ہندی نے کہا ہے کہ اگر کوئی چلبے کہ دو سو کن آپس میں عداوت نہ رکھیں تو  
 چاہیے کہ کسی ایک عورت کو خرگوش کا مغز شراب میں ملا کر اس کی بیخبری میں کھلا دیں اس  
 کی غیرت و عداوت دور ہو جائے گی۔ ایضاً اگر عورت کو بھڑیٹے کا پتہ شہد کے ساتھ  
 پلایا جاوے تو اس کی غیرت و نفرت دور ہو جاوے ایضاً سرطان بحری کے کھلانے سے  
 بھی یہی بات پیدا ہوتی ہے۔ ایضاً اگر عورت کو جو کے آٹے کا وہ غبار جو چکی پیستے  
 وقت اس پر لگ جاتا ہے۔ ایضاً کے پانی میں پلایا جاوے تو اس کی دشمنی و غیرت  
 دور ہو جاوے اگر عورت چاہے کہ اپنے خاوند کو ایسا کر دے کہ اس کے حق میں  
 کسی کی غیبت نہ سنے تو عورت کو چاہیے کہ اسماء ذیل کسی سرکنڈے کے سبز پتے پر  
 لکھ کر اور پانی سے دھو کر سرد کو پلاوے۔

اَجِيْبُوْا يَا خُدَّاءَ هٰذِهِ الْاَسْمَاءُ ۱۱۱ ۵۶۹۹ ۱۱۱ ۵۸۱۱ ۱۱۱ ۵۸۱۱ ۱۱۱ ۵۸۱۱ ۱۱۱  
 ع و ہ ح ح ۱۱۱ ۱۲۸ ایضاً اگر مرد و دو سو کنوں کی دشمنی کرنا چاہے تو تھوڑا سا پسا ہوانک  
 لے کر اس پر آیت ذیل ہاتھ کی انگلی سے لکھے پھر نمک کے اجزاء کو غلط ملط کر دے  
 پھر اس پر وہی آیت خالی انگلی سے لکھے اس طرح سات دفعہ کرے پھر وہ نمک  
 آٹے میں ملا کر اس کی روٹی ہر دو سو کن کو کھلائے دونوں کی باہم محبت ہو جاوے  
 اور عداوت جاتی رہے۔ اگر کسی عورت و مرد میں باہم محبت نہ ہو بلکہ ایک دوسرے سے



نفرت ہو تو چاہیے کہ اسما و ذیل لکھ کر پاس رکھیں دونوں میں محبت ہو جاوے اسما یہ ہیں  
 مَوْسَىٰ كَلِيمُ اللَّهِ جِبْرَائِيلُ آمِينُ اللَّهِ عِيسَىٰ رُوحُ اللَّهِ عَزْرَائِيلُ قَابِضُ الْأَرْوَاحِ  
 الْكُفْرِ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَكُوْنَا بِجَعْلِهِ سَاجِدًا۔ عزیمت روز  
 سینچر کے آخری حصہ میں لکھے، ایضاً اگر عورت سیاہ کتے کا دل خشک کر کے مر کر کھلاوے  
 تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاوے۔

## باب ۱۶۹ سوئے سوئے سے باتیں کرانے کے بیان میں

اگر کوئی شخص سرے سرے ہوئے شخص کے دل کا حال دریافت کرنا چاہے کہ خرگوش  
 کا دماغ لے کر اس پر اسما و ذیل لکھے پھر اس دماغ کو کاغذ میں لپیٹ کر اس شخص  
 کے سینہ پر رکھے تو وہ اپنے دل کی باتیں ظاہر کر دے گا اسما یہ ہیں۔ سُورَةُ إِذَا زُلْزِلَتْ  
 الْأَرْضُ إِلَىٰ آخِرِهَا لَكُمُ وَأَشْكَالُ ذِيلِ ۝۵۵ يَا مُحَمَّدَانِي هَكَذَا مَاءٌ دُونَ مَاءٍ  
 مَعَهُ قَاتُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ أَنْطَقَ بِمَا فِي نَفْسِكَ كَذَا وَكَذَا  
 ۲۲ شیطان اخرج ابها المر جعجا يعقبا يا الدقاق انطق ابها السر بحق انا  
 أَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ  
 تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ  
 سوئے ہوئے کے دل پر رکھا جاوے تو وہ اپنے دل کے بھیدوں کو ظاہر کر دیوے  
 ایضاً لو کا دل خفتہ عورت کے دل پر کہنے سے وہ تمام حال نیک و بد بیان کر  
 دیوے ایضاً اگر انسان و بہرہ کی دائیں پسلی کی بلدی سوئے سوئے کے سر کے  
 نیچے رکھی جاوے، تو وہ اپنے دل کا تمام حال کہہ سناوے ایضاً چاندی رات

سے ترجمہ موسیٰ اللہ سے کلام کر نیوالے ہیں اور جبریل اللہ کے اما بتدار ہیں اور عیسیٰ روح اور عزرائیل  
 جان قبض کر نیوالے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کس طرح سایہ پھیلایا ہے  
 اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا دیتا۔ وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے بلا یا ہے جس نے کل چیزوں  
 کو طاقت گویائی عطا کی جو کچھ تیرے دل میں ہے بول دے۔

میں کسی کاغذ پر عرق کستوری سے اسماء ذیل لکھ کر اس کاغذ کو ایک بڑھیا عورت کی تصویر میں لاکر سوئے ہوئے کے سینے پر رکھیں تو وہ اپنے دل کا کل حال کہہ سنادے، خاتم غزالی جسکا ذکر پیچھے آچکا ہے لکھ کر اس کے ارد گرد آیت ذیل لکھو۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ  
وَمَا يُعْلِنُونَ وَلَوْ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى  
فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ادْعُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ إِنَّكُمْ بِعِندِ اللَّهِ كَانْتُمْ  
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝ يَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَرُّ بِهِمُ  
الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ حَدِيثًا وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ.....

دیگر غزالی کی مثلت خاتم غزالی رات کے وقت ہرن کے چمڑے کے ٹکڑے پر زعفران سے لکھیں جس وقت زحل طلوع کرے اسے لے جا کر حقہ کے سینے پر رکھو وہ کل حالات سے تم کو مطلع کر دے گا حالانکہ خود وہ نہ معلوم کر کے گا کہ کسی کو تبا چکا ہے یا نہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایضاً جو شخص با وضو سو کر آیت ذیل ہرن کے چمڑے میں لکھ کر سوئے ہوئے کے سینے پر رکھے تو وہ اپنے مافی الضمیر کو ظاہر کر دے آیت یہ ہے رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ طَلَبِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَلَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ میرے شیخ ولی صالح محمد بن یوسف سوس فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بکری کے سینگ پر تین دفعہ آیت ذیل لکھ کر سوئے ہوئے کے سینے پر رکھے تو وہ اپنے رازوں سے خبر دینے لگے آیت یہ ہے

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا

اے ترجمہ محقق تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں پھپھا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں کیونکہ جب تم نے سنا تھا کہتے ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی پس ان کو اللہ نے بری کر دیا ان کی تہمت سے کہہ دے اللہ کو پکارو ذرا ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اور تو اس چیز کو چھپاتا تھا جسے کہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا ۱۲ منہ۔ ۱۷ ترجمہ جس دن کہ ہر نفس اپنے پہلے عملوں کو موجود پائے گا اور بروں کو بھی تو چاہے گا ان کے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہو ۱۲۔

ایضاً آیت ذیل لکھ کر خفتہ کے سینے پر رکھنے سے بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ  
 وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْنَا بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
 تک ساتھ ہی سورہ اِذَا زُلْزِلَتْ اِذْ رَضَخْنَا بِهَا كِتَابَنَا بِحَقِّهَا لِكُلِّ شَيْءٍ عَوْرَتٌ  
 پر بدظن ہو جاوے اور اسکا حال دریافت کرنا چاہے تو چاہیے کہ ایک سبزرنگ مینڈک کی  
 زبان عورت کے سینے پر رکھدے جب سوئی ہوئی ہو تو وہ اپنا ساڑھاں نیک و بد ظاہر کر دے  
 گی ایضاً اگر عورت کی بے خبری میں اس کی چار پائی کے نیچے سبزرنگ مینڈک کی دھونی دی  
 جاوے اور وہ اس پر سو جاوے تو بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے ایضاً اگر گرس کی آنکھ  
 اور مردہ کتے کی آنکھ اور غس کی جڑ کسی اسی کے کپڑے میں باندھ کر عورت خفتہ کی ناف  
 پر رکھی تو اپنے دل کے بھید سے خبر دے دیوے۔

## بات بکے کتے کی زبان بند کرنے کے بیان میں

اگر کوئی چاہے کہ اس کو کوئی کتا نہ بھونکے تو چاہے کہ اس ذیل کو سات سنگریزوں  
 پر لکھ کر اپنی آستین میں رکھے ہرگز کوئی کتا اس پر نہ بھونکے گا اسماء یہ ہیں۔ تَمْلِخًا طُوس  
 ۲ طُوسًا حَالُوسًا اِيطَانَسُ الْكَفِشَلِينُوسُ دُونُوسُ كَلْبُهُو قَطِيْمِيْرٌ جُبْرَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ وَ  
 عِزْرَائِيْلَ لِيَاخِيْمَ لِيَا فُوْلِيَا فُوْر لِيَا رُوْشَ لِيَا شَلَشُ ..... ایضاً جو شخص بچو کی  
 زبان خشک کر کے اس میں اسماء ذیل لکھ کر اپنے پاس رکھے اس کو کوئی کتا نہ بھونکے اسماء  
 یہ ہیں۔ لِيَاخِيْمَ لِيَا فُوْلِيَا فُوْر لِيَا رُوْشَ لِيَا شَلَشُ شرط یہ ہے کہ یہ اسماء پیر کے روز طلوع  
 شمس سے پہلے لکھے جاویں، ایضاً جو شخص خاتم غزالی ایک کاغذ پر لکھ کر اس کے ارد گرد  
 اسماء ذیل لکھے اور اس میں بھڑیے کا دانت لپیٹ کر اپنے پاس رکھے تو کوئی کتا اس  
 کی طرف نہ جھکے اسماء یہ ہیں۔ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَقَدْ اَلْبَصِيْرُ تَك سَتْرِيْمُ اِيْتِنَا فِي الْاَفَاقِ

۱۔ ترجمہ جیت تم نے قتل کیا اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے یہ ہماری کتاب ہم پر بیان کر دی گئی کیونکہ  
 ہم تمہارے اعمال لکھتے رہتے ہیں ۱۲۔ پانچوں پارہ میرے رکوع کی آخری آیت ۱۲۔ پارہ ۲۴ رکوع ۱  
 ۳۔ اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے عنقریب ہم انکو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں اور زمینوں (باقی آئندہ)

وَفِي أَنفُسِهِمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَاصْتَمْتُمْ هُوَ أَعْنَى ابْتِصَادَهُمْ إِنَّا أَرْسَلْنَا  
إِلَى الْغَنَظِيِّ - ایضا اگر انسان کتے کا دانت اپنے پاس رکھے تو کبھی کوئی کتا اس پر نہ بھونکے  
ایضا اگر کوئی شخص کتے کے کان کا کچھ ٹکڑا کاٹ کر اپنے پاس رکھے تو کوئی کتا اسکو نہ بھونکے۔

## باب: چوری دریافت کرنے کے بیان میں

چار عدد سرکنڈے کی پوریاں لے کر ان پر اسماء ذیل لکھیں پھر اس کا مربع حلقہ بنا کر زمین  
پر رکھ دیں اور جن پر شک ہو ان کو کہیں کہ باری باری اپنی درمیانی انگلی ان پوریوں کے درمیانی  
طبقہ میں رکھیں جو شخص بری ہوں گے پوریاں ان سے بھاگیں گی اور جو واقعہ میں چور ہو گا  
پوری اسکی طرف جھکے گی اسماء یہ ہیں: يسقط ۲ هيلج ۲ اذلی ۲ مَوْجَ الْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ الْتَقَا  
۲ أَيُّهَا الْقَصَبُ عَلَى هَذَا الْأَحْوَانِ كَانَ صَادِقًا فَاقْبِضُوا وَإِنْ لَمْ يَسُوقِ فَلَا تُقْبِضُوهُ -  
ایضا لوسے کی ایک میخ چار گوشہ لیں اور اس کی طرف کھینچیں اور دوسری طرف یس و  
الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اور تیسری طرف ص وَالْقُرْآنِ اَوْر چوتھی طرف وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ لکھ کر اس میخ  
کو زمین میں گاڑیں اور مشتبہ لوگوں کو حکم دیں کہ اس میخ کے چاروں طرف ایک حلقہ بنا کر  
اپنے سرین کے بل بیٹھ جائیں اور اس میخ کو آٹھ دفعہ ضرب لگائیں۔ اس طرح اس سے ہر  
ایک ضرب کے ساتھ سورہ تک پڑھیں جب آٹھ ضربیں پوری ہو جائیں تو ان لوگوں کو کھڑے  
ہونے کا حکم دیں جو بری ہو گا وہ کھڑا ہو جاوے گا اور چور کھڑا نہ ہو سکے گا جب تک کہ وہ میخ  
زمین سے نہ اکھاڑی جاوے۔ ایضا ایک کنوازی رٹ کی کو کہیں کہ روزہ رکھ کر تھوڑا سا آرد گندم  
یا جو اپنے ہاتھ سے چکی میں پیسے پھر بے نمک اس کی روٹی بناویں اور مشتبہ افراد کی گنتی کے  
برابر اس کے لقمے بناویں اور ہر ایک پر اسماء ذیل لکھ کر ایک ایک لقمہ سب کو دیں جو بری ہو  
گا وہ تو لقمہ کھالے گا اور چور کے حلق سے نہیں اترے گا اسماء ذیل یہ ہیں: تَمَّانَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ  
تَأْخُذَ إِلَّا مِنْ وَجْدِنَا مَتَاعِنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَطَّالِمُونَ ۵ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي

حاشیہ لقمہ میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لوگوں پر اللہ نے مہر کی ہوئی ہے پھر ان کو ہر اندھا کر دیا ۱۲۷۱۷۷ چارہ  
دونوں دونوں دریا ملکر متوجہ ہو جائے اے پوری اس سرخ کی طرف اگر یہ سرخ چور ہے (باقی آئندہ)



درمیان متہم شخص کا نام لکھیں اور دائرے کے ارد گرد <sup>۱۰</sup> شیتا ثال نلڈن بن، ذلانتہ یسہ  
 اللہ الرحمن الرحیم فتنہ اللہ علی ثلویہم ر علی سمعہم ر علی البصارہم و غشادہ  
 ذلہم غذاب عنایتہم اذ کعبہ من السماء وینہ ظلمت ورسد و برن یحکارن اصابعہم  
 فی اذانہم من الصوا حنی دذرا تموت واللہ الخ لکھیں پھر ایک سوئی اس کاغذ  
 میں گاڑیں اور دعا گم سے اسے لگا دیں تو انشاء اللہ چور پکڑا جاوے ایضاً اسماء ذیل  
 لکھ کر سوتے وقت اپنے سر کے نیچے رکھیں سابق خواب میں نظر آ جاوے اسماء یہ ہیں۔  
 ا۔ امد صہ ۴ ح کواذ تذر نفساً نارا لا تسدینہا واللہ یحرم ما کنتم یکنتمون  
 اس کا ترجمہ گر چکا ہے۔ ایضاً ایک موٹا تاگائے کر اس میں نوگرہ دیویں اور ہر گروہ پر سورہ  
 قل یا ایہا الکفرون پڑھ کر دم کریں پھر اس جگہ میں جہاں سے چوری ہوئی ہے رکھ  
 دیں انشاء اللہ چوری کا پتہ چل جاوے گا۔ ایضاً آیت ذیل روٹی پر لکھ کر مشکوک آدمی  
 کو کھلا دیں جو بری ہوگا کھا جاوے گا اور چور کے گلے سے نہیں اترے گی آیت یہ ہے۔  
 یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأینہ الموت من کل مکان ایضاً آیت ذیل لکھ کر مشین  
 کو کھلا دیں جو چور ہوگا اس سے بمشکل کھائی جاوے گی آیت یہ ہے فاصبر صبرا جمیلاً  
 فاصبر نفسك مع الذین یتقون اللہ ولا یریدون الا وجهہ یا ایہا الذین  
 امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔

۱۔ میں نے نلڈن شخص کا مال تالو کیا ہوا ہے اللہ کے نام سے ہر کوئی اللہ نے انکے دلوں اور کانوں  
 پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور انکو سخت عذاب ہوگا ان کی مثال سینہ کی طرح ہے جو آسمان سے اترتا  
 ہے۔ اسمیں اندھیری بجلی کڑک ہو موت کے خون سے کڑک سے ڈر کر اپنی انگلیں کانوں پر رکھ لیتے ہیں  
 اور اللہ کا زور کو گھیرے ہے اور اللہ انکے پیچھے سے گھرنے والا ہے۔ ۱۔ وہ اسے گھونٹ گھونٹ  
 پئے گا اور نکل نہ سکے گا اور موت اسے ہر طرف سے معلوم ہوگی ۱۔ پس تو صبر جمیل اختیار  
 کر اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے پاس روکے رکھ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی رضا کے  
 سوا کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتے اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو سہارا دو اور سرحد  
 کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرو اگر تم فلاح چاہتے ہو

ایضاً و مرعی کے انڈے پر سورہ الملک کو اول سے لفظ حیرت تک لکھ کر روغن سے تر کر کے کسی لڑکے کو دیدیں اور اس کو کہیں کہ انڈے کی طرف دیکھتا رہے اور تم اس پر سورہ یس پڑھتے جاؤ پھر اس سے دریافت کرو کہ جو کچھ اس کا حال بتا دے گا۔ اس راز کو یاد رکھو اور نا اہل سے پوشیدہ رکھو۔ ایضاً: ایک مشک لیکر اس کے اوپر آیت الکرسی و سات انبیاء نوح، لوط، صالح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کے نام لکھیں پھر الگ الگ ایک ایک نام کے ساتھ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر مشک میں پھونکنا شروع کر دیں اور ہر ایک دفعہ کے بعد کہتا جائے *اللہم انی اسألتک بما اردتک هذا ان تنفخ بطن هذا السارق كما نفقت هذا القریة*۔ جب سات پھونکیں پوری ہو جاویں تو مشک کو باندھ کر لشکا دیویں، انشاء اللہ تعالیٰ چور کا پیٹ سنت پھول جائے گا۔ اور مال مسروقہ لیکر واپس آئے گا۔ ایضاً: ایک سفید صاف کپڑا بقدر نصف گز لمبا لیکر اس پر سات دفعہ سورہ الفاتحہ سات دفعہ سورہ والضحیٰ بطریق ذیل پڑھیں اور ہر ایک دفعہ سورہ فاتحہ و سورہ والضحیٰ پڑھ کر تھوڑا سا کپڑا قتیله کی طرح پیٹتے جاویں جب سات دفعہ تک سارا کپڑا پیٹا جائے تو اس کے اطراف میں گرہ لگا کر کسی اندھیرے مکان میں رکھ دیں۔ انشاء اللہ جہاں وہ کپڑا پڑا رہے گا وہاں کی ہر چیز محفوظ رہے گی اور گم شدہ چیز واپس آجائے گی۔ صحیح و مجرب ہے۔ دیگر دو شخص چار تیر ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سر ملا کر رکھیں اور کل مشکوک لوگ جمع ہو کے ہر ایک کا دایاں ہاتھ باری باری ان میں رکھیں اور سورہ رحمن ابتداء سے لفظ یلتقیان تک پڑھتے جائیں چور کا ہاتھ تیر دبا لیں گے اور بری سے الگ ہو جائیں گے۔

## باب ۱۲ گھی مکھن، شہد سر کہ بنانے میں

حفظ کے بیج لے کر ان کو سات دفعہ پانی میں جوش دیں تاکہ ان کی کڑواہٹ دور ہو جاوے، پھر دھوپ میں خشک کر کے ان کے ہوزن دانہ گندم ملا کر چکی میں لے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ جس رحمت سے تو نے یہ آیات نازل کیں اس مشک کی طرح اسکا پیٹ پھول جائے

خوب پیسے پھران میں شہد خالص ملاویں پھران سب کو ایک انڈے میں اس کی سفیدی دور کر کے ملاویں اور انڈے کا منہ مضبوط بند کر کے خشخاش میں دباویں جب اس کی بو خوشگوار ہو جاوے تو انڈے کو نکال کر اس میں جو نکلے اس کو محفوظ رکھیں۔ اس میں سے بقدر دانہ باقلا گھی کی ایک مشک میں ڈالنا برکت کا باعث ہے۔ ایضاً، شگھاڑا کا آٹا دودھ کے برتن میں ملاویں، کہن نکلنے وقت زیادہ نکلتا ہے۔ ایضاً، روغن زرد، موم سفید، پھٹکڑی، نمک ہر ایک مساوی اور پڑ حصہ زعفران ان سب کو آگ پر ملا کر رکھ چھوڑیں اس میں سے بقدر دانہ نخود دودھ کے برتن میں ڈال دینے سے گھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ایضاً بار یعنی پہلے روز کا دودھ جبکہ گائے، بھینس وغیرہ جنے جس کو پنجابی میں بولی کہتے ہیں بقدر ضرورت اور اتنا ہی شہد خالص اور صبح کیترا سب کو ملا کر دھوپ میں خشک کر چھوڑیں بوقت ضرورت اس میں سے بقدر دانہ باقلا لیکر اس دودھ میں جس سے مکھن نکالنا مقصود ہو ڈالیں، بہت مکھن نکلے گا۔ ایضاً روغن زرد ایک رطل، سرکہ ایک رطل دونوں کو ملا کر کسی روغنی برتن میں ڈال کر سارا دن ہاتھ سے خوب ہلاتے رہیں پھران میں ایک رطل شہد ڈال کر آگ پر رکھیں اور ڈیڑھ اوقیہ کیترا کو ان میں شامل کر دیں اور آگ آہستہ آہستہ چلائیں جب تمام چیزیں خشک ہو جائیں تو اتار کر دانہ نخود کے برابر گولیاں بنا کر رکھ چھوڑیں، بوقت ضرورت رات کے وقت ایک گولی دودھ میں ڈالیں اور صبح رڑکیں انشاء اللہ بہت مکھن پیدا ہوگا۔ ایضاً، انڈے کی سفیدی اور کھنسی دونوں کو ملا کر گولیاں بنا کر رکھ چھوڑیں، بقدر ضرورت رات کے وقت ایک گولی دودھ میں ملاویں اور صبح کو رڑکیں بہت مکھن نکلے گا۔ ایضاً انڈے کی سفیدی دور کر کے زردی انڈے کے اندر ہی رہنے دیں، اور زردی کے اوپر اتنا گھی ڈالیں جو اس کے اوپر آ جاوے، پھر گندم کے آٹے اور نمک سے انڈے کا منہ بند کر کے ایک نئے کپڑے میں لپیٹ کر ۲۴ روز تک کسی مزملہ (کوڑے پنجابی زوڑی) میں دفن کر دیں پھر نکال کر بقدر دانہ نخود گولیاں بنا رکھیں بقدر ضرورت ایک گولی دودھ میں ڈال کر رڑکنے سے بہت مکھن نکلتا ہے ایضاً کھنسی کی



جرٹیں دودھ میں ڈال کر رڑکنے سے مکھن زیادہ پیدا ہوتا ہے ایضاً شہد، نمک، روغن  
ندو ہر ایک مساوی بیکر کسی برتن میں ڈال کر آگ پر چڑھائیں۔ جب سب کا قوام یک سان  
ہو جاوے تو کسی روغنی برتن میں ڈال کر بیس روز تک زمین میں دفن کریں پھر نکال کر بقدر  
دانہ نخود گولیاں بنا کر رکھ چھوڑیں بوقت ضرورت ایک گولی دودھ میں ڈال کر مکھن نکالیں  
**ایضاً** اگر دودھ دینے والے مویشی کے چاروں کھروں پر چاندی کی قلم کے ساتھ  
سو سواری کے روز سورج نکلنے وقت اسما ذیل لکھ دیں تو دودھ میں برکت ہو اسما یہ ہیں  
و نخل رخنی **ایضاً**، سرب رسک، پگھلا کر پانی میں بچھا دیں پھر وہ پانی دودھ میں ڈال  
کر ساتھ ہی وہ سکے بھی داخل کر دیں اور رڑکیں انشاء اللہ مکھن زیادہ نکلے گا۔ **ایضاً**،  
دودھ میں اس قدر زعفران ڈالے جس سے زرد ہو جاوے پھر آگ پر چڑھائیں، جب  
قوام اس کا غلیظ ہونے پر آئے تو اس میں اسی قدر گھی اصلی ملا دیں اور ہلاتے جائیں،  
جب تک کہ سارا گھی بن جائے۔ **ایضاً** بکری کی پنڈلی کی بڈی بیکر اس میں اخروٹ، بادام  
زعفران، مساوی ملا کر سب کو باریک کونیں اور شہد ملا کر کسی برتن میں ڈال کر چند روز کے  
لیے خشناص میں رکھ چھوڑیں پھر خشک کر کے رکھ چھوڑیں اس میں سے تھوڑا سا دودھ  
میں ڈال کر مکھن نکالنے سے زیادہ مکھن نکلتا ہے۔

اکتیسرے سرکہ شہد ایک حصہ، سیاہ انگور دو حصہ، اصلی سرکہ تین حصہ سب کو کسی  
روغنی برتن میں ملا کر دھوپ میں رکھ دیں یہاں تک کہ خشک ہو کر بنا ہو جاوے، پھر اس  
میں سے بقدر ضرورت بیکر پانی میں ڈال کر سرکہ بنالیا کریں۔

**مصنوعی شہد بنانا** دمک (میدہ) بیکر اس میں اتنا پانی ملا دیں کہ مثل حریرہ  
کے ہو جاوے پھر اس کو اسی کے موٹے کپڑے میں  
چھان لیں پھر آگ پر چڑھائیں جب گرم ہو جاوے تو اس کے برابر اصلی شہد ملا دیں کہ  
وہ سارا کا سارا باذنہ تعالیٰ شہد بن جاوے۔

## باتِ مصروع (مرگی والا) کے علاج میں

اس کا مادہ خلطِ باروری اکیبوس ہوتا ہے جو انسان کے دماغ کے تباہی میں ساکن ہو جاتا ہے جب یہ مادہ بیجان رہتا ہے تو انسان پر ایک قسم کی حالت طاری ہوتی ہے جس سے وہ زمین پر گر پڑتا ہے اور منہ سے جھاگ جاری ہو جاتی ہے اس کو اصطلاحِ اطباء میں صرع (مرگی) کہتے ہیں۔ یہ مرض دوری ہوتی ہے۔ یعنی اوقات معینہ پر ظاہر ہوتی ہے اور بارش و بادل و سردی ہوا کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ اس مرض میں انسان اپنی کلام کو نہیں سمجھتا بعض وقت دوسرے کے سوال کا جواب دیتا مگر خود اس بات کو محسوس نہیں کرتا علاج خوشگوار و معتدل الهواء والے گھر میں مریض کو رکھیں اور اس کے دماغ اور تمام بدن پر روغن زیتون کی مالش کریں اور غذایہ گرم و تر کھلائیں اور باقی اشیاء سے پرہیز کریں۔ انشاء اللہ اچھا ہو جاوے۔

## آسیب یعنی جن کی تکلیف سے بیہوش ہو جانے والے

### کا علاج کتابت و عزیمت سے

اسما ذیاب سے دم کیا کریں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِحَقِّ یٰ قَیُّوْمَ یٰ سَلَامَ مَا مَوْمِنٌ بِاْمَهِیْرِ بِا  
عِزِّکَ یٰ حَیُّ یٰ مُتَدَبِّرُ یٰ خَالِقُ یٰ بَارِئُ مَا مَسَّکَ یٰ مُعِیْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ یٰ حَدِّ  
یٰ اَسْمَاءُ قَدْ وَا صَدَّقَ یَا مَنْ لَمْ یَبْدُ وَا لَمْ یُولَدْ اَسْئَلُکَ یَعْلُو اَللّٰهُ اَهْدُ اَللّٰهُ لِقَمَدُ لِقَمَدُ  
وَلَوْ یُوْلَدُ وَا لَمْ یُکُنْ لَدَ کُفُوْا اَهْدُ اَنْ لَدَ نَحْبُ مِنْ اِحْنَ الْعُلُوْیٰ وَا لَسِّنَ اَهْدُ اِیْمَنْ  
لِیْسَ لِمِثْلِهِ شَیْءٌ یٰ کَکْرَ لَسِیْعَ البَصِیْرُ اَنْتَ مِنْ سَلَمَانَ وَا لَسِّنَ اَهْدُ اِیْمَنْ اَلْحَمْدُ  
اَلَّا تَعْلَمُوْا عَلَتْ وَا تَوَفٰی مُسْمِنٌ مَسْمِیْنٌ طَاغُتٌ اَهْدُ اِیْمَنْ اَلْحَمْدُ  
اَنْتَ زَیْنًا وَا زَیْنَةٌ وَا اَهْدُ اِنْفَاکَ وَا حُدُ وَا نَحْنُ مَسْمِنُونَ فَا اَهْدُ اِیْمَنْ اَلْحَمْدُ اَوْ تَعْلَمُ

جَاءَ وَجَنِّيَّةٌ وَشَيْطَانٌ وَشَيْطَانَةٌ وَمَا رَأَى مِنْهُمُ الْغَيْبَانَ وَغَيْلَانَةً فِي الدَّرَنَامَةِ  
 وَالْأَبْلَسَةِ وَالْقَطَاثَةَ وَالرَّوَابِعَةَ وَالْعَمَلِقَةَ وَالنَّوَالِطَةَ وَالْمُسْتَرْقِينَ الْمَسْمُومِينَ  
 السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَالْقَوَامِينَ تَحْتَ الثَّرَى وَجُنُودَ إِبْلِيسَ صَبْرًا كَمَا هُوَ أَرْكَفٌ وَعَيْدُكُمْ  
 ذُكُورُكُمْ وَأَنَا تَكْمُ الْأَمَمِ وَالْإَعْمَى وَالسَّيِّمِ وَالْبَصِيرِ وَسَكَّانُ السَّمَاوَاتِ وَالنَّوَالِ وَالْبَرَارِي  
 وَالْقَفَارِ وَالْكُهُوفِ وَرُؤُوسِ الْجِبَالِ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَعْجَبِيًّا وَفَيْضِيًّا إِلَّا مَا أَجَبْتُمْ وَأَسْرَهْتُمْ  
 هَذِهِ السَّاعَةَ ۲ العجل ۲ أَعْيُنُ قِيَامِي عَلَى هَذَا الظَّالِمِ الْمُسْرِدِ عَلَى هَذَا الْأَرْمِيِّ وَأَخْبِرُونِي  
 بِخَبْرِهِ وَأَسْمِهِ وَشَانِهِ وَرَهْطِهِ وَمَذْهَبِهِ وَمِنْ أَيِّ الْأَجْناسِ وَمَنِ الْعَاكِفُ عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ  
 فَإِنَّ لَنَا وَلكُمْ فِي الْحَقِّ سَعَةً أَفْسَهْتُ عَلَيْكُمْ بِهَوْلَاءِ الَّذِينَ سَيِّئْتُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فِي عَزِيمَتِي  
 هَذِهِ بِإِلْسِمِ الَّذِي فَطَقَ بِهِ رَبِّي فِي عَالِمِ الْغَيْبِ وَعَلَى بُرُوجِ السَّمَاءِ وَفِي مَبْدَأِ عَالِمِ الْغَيْبِ  
 وَفِي الْعِجَابِ الْبَهَائِرِ وَأَذَعَنْتُ لَهُ الْمَلَأْتِكُمْ فَخَرُّوا لِلْجَلَالِ وَجِهَهُمْ وَسَجَدُوا بِالْكَلِمَاتِ الَّتِي  
 تَكَلَّمَ بِهَا رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ عَلَى مَلَأْتِكُمْ الْآيَةَ الَّذِينَ عَجِلُوا الْأَدْجُلُ الْخَفِيَّةِ وَالْأَبْقَاءِ  
 اللَّامِيعَةِ وَالْأَنْوَارِ السَّاطِعَةِ وَالْأَمْنَانَ الْمُخْتَلِفَةَ عَجِلُوا أَسْرِعُوا ۲ وَلَقَدْ عَلَّمْتُمْ أَنْتُمْ لِمُحَضَّرُونَ  
 إِنْ كَانَتْ إِلَّا صِبْغَةً وَاحِدَةً إِلَى مُحَضَّرُونَ الْوَحَامِ يَا أَهْلَ الطَّاعَةِ يَا جَمِيعَ أُمَرَاءِ الْجَنِّ وَسَادَاتِهِمْ  
 وَجَمِيعَ الشَّيَاطِينِ وَالْقَبَائِلِ وَالْمُلُوكِ وَالسَّادَاتِ عَجِلُوا أَبَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ وَلَا يَحْضُرُ بَعْضُكُمْ  
 بَعْضًا وَيَتَوَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَكَانَهُ وَمَنْ تُوِدِّي مِنْكُمْ بِأَسْمِهِ فَلْيَحْضُرْ بِنَفْسِهِ وَجُنُودِهِ  
 وَالْحَوَائِجِ وَبَيْنِهِ وَبَيْنِي بِنِيَّةِ الطَّاعَةِ لِلَّهِ وَلَا سَمَائِهِ تَقَدَّمَ يَا مَذْهَبَ ابْنِ إِبْلِيسَ  
 وَجُنُودِكَ وَأَنْتَ يَا مَرَّةَ بِنِ ابْلِيسَ أَنْتَ وَجُنُودُكَ وَأَنْتَ يَا أَحْمَرَ بِنِ ابْلِيسَ أَنْتَ الْقَائِلُ  
 تَقَدَّمَ أَنْتَ وَجُنُودُكَ وَأَنْتَ يَا بَرْقَانَ بِنِ ابْلِيسَ أَنْتَ وَجُنُودُكَ وَأَنْتَ يَا شَهْرُورَشَ  
 بِنِ ابْلِيسَ أَنْتَ وَجُنُودُكَ وَأَنْتَ يَا مَيْمُونِ بِنِ أَنْوَمِ بِنِ ابْلِيسَ أَنْتَ وَجُنُودُكَ وَأَنْتَ  
 يَا مَهْلِكُ بِنِ ابْلِيسَ أَنْتَ وَجُنُودُكَ تَزَمَنْتَ عَلَيْكُمْ بِهَوْلَاءِ الَّذِينَ سَيِّئْتُمْ بِأَسْمَائِهِمْ  
 بِالَّذِي نَطَقَ بِالْحَلَالِ وَالْحَمَالِ وَالنَّفَرِ وَالْبَهَاءِ وَالْكَسَالِ وَنَعَطْتَ بِالْجُودِ وَالْكَرَمِ وَ  
 ارْتَدَيْتَ بِالْقُوَّةِ وَالنَّعْمَاءِ وَبَقَرْتَ الْعِيَادَ بِقُدْرَتِهِ وَقَتَمَ الْجَبَابِرَةَ بِعِزِّ سَطْوَتِهِ أَجَبُوا  
 بِالَّذِي أَنْتُمْ لَهُ عَابِدُونَ كُلُّكُمْ تَضَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَيْتُمْ وَ

عَصِيَّتُهُ رُحِيَّتُهُ بِنَهَابِ نَابِ وَنَهَابِ مَبِيْنِ وَنَهَابِ كَرَامِدِ الْوَحَا قَبْلَ نَزْلِ الْمَلَائِكَةِ  
بِالْمَهَارِقِ وَالْمَحْرِقَاتِ الْوَحَا قَبْلَ أَنْ يَغْضِبَ الرَّبُّ عَلَيْكُمْ السَّمَاءَ بِكُمْ تَحْسِفُ وَ  
الْأَرْضُ بِكُمْ تَرْجِفُ وَالْعَذَابُ يَنْزِلُ عَلَيْكُمْ وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى مُحِيْطَةٌ بِكُمْ إِنْ كَانَتْ  
إِلَّا صِبْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهُونَ أَجِئُوا بِأَرْكَ اللَّهِ نِيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَأَعِيْنُونِي عَلَى  
هَذَا الْمُنْتَمِرِ وَعَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْتَمِتُ كُونُوا يَا أَيُّهَا اللَّهُ جَمِيْعَاتٍ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
وَ فَفُوهُمَ لَأَنَّهُمْ مَسْئُوْلُونَ -

ترجمہ: اے اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم اور سلامتی والے امن دینے والے انھان کو نیوالے غالب کمی کو  
پورا کر نیوالے اے کبریا والے اے خالق و پیدا کر نیوالے اور صورت بنانے والے اور ابتداء کرنے اور انتہا کو  
پہنچنے والے اپنی مرضی کرنے والے اے اکیلے یگانہ، اے تنہا اے تنہا بے نیاز جس کو نہ کسی نے جنا اور  
نہ ان سے کسی کو جنا میں تجھ کو سوال کرتا ہوں سورہ افعلاص کی برکت سے کہ تو کسی جن کو آسمان میں ہو  
یا زمین میں پر وہ میں نہ رکھ اے وہ ذات جس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے  
تحقیق یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے  
جو بننے والا مہربان ہے یہ کہ میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور سلامت روی سے میرے پاس  
حاضر ہو جاؤ جلدی اور دونوں جہانوں کے پروردگار اللہ کے تابعدار بن کر اللہ ہی ہمارا تمہارا  
رب اور ایک سلامتی ہے اور ہم اس کے آگے سر تسلیم خم ہیں یہ اللہ کی طرف سے کلام  
ہے ہر زود مادہ جن اور شیطان و سرکش و ڈائن (غول یا بان) قبیلہ و نہش سے ہو یا گروہ  
ابلیس سے وغیرہ وغیرہ (یہ سب جنوں کی قومیں ہیں) آسمان کی خبریں زمین پر چرانے والوں  
سے ہو یا زمین کے نیچے گم ہونے والوں سے اے ابلیس کے لشکر تمہارے چھوٹے بڑے  
آزاد و غلام، مذکورہ مونت بہرے اندھے اور سننے والے دیکھنے والے بادلوں ٹیلوں،  
جنگلوں، جھیل سیدانوں، ناریوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے اور جو کوئی تم میں سے عرب  
یا عجم کے ہیں سب کے سب اس وقت جلدی سے حاضر ہو جاؤ جلدی اور مجھ کو اس کی خبر دو جس  
نے اس شخص سے زیادتی و ظلم کیا ہے اور مجھ سے اس کے اس چور کا پورا پورا پتہ نام و نشان اس کے قبیلہ و  
مذہب قوم اور اس کے بادشاہ کے نام سے مطلع کرو، کیونکہ تم کو اور ہم کو ان ناموں کے ساتھ جو میں نے

جب عزیمت بالا ختم ہو چکے تو کسی شخص سے کہے کہ وہ کسی صاف چیز مثلاً آئینہ یا پانی یا تیل میں دیکھنا شروع کرے وہ جو کچھ اس میں دیکھے گا تیرے آگے بیان کرتا جائے گا دیکھنے والے کو جب کوئی شخص اس چیز میں نظر آوے تو تم اس کو کہو کہ وہ اس شخص کو کہے کہ تیرے آگے بیمار کو حاضر کرے وہ اس مریض کو فی الفور تیرے آگے حاضر کرے گا پھر اس سے اس کا حال پوچھو اور ظالم سے بدلہ لے اگر تو چاہے کہ جن کو قید کرے تو مریض کو اپنے سامنے کسی رومال پر کھڑا کرے اور ایک سرمہ دانی لے کر اس میں ایک برہمچہ کاغذ پر اسماء ذیل لکھ کر ڈال دے اسماء یہ ہیں۔ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَبِئْرٍ خَذُوا النَّوَاسِئِ وَالْأَقْدَامِ۔ اور آیت ذیل سرمہ دانی کے باہر رکھ دے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُورُونَ۔ اگر جن کو جلانا چاہیں تو چاہیے کہ ایک نیلے کپڑے میں اسماء ذیل لکھ کر آگ لگا دیں اور اس کا دھواں اس مریض کو پہنچائیں اسماء یہ ہیں طفتش طفتش

(بقیہ ص ۱) اپنی کلام میں ذکر کئے ہیں قسم دیتا ہوں اور اس نام کے جن کے ساتھ ہمارا رب عالم غیب میں اور آسمان کے برجوں اور دریاؤں کے اندر بولا اور جس کی وجہ سے کہ فرشتے جھک گئے اور اس کے چہرے کے جلال کی وجہ سے سجدہ میں گر گئے اور ان کلمات کے ساتھ قسم دیتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے رب نے کلام کی ان آئیو الے فرشتوں پر جو کہ ہلکے پھلکے قدموں کی طرح آگئے اور چلنے والی آنکھوں اور دیکھنے والے نوروں اور مختلف قسموں کی طرح موجود ہو گئے جلدی حاضر ہو جاؤ اور البتہ یقیناً جان لیا تم نے کہ وہ حاضر کئے جائیں گے نہ ہوگی مگر ایک ہی گھڑی کہ وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے، ابھی حاضر ہو جاؤ الے کل جنوں کے سردار اور امیر اور کل شیطانوں اور قبیلو بادشاہوں اور رئیسو جلدی پہنچو اور اللہ تم پر برکت نازل کرے اور تم ایک دوسرے کی نافرمانی نہ کرو اور ہر ایک کو تم میں سے مناسب جگہ میں اتارے جو تم میں سے نام کے ساتھ پکارا جاوے، اس لیے چاہیے کہ اپنے لشکر اور معاونوں اور بیٹوں پوتوں سمیت اللہ اور اس کے ناموں کی برکت کے تابع ہو کر حاضر ہو جائے الے ابلیس کے بیٹے مذہب تو جمع لشکر اور الے ابلیس کے بیٹے مرہ تو بھی جمع لشکر الے امربن ابلیس تو بھی جمع لشکر اور الے ہیکل تو بھی جمع لشکر حاضر ہو جاؤ میں کلام پڑھتا ہوں تم پر الے وہ شخص جن کا نام میں نے لیا ہے اس ذات کی برکت سے جو کہ جلال و جمال کے ساتھ بولا اور کمال اور رونق میں یکتا ہے اور جو دوسری سے

دبر بولکعبہ ۲ ہلیکا ۲ ہلیقتش ۳ لغوش ۲ یا ۲۵ | صرعوًا بَارَكَ اللهُ  
 فِيكُمْ. ايضًا۔ نیلے کپڑے میں اسماء ذیل لکھ کر جلائیں اور اسکا دھواں مرہین کے  
 ناک میں پڑھائیں اسماء میں ابلع ۳ شملیغ ۳ توکل یا انحصر وَاَنْتَ يَا عَبْدَ الشَّادِ  
 بِحُوقِ هَذَا اللَّعِينِ. ايضًا۔ اسماء ذیل بطریق مذکور عمل میں لائیں۔ اصلع ۳  
 قملیغ ۳ تملیغ ۳ ایضًا اسی کے کپڑے کی تین بتیاں بنائیں اور ہر ایک  
 بتی میں اسماء ذیل لکھ کر جلائیں۔ یارب یا رحمن ا۔ مالہ ص ۱۔ مہ  
 مہ ۱۸ بلیغ ملیغ سعال ۲ نوخ یا ہ یا ۱۸۰ ایضًا۔ اسماء ذیل کو اسی کے نیلے  
 کپڑے میں لکھ کر بتی بنا کر تیل میں تر کر کے جلا دیں اسماء یہ ہیں۔ دہ ۱۰۰ ص ۱۱۱ و  
 ص ۱۱۱۔ ایضًا۔ سرمہ دانی میں جن کو قید کرنے کے لیے تم یہ آیات کلمات  
 ذیل پڑھو یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ اِذَا  
 غُلِلَ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ۚ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ

احاشیہ ص ۱۔ ہر بانی کرتا ہے اور قوت و نعمتوں کے ساتھ بلند ہوا اور اپنی قدرت کے ساتھ  
 بندوں کو قابو کیا اور جاہروں کو ہلاک کیا۔ اپنی سطوت کی عزت سے میری بات مانوں جس کی تم عبادت  
 کرتے ہو تم سب کے سب اللہ کے دروناک عذاب سے ڈرتے ہو اگر تم نے انکار و نافرمانی کی تو  
 چمکتے ہوئے شعلہ سے ہلاک کئے جاؤ گے جلدی پہنچو قبل ازیں کہ فرشتے جلانے کا سامان لے کر آئے  
 آئیں خدا کے غضب سے پہلے پہلے حاضر ہو جاؤ آسمان تمہارے اوپر ہے تم کو دبارے گا زمین تم  
 کو تکلیف دے گی۔ عذاب تم پر نازل ہو جائے گا، خدا کے نام تم کو گھیرے پڑے ہیں نہ ہوگی مگر ایک  
 بل وہ یکا یک جاگ اٹھیں گے۔ میری بات مان لو اللہ تم پر برکت اتارے اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے  
 اس کے خلاف مجھ کو مرد دو جہاں کہیں ہو گے تم کل کو اللہ لے آئے گا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور

ان کو ٹھہرا دو ان سے سوال کیا جائے گا۔ ۱۲۔

۱۳۔ <sup>مغنیاً</sup> مجرم اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے پس ہاتھوں اور قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے

ان کو ٹھہرا دو کہ یہ سوال کئے جائیں گے۔ ۱۲۔

الْحَجِيْبُ صَلَوَاتُكَ نَعْرِ فِي سِلْسِلَةٍ نَدَعُهَا سَبْعُونَ ذِمًّا اِنَّمَا سَلَكُوهُ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ  
 الْعَظِيْمِ اَجِبْ يَا صَبُوْرُ بِحَقِّ الَّذِي اَشْرَى بِوَرَقِ صَوَاعِقِ نُورٍ وَجْهِهِ يَحْبِلُ طُوْرٌ سَلْنَاكَ فَانْقَضُ  
 وَانْفِرْ ذَرَا جِرْ هِرْ يَا مَآ كَمَا يَجْرِي الْمَآءُ جَرْدًا وَتَعْظِيْمًا لِلّٰهِ تَعَالَى الَّذِي تَقَالَ لِلشَّمَوَاتِ  
 اِلَى كَمَا يُعِيْنُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ النَّارِ وَ النُّوْرِ وَ الْبَحْرِ الْاَسْوَدِ وَ الْبُرْهَانَ وَ كَفَّةَ  
 الْمِيْزَانِ بِاشِعْ شَمَاجٍ مِنْ كُلِّ بَرَاخٍ بِاشْطَحْ طِيْخَهُ وَ اِهْيَا شَرَاهِيَا اِدْوَانَا اَصْبَاوَاتِ  
 وَ اِلْشَدَا اِي الْوَهِيَا اَجِبْ يَا نَكِيْلُ وَ يَا خُدُوْشَ وَ يَا نَهْشَ وَ يَا اِيَامِرَةَ وَ يَا قَلِيْشَ  
 وَ يَا شَشَمَ الْمَتَا عَلٰى اِدْحَلُوْا عَلٰى الْعَاصِي بِالسَّجْنِ

جب یہ کلمات پڑھ چکو تو جن قید ہو جائے گا پھر باقی بنوں کو حکم کرو کہ اس کا آگے اپنا قبہ خانہ  
 میں لا کر رکھ دیں جب وہ رکھ چکیں تو ان کو حکم کرو کہ قید خانہ کا دروازہ متقبل کر کے کبھی کہیں  
 پھینک دیں یہ ہمیشہ قید رہے گا دیگر ان کلمات سے بھی جن جل جاتا ہے۔ ہذا  
 هَذَا اَقْلَمْنَا ذَاتِيَا اِنَّمَا قَابَا بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالَى الَّذِي يُخْرِجُ الْعَيَّاتِ مِنَ الْمِيْتِ وَيُخْرِجُ  
 الْمِيْتِ مِنَ الْعَيِّ وَيُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ بِاِذْنِ اللّٰهِ طَسْ طِيْشَ  
 وَ بَرْدِ كَلِمِيْعٍ ۲ هَلِيْقَشَ ۲ لَهْوَشَ ۲ يَا ۲۵۔ هَلْبُو ۲۰ اَصْرَعُوْا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَيَحْكُمُ  
 دِيْگَرِ جَنِّ كُوْكَوْرَ لَگَانِيْ فِيْ اِيْكَ طَشْتِ يَا تُوْشَهْ دَا فِيْ اَسْمَاْرِ زَلِيْ كَهْ كُوْكَوْرَ  
 سِيْ پِيْشِيْ فُوْرًا بُوْلَ پُرِيْ لَگَانِيْ تُوْشَهْ دَا فِيْ اِيْكَ يَهِيْشِيْ. ع م ع س ن ه ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  
 يَهْ زَبَانَ سِيْ پُرِيْشِيْ لَفْظٌ عَلَيْهِ عَلَهُ وَ عَقِبَ اَصْرَبَ يَا فَرْحَسَ وَ يَا شَفَ دِيَا مَجْرَالِ الْعُوْدِ اَلْيَا فِ

اے جبکہ طوق ان کی گردنوں میں ہونگے اور زنجیروں میں جکڑے ہونگے اسکو پکڑ کر اور طوق پہنا دو پھر دوزخ میں ڈالو  
 پھر ستر ہاتھ زنجیر میں اس کو باندھ دو کیونکہ یہ اس عظیم خدا تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا تھا، اے صبورِ درخونی، حاضر ہو جا اس  
 ذات کی برکت سے جس کے چہرے کا نور طور پہاڑ پر بجلی کی طرح چمکا اٹھا اور اکیلا اور ایسے بہ جا جیسے پانی بہتا ہے  
 اس خدا تعالیٰ کی عظمت کے لحاظ سے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا کہ موجود ہو جاؤ خواستہ یا نا خواستہ  
 پس انہوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کے لیے جو کل جہانوں آگ، نور، و سمندر و لیل  
 میزان کے پلڑے کا رب ہے (باقی یہ جنوں کے سرداروں کے نام ہیں) اس بدکردار کو قید میں ڈال دو ۱۲ بقیہ ص

بعق سليمان اور به الفاظ کوڑے پر لکھیں ﴿۱۱﴾ اِنَّآ نَاۤءُ كُوهٖ وَاۤءُ رَشْمَا شَمَلِيۤكِ  
 اَللّٰهُمَّ بِيۤكَ اَحْوَلُ وَاۤءُ بِيۤكَ اَقَاتِلُ يَا مَالِكُ يَوْمَ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيۤنُ بِعَقِّ  
 لَاحُوۡلٍ وَّلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيۡمِ وَاِذَا كَانَ يَوْمَ اِحْتِسَابِ اَعْمَالِكُمْ اَنْتَ اَبْرَارٌ  
 اَلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا عَنۡ سَبِيۡلِ ذِيۡنَ النُّوۡرِ عَذَابُ اَبَاقُوۡقِ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوۡا يَفْسِدُوۡنَ -

خاتم یہ ہے ۔

۱۵	۱۵	۱۵
۱۵	بیعوج ۲ دیعوج ۲ قل الله اذن لکم ام علی الله تغتزون فضرب بینہم بسور باطنہ فیہ الرحمتہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔	۱۵
۱۵	۱۵	۱۵

اور یہ سب اس طرح ہے عذاب۔  
 کھڑکی کی جگہ کی حس کی اندر دینی جانب رحمت ہوگی  
 تہمت باندھتے ہو پس ان کے درمیان ایک دیوار  
 ہے ترجمہ تو کہہ دو کہ کیا اللہ تم کو حکم بہت یا نڈر

ان سے بھی جن کو تکلیف پہنچے گی اور بھاگ جائے گا نیز جن کو بدن میں قید کرنے کے لیے بیہوش  
 شخص کی پیشانی پر ایک رو لکھیں اور اس کے گرد سات نقطے ڈال دیں اور ان کے گرد یہ آیت  
 لکھ دیں وَاۤءُ يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّنَا قَالَ اِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ لَقَدْ جُنْتُمْ بِالْحَقِّ  
 وَاٰلٰئِنۡ اَكْتَرْتُمْ يٰۤاٰتِیۡنَ كَاۡرِهُوۡنَ نِیۡرُ مَرۡضٰی كِیۡ پِشَانِیۡ پَرَاۡیۡتِ كِزۡشۡتۡہ وَاۤءُ لَكۡہ كِرَاۡسِ كِ  
 دوزنوں پاؤں کے انگوٹھوں پر آیت ذیل لکھیں وَتَخْرُجُ حَتّٰی یَبۡلِغَ الْجَمَلُ فِیۡ سَمَآءِ عِجَاطِ -  
 تونہ نکلے گا جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہ نکل جائے اور وہیں ہاتھ کے انگوٹھے پر  
 یہ پوری آیت لکھے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ وَاَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعِدۡ لَفِیۡ كِفٰرۡةٍ تٰكۡ یَعْنِیۡ اٰخِرُ سُوۡرۃ  
 فتح نیر مرضی کے ناک پر آیت وَاۤءُ لَظۡ مَا كُنْتُمْ تٰكۡ لَكۡہ كِیۡ بَعۡدُ لَكۡہ كِیۡ اُمۡكُتۡ یَاۤءُ وَاۤءُ

۱۵ ترجمہ اس اللہ کے حکم سے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے اور مردہ ہو جائے کے بعد زمین کو  
 زندہ کرتا ہے اسی طرح تم نکالے جاؤ گے اللہ کے حکم سے ۱۲ ترجمہ اسے اللہ میں تیری ہی مدد سے (باقی صفحہ آئندہ)



حَتَّى يُجَاكِبَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْعَالَمِينَ۔ نیز ایک وزن میں آیت ذیل لکھ کر ٹکاسے  
 سے جن مارے تکلیف کے بھاگ جائے گا شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ  
 الْعَلِيمُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اگر جن کو کوروں سے مار کر نکالنا چاہیں  
 تو یہ تدبیر کریں کہ انار یا ہی کی ایک شاخ لے کر اس میں اسماء ذیل طلعوش سبیلطیلوش  
 بھکودھلا ح حج ح طیفہا سیفظہا عملیجہ سقطیہ لکھ کر اس کو زمین پر مارے اور  
 حالت ضرب میں فَصَبَ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ پڑھنا چاہے  
 انشاء اللہ جن چداٹھے گا اور اپنے حال سے خبر دے گا۔

## صحیح سالم شخص کو بھید معلوم کرنے کے لیے بیہوش کرنا

چاہیے کہ ایک شخص کو جو پاک و صاف ہو یہ دھا کھڑا کر دیں اور اس کے پس پشت  
 بھی ایک دوسرے شخص کو جو کہ پاک و صاف ہو اس غرض سے کھڑا کریں کہ جب یہ شخص بیہوش  
 ہو کر گرنے لگے تو اسے سنبھالے رکھے اور وہ شخص اس کی پیٹھ کو سہارا دیئے رکھے اور وہ  
 شخص اپنی آنکھیں نیچے کر رکھے یعنی روشنی میں صاف نہ کھولے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بالکل بند  
 ہی ہو جائیں یہ عمل ہفتہ کے روز کریں اور تم خود اس کے سر کے قریب بیٹھ کر وقار و ممانت  
 سے کلمات ذیل پڑھنے شروع کرو یہ عمل پڑھتے وقت کوئی ایسا شخص تمہارے پاس نہ  
 چاہیے جو ہنسے اور تمہارا ٹرائے۔

رقیبہ حاشیہ ۲۲۵) جملہ کرتا ہوں اور جنگ کرتا ہوں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں لے  
 روز جزا کے مالک ۱۲۱۰ ترجمہ اور وہ پکاریں اسے مالک چاہے کہ اب تیرا رب ہمارا فیصلہ کر دے وہ کہے گا کہ  
 تم ہیں ہمیشہ ٹھہرے رہو گے یقیناً ہم نے تمہارے لیے حق کو بھیجا تھا مگر تمہیں سے بہت حق کو برا جانتے تھے ۱۲  
 تہ اور تحقیق جو لوگ منکر ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روگردانی کی ہم ان کی ہم ان پر فسادوں کی وجہ سے  
 عذاب پر عذاب زیادہ کریں گے ۱۲۱۱ ٹھہرا رہا ہے اللہ کے دشمن جہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان کوئی  
 فیصلہ کرے اور وہ بہتر حاکم ہے ۱۲ صفرمہ بذا۔ تمام حواشی اس صفحہ کے صفحہ آئندہ پر ہیں ۱۲

أَجِيبُوا أَيُّهَا الْمَكَانِ الْمُؤَكَّلَانِ بِيَمِينِ هَذَا الشَّخْصِ وَشِمَالِهِ أَنْتُمَا عُلْمُ عَالِمِهِ إِنْ كَانَ طَاهِرًا أَوْ نَطِيقًا زَمُودًا مِنْ غَيْرِ إِذِيَّةٍ وَلَا أَنْزِعَاجٍ بِعَنِّي اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ الْقَدِيمَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَمُوسَى الْكَلِيمِ وَمُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ بِيَمِينِ طَهَارَتِهِ وَأَمْرُهُ بِعَنِّي الرَّبِّ أَحِبُّ أَيُّهَا الْغَدِيمُ وَأَرْمِهِ مِنْ غَيْرِ إِذِيَّةٍ وَلَا أَنْزِعَاجٍ يَشْبَهُوهُ ۲ طاطرب ۲ الأَعْظَمُ سُلْطَانَ اللَّهِ أَحْرَقُ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَتَجِدُ عَلَى إِسَاءَتِهِ مَنْ لَا يُجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ إِلَى مَبِيتٍ عَجَلَةٌ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ إِرْمِهِ إِلَى خَلْقِهِ بِأَشْ بِرَشِ تَرْشِ شَمَلِيحِ ابْلَغِ أَمَلِيحِ هِيَ ۲ عَجَل ۱۲ سِرْع ۲ وَأَرْسِدِي إِلَى خَلْفِهِ مِنْ غَيْرِ إِذِيَّةٍ وَلَا أَنْزِعَاجٍ الْوَحَا ۲ يَشْفَقُ بِلِاقِبِيلِ بَعْنِي الْوَلْفِ أَنْتُمْ مِنْ سِلْمَانَ إِلَى سَلِيمَانَ إِرْمِهِ مِنْ غَيْرِ إِذِيَّةٍ وَلَا أَنْزِعَاجٍ السَّاعَةَ - پھر وہ بیوش ہو جائے گا اب وہ بولنے کے لیے ہونٹ بلائے گا مگر مہمل طور پر پھر اسے بلائے کے لیے یہ کلمات پڑھیں اَنْطِقْ وَتَكَلَّمْ بِالَّذِي اَنْطَقَ اَنْعَمَلَةَ لِسِلْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَقَالَتْ يَا أَيُّهَا النَّعْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَجْعَلَنَّكُمْ سِلْمَانَ وَخَبْرُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَتَكَلَّمْ بِالَّذِي اَنْطَمَعَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اَنْطِقْ وَتَكَلَّمْ يَا شَمِيحُ شَمَاخَ اللَّهِ الْعَالِي عَلَى بِنِ بَرَجِ هِيَ اْتَكَلَّمْ يَا هِيَ اَشْ بِرَشِ هَبْطُوا شَلَشِ اِرْيَسِ اَشَلَشِ شَمَلَهَا طَهْشَاءَ - ان کلمات کو چھ دفعہ دہرائیں وہ کل حالات جمع مسلمانوں غائب و حاضر میں یا مسجور صحیح حالات بناوے گا۔

## عقائیر (لوٹیوں) ادویہ کے ساتھ جنوں کا جلدانا

اگر تو جن کو جلدانا چاہے تو ادویہ ذیل اس کام میں کام دے سکتے ہیں۔ بیسہ سالہ ایک حصہ۔ طہیت (سینگ) ایک حصہ۔ حرل دو حصہ۔ سداب دو حصہ۔ حنظل دو حصہ۔ پوست انار

بلکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس ایک ذات کے سوا کوئی لائق عبارت نہیں اور فرشتے اور عالم انصاف کے ساتھ عالم ہیں اس غائب اور حکیم کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ۱۲ کہ ترجمہ میں انارا ان پر تر سے رب نے عذاب کا کورا تحقیق تراب البتہ کھات میں ۱۲ کہ ترجمہ حاضر موجود اسے شخص کے دائیں بائیں مقرر شدہ دونوں فرشتوں الخ اس میں

اب اولوقتہ بختہ کر کے تیز سرکہ میں گوندھیں اور کسی شیشی میں ڈال کر چالیس روز تک  
 دفن کر دیں پھر نکال کر تھوم کے پانی سے گوندھیں اور اس میں سے تھوڑا سا مریض کی ناک میں ٹپکائیں  
 اور اس کے جسم پر مالش کریں اور کاغذ پر ڈال کر ناک میں دھونی دیں اگر کوئی ان اشیاء کی  
 دھونی اپنے کپڑوں کو دے تو جب تک وہ کپڑے دھوئے نہ جائیں کوئی جن اس پر غالب  
 نہ ہوگا ایسا علاج ذیل سب علاجوں سے بڑھ کر ہے جب کوئی تعویذ عزیمت، منتر، جنتر،  
 منتر، دھونی، دعا کام نہ دے تو یہ علاج کریں بکری کا پتہ، بلی کا پتہ، قنقد (سیر)، کا پتہ کتے  
 کا دماغ، گھوڑے کا دماغ، گدھے کا دماغ، کرگس کا گوشت، ہدہد کا گوشت، کال کلچی کا  
 گوشت، کرگس کا پاخانہ، مرغ کی کھنی، چوٹی کے انڈے، ہڑتال، لوبان، زمبھلی ان سب  
 کو اس عورت کے دودھ میں جوڑ کر کابنی ہو کر کریں۔ پھر حریل، کلونجی، تخم بلسان، قسط سفید، چکورا،  
 جگر دونا، مرا کے پتے، ہینگ، وشنی، بزرگرفس، رال سفید، زعفران، مرد کابلول، گدھے کابلول،  
 روغن بلسان، روغن ارزند، نعناع، گندھک، بیخ عرعر، چقندر کی جڑ، تھوم کی جڑ، سداب، ارزند  
 کاتیل، نمک، پھنگڑی، ان سب کو ملا کر بوقت ضرورت اس میں سے تھوڑا سا لے کر مریض کو

برکت سے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم دوست کو اور موسیٰ کلام کنندہ کو اور حضرت  
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کے خاتم کو پیدا کیا اس کی پاکیزگی معلوم کر لو اور اس کو رب کے حکم سے گرا دوائے فاوم اسکو بغیر کسی  
 تکلیف اور کیلپانے کے ٹاؤ سے اللہ کا غلبہ نافرمان کو بہت سخت جلائیو لایا ہے اور جو اللہ کو پکارنیو اسے کی پکار قبول نہ کرے اس کی  
 بدی کو خوب پورا کر نیو لایا ہے وہ اللہ کو زمین میں بدلہ سے عاجز نہیں کر سکتا اور اس کا اللہ کے سوا کوئی محافظ نہیں یہ لوگ ظاہر  
 گمراہی میں ہی خلا تجھے برکت دے جلدی سے اس کو ٹاؤ سے کسی تکلیف کے سوا آرام سے تمہیں یہ خط سلیمان کی طرف سے  
 ہے اور وہ بسم اللہ ہے اور یہ کہ یہ ہے خلف سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر حاضر ہو جاؤ اس کو جلدی سے ٹاؤ بلا  
 حرج و مرج ابھی (کلام کرنے کی دعا کا ترجمہ) بول اور کلام کر اس ذات کے حکم سے جس نے سلیمان بن داؤد  
 کے آگے چوٹی کو زبان دی اور وہ بول اسے چوٹیوں کے گروہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تم کو حضرت سلیمان  
 اور ان کا لشکر بجزی کی حالت میں کچل نہ ڈالے بول اور کلام کر اس وجہ کی برکت سے جس نے حضرت عیسیٰ کو گود

دھونی دیں اور کچھ ناک میں ٹپکائیں۔ علاج مرگی کے علاوہ۔ دفع سردرد۔ مسحور۔ معقود کے لیے بھی دھونی دینے سے فائدہ کرتا ہے۔ ایضاً سداب کا پانی ناک میں ٹپکانے سے بھی جن بھاگ جاتا ہے ایضاً یہ نسخہ نہایت مفید و مجرب ہے۔ میوہ سائلہ۔ ہینگ۔ سداب حمرل۔ پوست انار سب کو باریک پس کر سرکہ میں گوندھیں اور کسی شیشی میں بند کر کے بیس روز تک گرم لید میں دفن کر دیں پھر نکال کر اس میں روغن زیتون شامل کریں۔ نیم تھوڑا سا تھوم کا پانی بھی داخل کریں جب کسی جن کو جلتا چاہیں تو اس میں سے ایک قطرہ مصروع کی ناک و کان میں ٹپکادیں اور اس کے جسم پر پالش کریں انشاء اللہ جن بھاگ جائے گا یا مرجائے گا ایضاً کرگس کا دل شہد میں بریاں کر کے کھانا بھی مصروع کو فائدہ دیتا ہے ایسا ہی وہ معجون جن کا ذکر اوپر آچکا ہے جس میں میوہ سائلہ و ہینگ وغیرہ شامل ہے کسی برتن میں ڈال کر مصروع کے سر پر ٹکا رکھیں تو جب تک وہ ٹکا رہے گا کوئی جن اس کے پاس نہیں ٹھکے گا۔ اگر یہ چیزیں کسی کپڑے میں لپیٹ کر مصروع بچے کی گردن میں ٹکادیں تو وہ اس آفت سے محفوظ رہے گا۔ اگر یہ ادویہ گھریں دہکائی جاویں تو اس میں کوئی جن داخل نہ ہو ایضاً گڑھے کا داہنا تانہ انکشتزی میں حیرٹو کر پاس رکھنا بھی یہی فائدہ دیتا ہے جسے ہوشخص جنوں کو دیکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ سیاہ بلی اور سیاہ مرغی کا پتہ سر میں ملا کر سر بنادے اور آنکھوں میں لگا دے جنوں کی صورت اسے نظر آئیں گی۔

شیخ سیحی ابوالخیر مصنف البیان  
کا مجرب ہے وہ کہتے ہیں کہ

## صرع کا علاج آیات و اوجیہ کے ساتھ

احمد بن صالح کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک لونڈی تھی اس کو جنوں کی کسر یعنی صرع ہو گئی۔ میں نے اس کو جدا کر دیا اور دوسری لونڈی خرید لی اس کو بھی وہی بیماری ہو گئی ایک روز میں اپنے مصلیٰ رہائے نماز پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے اپنا سراٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز میرے سر کے اوپر اڑ رہی ہے پھر میں نے اس کو بسلام کا جواب دیا اور پوچھا تو کون ہے کہا میں ابوزکریا جنی ہوں۔ مجھے ایک دعا سکھانے کے لیے آیا ہوں جب تو اس کو مصروع شخص پر پڑھے گا وہ اللہ

کے فضل سے فی الفور اچھا ہو جاوے گا۔ میں نے دوات اٹھانے کا ارادہ کیا مگر نہ کر سکا۔ اس نے کہا دوات چار پائی کے نیچے ہے۔ پس میں نے دوات و کاغذ اٹھایا اور اس نے مجھے دعا لکھوانی شروع کی جو ذیل میں مسطور ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَفَعِ السَّمَاءَ وَوَضَعَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ وَأَرْسَلَ الرِّيحَ وَأَظْلَمَ اللَّيْلَ وَأَصْنَعِ النَّهَارَ وَخَلَقْ مَا يُرَى وَكَمْ يَجْعَلُ فِيهِ إِلَى عَمَلٍ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأْنُكَ لِمَنْ تَفَكَّرُ فِي قُدْرَتِكَ عِلْمُكَ بِعُلُوقِكَ وَدَعْوَتُكَ بِدُعَاؤِكَ وَفَهْرَتُ خَلْقِكَ بِسُلْطَانِكَ فَالْمَعَادِي لَكَ مِنْهُمْ فِي النَّارِ وَالْمَذَلُّ لَكَ نَفْسَهُ مِنْهُرِي فِي الْجَنَّةِ أَمَدَّتْ بِاللُّدْعَاءِ وَتَلَفَّتْ بِالْوَجَابَةِ رَدَّ قَضَاءَكَ دُعَاءُ نَارِي إِذَا اسْتَجَبْتَ لَنَا أَنْتَ الْفَرِيضِيُّ فَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ آخُوِي مِنْكَ وَأَنْتَ

لہ ترجمہ اس اللہ کو سب طرح کی تعریف خاص ہے جس نے آسمان کو بلند کیا اور زمین کو بچھایا اور پہاڑوں کو لگایا اور ہوئی بھینیں اور رات اندھیری بنائی اور دن روشن اور ان چیزوں کو پیدا کیا جو دیکھی جاسکتی ہیں اور جو نہیں دیکھی جاسکتی اور اس نے اس کام میں مخلوق میں سے کسی کی مدد نہیں لی تو پاک ہے تیری شان تیری قدرت میں فکر کرنے سے بڑھ کر ہے تو اپنے علو سے بلند ہوا اور اپنے دلو سے نزدیک ہوا اور اپنے غلبہ سے مخلوق کو قابو کیا پس تیری مخلوق میں سے جو کوئی عدوان کرے وہ جہنمی ہے اور اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں ذلیل کرے جنتی ہے تو نے ہم کو دعا کا حکم دیا ہے اور تو اسے قبول کرنے کا کفیل ہوا ہے مگر تو ہماری دعا قبول کر لے تو تیرے فضائل ہے تو ایسا قوت والا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں تو ایسا رحیم کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں تو نے یعقوب علیہ السلام پر رحم کیا تو ان کی بیٹائی ٹوٹا دے یوسف علیہ السلام پر رحم کیا ان کو کوئیس سے نجات دی اور الیوب علیہ السلام پر رحم کر کے ان کی بدادور کر دی اسے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری طرف راغب ہو کر تو سب سوال کئے گیوں سے بڑھ کر ہے تیرے سوا تو کون مسئلہ ہونے کے لائق ہی نہیں اسے جاہلوں کو گرا نیوالے روز جزا کے بدلہ دینے والے اسے وہ ذات جو پوسیدہ پڑیوں کو زندہ کرے گا اسے وہ ذات جس نے جہنم پر تلوار سے تیزبال سے باریک خلقت کے گزرنے کے لیے پل صراط قائم کیا ہے تو نے فلان شخص کو بیماریوں دردوں دکھوں مرضوں میں مبتلا کیا ہے اور تو ان سب تکالیف کو دور کرنے پر قادر ہے اسے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ۱۲

الرَّحِيمِ فَلَيْسَ أَحَدًا رَحِمُ مِنْكَ رَحِمْتَ يَعْقُوبَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ بَصْرًا وَرَحِمْتَ يُوسُفَ  
فَنَجَّيْتَهُ مِنَ الْجُبِّ وَرَحِمْتَ أَيُّوبَ فَكَشَفْتَ عَنْهُ بَلَامًا وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَارْتَبَّ إِلَيْكَ  
فَانْكَ خَيْرُ مَسْئُولٍ وَلَمْ يُسْأَلْ عِزُّكَ يَا قَاصِمَ الْجَبَابِرَةِ يَا دَيَّانَ بَيْعَةِ الدِّينِ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ  
وَهُوَ رَمِيمٌ يَا مَنْ نَصَبْتَ الْعِوَاطَ لِخَلْقِكَ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ السَّيْفِ وَارْقُ مِنَ الشَّعْرَةِ  
عَلَى حَبْرٍ جَهَنَّمَ أَنْتَ ابْتَلَيْتَ فَلَمْ تَذْبِذْهُ الْاَوْجَاعَ وَهَذَا الرِّيحَ وَهَذَا الرِّمَاحَ  
وَالْاَسْقَامَ وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الذَّهَابِ بِهَا يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ....

جب وہ جنی یہ دعا سکھا چکا تو میں نے اس سے پوچھا اس کو کس پر پڑھوں کہا پانی پر پڑھو بہ شرط  
وضو اور مریض کو پلہ دو انشاء اللہ اچھا ہو جاوے گا پھر میں نے اس سے دونوں لونڈیوں کا علاج  
کیا ابھی ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ دونوں اچھی ہو گئیں اس کے بعد جس مریض پر پڑھا رہا وہ اچھا ہوتا  
رہا۔ شیخ فقیہ سلیمانؒ کہتا ہے کہ سعید بن مسیب سے ایک مومن بن ملا اور کہا اسے سعید کیا تو  
چاہتا ہے کہ تجھے ایک ایسا لباس پہنا دوں کہ جس انسان کے پاس رکھا جاوے اس کو کوئی بیماری نہ  
برائی ہاتھ نہ لگاوے اور اگر چار پائی پر ٹسکا یا جاوے تو اس کو کوئی بیماری نہ ستاوے اور اگر  
کوئی اس کو پاس رکھ کر بادشاہ کے پاس جاوے تو بادشاہ پر اس کی بہت طاری ہو اور اگر  
اپنے پاس رکھ کر کشتی و جہاز میں بیٹھے تو ڈوبنے کا خطرہ نہ رہے اور اگر کوئی مسافر اپنے پاس  
رکھے تو اس کو سفر کی تکالیف سے محفوظ رکھے سعید نے کہا ایسی چیز مجھے کون سکھائے گا اس  
نے کہا دو ات لا اور رکھ اور یہ دعا رکھو اَللّٰهُمَّ كُلُّ ذِي مَلِكٍ مَمْلُوكٌ لِلّٰهِ وَكُلُّ ذِي عِزٍّ  
فَعَلَيْ اللّٰهِ كُلُّ ذِي قُوَّةٍ فَضِعْفٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَكُلُّ جَبَّارٍ فَضِعْفٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَكُلُّ ظَالِمٍ  
لَمْ يَحِصْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَأْتِ عَذَابًا حَامِلًا كِتَابِي هَذَا اَوْ يَأْتِيهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَ الْعِزِّ وَالرِّسْوَةِ  
وَالشَّيْطَانِ وَالْعَفَارِيَّتِ الْمُتَمَرِّدِ بْنِ خَاتِمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَعَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَعَضَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى اَكْتَانِهِمْ وَخَيْرٌ كُمْ بَيْنَ اَعْيُنِكُمْ وَشُرُكُكُمْ

۱۔ ترجمہ کل ملکوں والے اللہ کے غلام ہیں اور کل عزت والوں پر اللہ غالب ہے اور ہر طاقتور اللہ کے نزدیک ضعیف  
ہے اور ہر گردن کش اللہ کے نزدیک کوتاہ ہے اور کسی ظالم کی اللہ سے جاتے پناہ نہیں اسے اللہ تحریر

تَعَتَّ أَقْدَامِكُمْ وَلَا غَالِبَ إِلَّا اللَّهُ يَا حَامِلَ كِتَابِي هَذَا فِي عِزِّ اللَّهِ الْمَانِعِ الَّذِي لَا يَبْدُلُ  
 مِنْ اِعْتِزِّيهِ إِلَّا يَكْتِفُ مِنْ اِسْتَرْبِهِ سُبْحَانَ مَنْ اَلْجَمَلَ لِبَحْرِ بِكَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ  
 مَنْ اَطْفَاكَ رَا بِرَاهِيمَ بِحِكْمَتِهِ سُبْحَانَ مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ اَقْبَلْ وَلَا تَنْغَفُ  
 نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لَا تَغَانُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى لَا تَخْفُ اِنَّكَ اَنْتَ اَلْعَلَى لَا  
 نَخَافَا اِنَّنِي مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَارَى اَللَّهُمَّ اَرْحَمَ حَامِلِ كِتَابِي هَذَا وَاسْتَرْبِهِ بِسِتْرِكَ  
 الْبَاقِي الْعَصِيْنَ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ وَطَعْنِهِ وَقَرَارِهِ الَّذِي سَتَرْتَ بِهِ اَوْلِيَاءَكَ  
 الْمُتَّقِينَ مِنْ اَعْدَائِكَ الْكَافِرِينَ اَللَّهُمَّ مِنْ عَادَاهُ قَعَادِهِ وَمَنْ كَادَهُ فَكْدَهُ وَمَنْ  
 نَصَبَ لَهُ نَحَا وَاَطْفَى عَنْهُ نَارَ مَنْ اَرَادِيهِ عِدَاوَةً وَشَرًّا وَقَرِّحْ عَنْهُ كُلَّ هَمٍّ  
 وَضَيْقٍ وَلَا تُعَمِّدْهُ مَا لَا يُطِيقُ اَنْتَ اَللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَقُّ الْحَقِيقُ وَصَلَّى اَللَّهُ  
 عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ صَاحِبِهِ وَسَلَّمَ سَلَامًا -

کے اٹھانوالے کے دشمنوں اور ہاسدوں جنوں سے ہوا انسانوں سے شیطان ہوا بن کر شہ سلیمان علیہ السلام کی مہر  
 تمہارے مونیوں پر اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا تمہارے شانوں پر لگے تمہاری بھلائی تمہارے سامنے ہے اور تمہاری شرارت  
 تمہارے قدموں میں سوائے خدا پاک کے کوئی غالب نہیں ہے میری تحریر کے باندھنے والے ان مصیبتوں کو روکنے والے اسٹری  
 پنہ میں ہو جا جس کے ساتھ پنا دینے والا کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا اور اسکے ساتھ پردہ پوش ہونے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا پاک ہے  
 وہ ذات جس نے دریاؤں کو اپنے حکم کا لگام دیا ہے اور اپنی حکمت سے حضرت ابراہیم کی آگ بچھا دے اور جس کی عظمت کے  
 آگے کل چیزیں متواضع ہو گئیں آجا اور خون نہ کر تو نے ظالموں کی قوم سے نجات پائی تجھے جہنم کا بھی خوف و خطر نہ ہوگا  
 نہ ڈر تو ہی غالب ہو گا نہ ڈر میں تمہارے ساتھ ہوں سنا اور دیکھا ہے اللہ میری اس تحریر کے اٹھانوالے پر رحم  
 کر اور اپنے ستر میں اسے جگہ دے جو کہ اس کے لیے شب و روز سفر و حضر میں دائمی ظلعی کا کام دے جیسا کہ تونے اولیاء  
 کی حفاظت کرتا ہے اپنے دشمنوں سے اے اللہ اس کے دشمنوں سے عداوت کر اور اسکے رنج و سہدہ کو تکلیف دے  
 اور جو اسکے لیے شکار کا جال پھیلے اسے پکڑے اور اسکے خلاف شرارت و عداوت کرنیوالوں کی آگ بجھا دے  
 اور کل غم و تنگی اس سے دور کر دے اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال تو ہی ایک سچا اور یقینی اللہ  
 ہے تیرے سوا کوئی لائق عبارت نہیں اور اپنے رسول پر رحمت نازل کر اور اس کے اصحابوں اور نیز سلام۔

ایضاً پاک پانی پر سورہ فاتحہ و آیتہ الکرسی اور سورہ قُلْ اَوْحٰیٰۤیٰ کی پہلی پانچ آیات پڑھ کر دم کریں اور مصروع کے منہ پر ماریں ہوش میں آجائے گا۔ اگر مریض کوئی چیز اس مکان سے بتلاوے تو وہ پانی اس مکان پر چھڑک دینا چاہیے۔ وہ موزی اس مکان سے نکل جائے گا اور پھر بھی نہیں آئے گا ایضاً کسی ایک برتن میں سورہ فاتحہ لکھیں۔ اَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَرَامَنَةِ نَعَسًا یَغِیْثُ طَآئِفَةً مِّنْکُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ یَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَیْرَ اِلْحٰقٍ فَلَئِنَّ الْجَآهِلِیْنَ لَیَقُوْنُوْنَ هَلْ نَنَامُ مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَیْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ کُلَّهُ لِلّٰهِ وَیُخْفُوْنَ اَنْفُسَهُمْ مَا لَا یُبْدُوْنَ لَکَ یَقُوْلُوْنَ لَوْ کَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ مَا قَاتَلْنَا هٰمْ اَطَقْنَا قُلْ لَوْ کُنْتُمْ فِیْ بُیُوْتِکُمْ کَبُرَتْ الذِّیْقَاتُ کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰی مَضَاجِعِهِمْ وَلَیَبْتَلِیَ اللّٰهُ مَا فِیْ صُدُوْرِکُمْ وَلَیَمْحِضَ مَا فِیْ قُلُوْبِکُمْ وَاللّٰهُ عَلَیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ لَکَیْنَ یُخْبِرُ مُحَمَّدًا رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءٌ عَلٰی الْکُفَّارِ رُحَمَآءٌ بَیْنَهُمْ تَزَلُّوْمٌ رَّکْعًا سَجْدًا یَتَّبِعُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضًا نَّاسِیْمًا هُمْ فِیْ رُجُوْمِهِمْ مِّنْ اَنْزَالِ السُّجُوْدِ ذٰلِکَ مَثَلُهُمْ فِی النَّوَارِۃِ وَتَآءَمُّوْهُمْ فِی الْاَوْنِجِیْلِۃِ کَزَّرِعٍ اَخْرَجَ شَطَاۗءًا فَآزَرَعًا فَاسْتَعْلَطَا فَاسْتَوٰی عَلٰی سُوْقِہِ یُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لَیَغِیْظَنَّ بِہِمَّ الْکُفَّارِ وَوَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ مِنْہُمْ مَّغْفِرَةً وَّآجْرًا عَظِیْمًا۔

لکھیں پھر سب عروت کو روغن گنجد سے دھو کر مصروع کو مالش کریں اچھا ہو جاوے گا اور پھر مرض بھی دورہ نہیں کرے گا ایضاً امام غزالی خواص القرآن میں کسی صالح پر سہزگاری سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رات اس بزرگ کی لونڈی نے ایسی جگہ بول کر دیا جہاں کہ متنادنہ تھی اسے مرگی ہو گئی۔ وہ بزرگ اٹھا اور اسما ذیل پڑھ کر دم کیا اچھی ہو گئی اور اس کے بعد پھر اس کی وہ حالت نہ ہوئی اسما یہ ہیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حَلِدِطَسْ طَسْمِ کھبعض یسن وَالْقُرْآنِ الْعَبِیْمِ مَحْسُوْرًا وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُوْنَ الْوَقْتِیْبِہِ ذِکْرًا ہے کہ اس کو بنی تمیم کے ایک شخص نے بتدیا کہ اس کے ایک لڑکا تھا وہ غروب آفتاب کے وقت لڑکوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا اور مصروع ہو گیا میں نے کہا اسے افسوس میرے بچے کو کیا ہو گیا۔ اس نے فصیح زبان سے کہا یہ ہماری نماز کا وقت ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو غروب آفتاب کے وقت محفوظ رکھو میں نے کہا ہاں لیکن اب تو لاجول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی برکت سے نکل جا



پس وہ نکل گیا اور پھر کبھی نہ آیا فقیر کبیر دلی احمد بن موسیٰ بن مجمل سے روایت ہے کہ وہ مصروع پر آیت ذیل پڑھا کرتے تھے اور جن دشمنان بھاگ جایا کرتے تھے آیت یہ ہے

اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ مَا عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ایضاً اصحاب کہف کے نام گھر کی دیواروں پر لکھنے سے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے نام مطابق حوالہ تفسیر واحدی یہ ہیں۔  
تملیخا۔ مکسلمینا۔ مرطوس۔ بیزوس۔ سادینوس۔ الکفیشینونوس۔ دوناس وکلبہم  
تطیبر۔ بعض علماء سے روایت ہے کہ مصروع کے داہنے کان میں ہانگ دینے اور بائیں کان میں اقامت کہنے سے صرع دور ہو جاتی ہے ایضاً اس مرض کے مجربہ ادویات میں سے نہایت مفید دوا یہ ہے کہ ایک ادویہ اصل السوس (ملٹھی) کوٹ کر رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھتے ہی پی لیں اس کا بتلانے والا جھوٹ کہنے والا نہ تھا۔ ایضاً ہینگ کے کھانے اور ناک میں قطرہ ٹپکانے اور ناک میں بخار چڑھانے سے بھی نہایت فائدہ ہوتا ہے نیز گندھک کا پاس رکھنا بھی مفید ہے۔ اور بیہوش شخص کے سنگھانے جلد باہوش ہو جاتا ہے۔

باب تابعہ یعنی ام الصبیان کے علاج اور اس گفتگو کے بیان میں

جو اس موذیہ اور سلیمان علیہ السلام کے مابین واقع ہوئی

یاد رہے کہ ام الصبیان وہ بلا ہے کہ گھروں کو گرا دیتی ہے محلوں کو برباد کر دیتی ہے اور رات دن رزق کو کم کرتی ہے۔ اور شرارت و مصیبت کو بڑھاتی ہے جبریل امین سے روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام سرکش و شریعتوں و شیطانوں کے قید کرنے کا حکم ہوا تو زمین و آسمان کے تمام لشکر سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر ام الصبیان

لہ اس روایت کو ہم نے کتب حدیث میں بہت تلاش کیا مگر نہ پایا غالباً یہ متروک احادیث سے ہے اور روایت بھی بات صحیح معلوم ہوتی ہے چونکہ امام موصوف نے اس کو درج کیا ہے اس لیے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں ۱۲

نے ام الصبیان کو کرمان دے دی ہے۔ حالانکہ آپ کی امت میں جو تکلیف و مصیبت ہے سب اس کی طرف سے ہے سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو حاضر کرو۔ فی الفور زنجیروں میں جکڑی ہوئی اور گلے میں طوق ڈالے ہوئے حاضر کی گئی۔ جب سلیمان نے اس کو دیکھا تو اول اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا پھر کہا اے ملعونہ میں نے تجھ سے زیادہ کسی کو ہیبت ناک و خطر ناک نہیں دیکھا۔ بتلا کہ تیرا نام کیا ہے اور کیا کام کرتی ہے اور وہ پر پھیلائے ہوئے منہ کھوے ہوئے زمین کو کھودتی تھی۔ پاڑوں کو چیرتی تھی درختوں کو اپنے ناخنوں سے اکھاڑتی تھی اور باوجود زنجیروں میں جکڑنے اور گلے میں طوق ڈالے جانے کے گرجنے والے بادل کی طرح گرجتی تھی۔ اور کچھ خواب نہ دیتی تھی۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے سلیمان اس ملعونہ کو آگ سے جلا دو اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دو۔ اب وہ ملعونہ بولی یا سیدی تجھ سے قسم کی قسم ہے۔ مجھے آگ کا عذاب نہ دیجیو آگ سے عذاب دینا خدا کا خاصہ ہے۔ اس عذاب میں تخفیف کیجیے میں آپ کو اپنا نام و کام بتاتی ہوں کہا یا نبی اللہ میں ام الصبیان ہوں میں گھروں کو خالی کر دیتی ہوں اور قبروں کو آباد کر دیتی ہوں۔ بڑوں کو قسم قسم کے اوجاخ و امراض مصیبت و بلاء فقر و فاقہ میں مبتلا کرتی ہوں۔ عورتوں کی گود کو اولاد سے خالی کر دیتی ہوں تاجروں کو تجارت میں نقصان ڈلواتی ہوں ہر قسم کی بیماری پھیلاتی ہوں میں کھیتوں کو ہلاک کرتی ہوں اور پانی کم کر دیتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اے ملعونہ تو مردوں اور عورتوں، بچوں کو کس طرح پکڑ لیتی ہے اور پانی و کھیتی کو کس طرح کم کرتی ہے۔ کہا یا نبی اللہ مردوں و عورتوں کو کھا جاتی ہوں اور بچوں کی ہڈیاں چور کرتی ہوں ان کا گوشت کھا جاتی ہوں ان کا خون پی جاتی ہوں اور ان کی ماؤں کی گودوں کو خالی کر دیتی ہوں اور عورتوں اور بچوں میں سے ان کو چنتی ہوں جن کی آنکھیں سیاہ ہوں چہرہ سرخ ہو یہ بات سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا اے ملعونہ ایسی بدکرداریوں کے ہوتے ہوئے تو مجھ سے تخفیف عذاب چاہتی ہے میں تجھ کو زمین کے ساتوں طبقے میں قید کروں گا اور تجھ پر قلعی و تانبا

گلوادوں گا اور تجھے سخت عذاب دوں گا۔ اور پینے کو پیپ دوں گا اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے ایسا سخت عذاب نہ دیکھئے میں آپ کو چنند عود سکھا دیتی ہوں جو شخص ان کو اپنے پاس رکھے گا میں اس کی ہڈی و گوشت۔ جسم۔ بال و غیرہ ہر ایک اعضا سے نکل جایا کروں گی اور پھر واپس نہ آیا کروں گا اور نہ اس مکان میں کبھی داخل ہوں گی لیکن یا نبی اللہ اپنی امت کے ہر ایک فرد کو کہہ دیں کہ اس علم کو جو میں آپ کے آگے ذکر کروں گی اپنے پاس رکھا کریں جو اپنے پاس رکھے گا ہر بلا و بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اگر حاملہ عورت اپنی کمر میں لٹکائے رکھے گی تو وضع حمل کی تکلیف سے مامون رہے گی اور وضع حمل کے بعد بچے کے گلے میں لٹکا دے انشاء اللہ بچہ ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ تا وقت یہ کہ وہ عہد یا تعویذ اس کے پاس رہے گا سلیمان نے کہا اے ملعونہ وہ عہد و میثاق و تعویذ بیان کر اور ساتھ ہی قسم کھا کہ تو اس حامل کتاب کے نزدیک نہیں جائے گی۔ اسی اثنا میں جبریل امین نازل ہوئے اور ملعونہ سے کہا تو کون ہے اس نے وہی ماجرا جو سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ سنایا۔ جبریل نے کہا پس وہ عہد و میثاق لاؤ اور پختہ وعدہ کرو کہ تم اس کتاب کے حامل کے پاس کبھی نہیں بھٹکو گی اس نے قسم کھائی اور کہا یا سیدی مجھے قسم ہے اس ذات پاک کہ جسکا عرش پانی پر ہے جس نے پرندوں کو ہوا میں مسخر کیا ہوا ہے کہ میں اس شخص پر ظلم نہ کروں گی جس کے پاس وہ عہد ہوگا اور اس کے مکان کے نزدیک نہ بھٹکو گی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کچھ اور زیادہ کر کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین و آسمان کو فرما بردار ہو کر آنے کا حکم دیا اور قسم ہے جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل اور ملائکہ مقررین کے حق کی اور جو شخص ان بھود و اسماء کو اپنے پاس رکھے گا میں اس کے پاس نہیں بھٹکوں گی نرات میں نہ دن میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کچھ اور زیادہ کر کہا یا نبی اللہ مجھے قسم ہے تیرے اسم و خاتم و قوت و شکر و طاعت کے حق کی اور ابراہیم خلیل اللہ کے حق کی اور موسیٰ کلیم اللہ و عیسیٰ زورح اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کے حق کی کہ جو شخص اس عہد کو اپنے پاس رکھے گا میں اس کے جسم و تمام اعضا سے نکل

جاؤں گی جیسا کہ بال آٹے سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس ملعونہ نے بارہ اسماء اور طلسم اور ایک خاتم بتلائی بارہ اسماء یہ ہیں۔ الراس ۲ طرطرس ۳ بقوس ۴ فیوس ۵ مہروس ۶ ہروس ۷ بعدوس ۸ سرنلوس ۹ یلوس ۱۰ ملعوتہ ۱۱ م الصبیان ۱۲ اعطوس طلسم یہ ہیں ح ع ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

ان کے ساتھ یہ طہا طیل بھی لکھے  
طہا طیل یہ ہیں طہا طیل مہطہ طیل۔  
قہطہ طیل قہطہ طیل تہطہ طیل  
حہطہ طیل۔ لہطہ طیل۔ ان  
سب اسماء یعنی خاتم و طلسم و طہا طیل کو  
کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے۔

ھف	۱۱	س ۲	ت	ط	خ	ز
ونی	۱۱۱۱	ر	ش ۲	ت	خ	خ
ت	ونی	ب	ح	س ۲	ت	ط
۱۱	ظا	ت	ب	ح	ش ۲	ت
ت	۱۱	ظ	خ	ونی	ب	ش ۲
ش	ت	۱۱۱۱	ظ	خ	ونی	ب
ج	ش ۲	ث	ط	خ	ونی	ب

### عہد سلیمان علیہ السلام کے بیان میں

یہ عہد جس مریض کے پاس ہوگا شفا پائے گا اور ڈرنے والا خوف سے محفوظ رہے گا اور طالب حاجت کی حاجات پوری ہوں گی جس عورت کو اولاد کی خواہش ہو وہ با اولاد ہوگا جو عورت حاملہ ہونا چاہے حاملہ ہو جائے گی مگر فیکہ یہ عہد عقید بنی آدم کے ان امراض کے واسطے ہے جو جنوں کی طرف سے ہوں نہایت مفید ہے اس کے متعلق روایت یوں ہے کہ ایک روز سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ بوڑھی عورت آ حاضر ہوئی جس کے دانت ہاتھی کی مانند تھے اور اس کے بال کھجور کے ریشوں کی طرح تھے اس کے منہ اور نتھنوں سے دھواں

نکلتا تھا۔ اس کی آواز گرجنے والے بادل کی سی تھی اس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی تھیں۔ بد شکل برے آواز والی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا ہیبت کے مارے سجدے میں گر گئے پھر سر اٹھایا اور کہا اسے بد صورت بھونڈی شکل میں نے تجھ سے زیادہ بد شکل کوئی نہیں دیکھا تبلا تو کون ہے اور کیا کام کرتی ہے میرا نام ہمتہ بن ہمتہ ہے اور میری کنیت ام الصبیان ہے میں زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں رہتی ہوں سلیمانؑ نے پوچھا اے ملعونہ تو کن لوگوں پر مسلط کی جاتی ہے کہا رسی مرد و عورتوں پر اور ان لوگوں پر جن کے پاس اللہ کی آیات میں سے کوئی آیت نہ ہو اور جس کے پاس آپ کی خاتم نہ ہو یا بنی اللہ میں عورتوں کے ہر ایک حال میں ان کے اندر اس طرح سرایت کر جاتی ہوں جس طرح خون لوگوں میں سرایت کرتا ہے اور ہزار ہا رنگ تبدیل کرتی ہوں اور گدھے کی طرح رینکھتی ہوں اور اونٹ کی طرح کمراتی ہوں اور بھیڑیے کی طرح بھونکتی ہوں اور سانپ کی طرح سیٹی مارتی ہوں اور چیتے کی طرح غزاتی ہوں سلیمانؑ نے کہا بخدا میں تجھ کو سخت زنجیروں میں جکڑ کر اور تیرے گلے میں طوق ڈال کر دریا کی تہہ میں قید کر دوں گا اور زلت و خواری سے تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا یا بنی اللہ آپ کے حق میں معافی بہتر ہے مجھے معاف کیجئے اور مجھ سے عہد و میثاق لے لیجئے کہ جس طرح پاس وہ آسمان ہوں گے میں بھی ان کے نزدیک نہ جاؤں گی سلیمانؑ نے پوچھا تیرا کیا نام ہے کہا الہمة بنت الہمة اور میری کنیت ام الصبیان ہے اور میرے دس نام ہیں، اول قلتوش، مقلوش، ۳ ہبلوش، ۴ قرقوش، ۵ عمروش، ۶ ایلد قوش، ۷ قمتوش، ۸ قوش، ۹ مقر قوش، ۱۰ قوش، ۱۱ قوش، ۱۲ قوش میں لوگوں کا گوشت کھا لیتی ہوں۔ خون پی جاتی ہوں پس آپ مجھ سے عہد و میثاق لے لیں کہ اس شخص کے جان و مال میں نقصان نہ پہنچاؤں گی جس کے پاس تیری کتاب ہوگی سلیمانؑ نے کہا تیرا عہد و میثاق کیا ہے کہا میں آپ کو یہ عہد دیتی ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِحَقِّ الَّذِیْ لَہُ التَّوَلِیُّوۃُ وَالتَّکْوِیْنُ وَالتَّعْظِیْمُ وَالتَّحْمِیْدُ

لے ترجمہ عہد اول شروع اللہ مہربان و بخشنے والے کے نام سے اس کے حق سے جو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور تسبیح عظمت اور حمد اور نور اور تانگی کا مستحق ہے اور وعدہ کا سچا کر نیوالا اور اپنے ارادہ کو گزر نے والا ہے ۱۲۔

وَالْتَوَدُّوْا لِبَهَاءِ صَادِقِ الْوَعْدِ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ - جس کے پاس یہ اسماء نہیں گے  
 میں اس کے پاس نہیں پھنکوں گی عہد ثانی بِحَقِّ الَّذِي تَجَلَّى لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دُكَا وَخَرَمُوسَى  
 صَعِقًا مِنْ نُورِهِ وَنَظَرَ لِلْجَبَلِ قَدْ كُنْدَاكَ مِنْ جَلَالِهِ - جو شخص ان کلمات کو لکھے گا  
 میں اس تک نہ پہنچ سکوں گی عہد ثالث الْبِسْمِلَةُ وَحَقِّ الَّذِي أَمْسَكَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَهْدِ الْمَلِكِ  
 الْقُدُّوسِ الْمُبِيِّ الْمُبِيَّتِ يَا عَمَّ النَّفُوسِ - ان کلمات سے دور ہواؤں گی عہد  
 رابع الْبِسْمِلَةُ وَحَقِّ الطَّرِيْمِ وَكِتَابِ مُسْطَوْرِيٍّ وَبِحَقِّ مَسْجُودِيٍّ وَحَقِّ خَالِقِ التُّورِ وَبَاعِثِ مَنْ فِي الْقُبُورِ  
 جو ان ناموں کو لکھ کر پاس رکھے گا میں ان سے بھاگ جاؤں گی عہد خامس الْبِسْمِلَةُ وَحَقِّ  
 مَنْ هُوَ نُورٌ فَوْقَ نُورٍ أَنْوَرُ يَطْهَرُ مِنْ نُورِهِ وَحَقِّ عَرَشِ الرَّحْمَنِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ الْمُهَيَّبِ الْعَزِيزِ  
 الْجَبَّارِ الَّذِي هُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ - ان کلمات والے کے بھی میں قریب  
 نہ جاؤں گی عہد سادس الْبِسْمِلَةُ وَحَقِّ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ الطَّارِقِ بِغَيْرِ عَمْدٍ وَلَا مَعْلَاقٍ  
 وَأَبْرَأُ ذِمَّةَ الْبَيْتِاقِ وَيَسْرُ الرِّزْقُ لِلْخَلَائِقِ ذَلِكَ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَجَوَانِ كَلِمَاتِ كُوَيْسِ رَكْه  
 میری اس تک رسائی نہیں عہد سابع بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَحَقِّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ  
 السِّرِّ وَمَا هُوَ أَخْفَى وَحَقِّ كُرْسِيِّكَ وَعِزَّتِكَ وَنُبُوَّتِكَ وَخَاتَمِكَ الَّذِي مَلَكَتْ بِهِ الْجَنَّةَ وَ  
 اِلْدَنْسَ وَالْطَّيْرُ الْقَفَائِتِ وَالسَّرِيحُ الْعَاصِفَاتِ نہ قریب جاؤں گی میں اس  
 شخص کے جو پاس رکھے ان اسماء کو اور نہ قریب جاؤں گی اس کے پاس اور اولاد  
 کے بالف الف لاجل ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پس اس وقت سلیمان نے آصف بن  
 برخیا اپنے وزیر کو بلایا اور اس کو اسم اعظم یاد تھا سلیمان نے اس کو کہا کہ تو اس کو لکھ  
 دے پس اس نے لکھ دیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حِبَابٌ مِّنَ اللّٰعْنَةِ الْمَلْعُونَةِ اُمَّ الْقَبِيَّانِ وَجَمِيعِ عَقَارِئِهَا وَالْاِخْوَانِ

۱۱۔ ترجمہ روم اس ذات کے حق سے جس نے پہاڑ تجلی کر لئی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ  
 بیہوش ہو کر گرے اس کے نور سے آپ نے پہاڑ کو دیکھا اور اللہ کے جلال کی وجہ سے چھٹ چکا تھا  
 ۱۲۔ یہ تیسرا عہد اللہ اس ذات کی برکت سے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے روکا ہوا ہے  
 وہ بادشاہ ہے پاک ذات زندہ کرنے اور ماریں والا اور نفسوں کو دوبارہ اٹھانے والا۔ ۱۲

وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْبَحْرِ وَالرِّمَالِ وَالْكُهُونِ وَالْعِطَانِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالشَّعْيَانِ وَالطَّرْقَاتِ وَالْمَرَارِدِ  
 وَالْبَرَارِي وَالنَّقَارِ وَالطَّائِرِينَ فِي الْهَوَايِدِ وَالْمُسْتَرْقِينَ السَّبْعَ مِنَ السَّمَاءِ وَالغُرَّاسِينَ وَالظَّالِمِينَ  
 وَالغِيلَانَ وَالنَّوَابِعِ وَالزَّوَابِعِ وَجَمِيعِ الْجِنِّ وَالطَّاعِينَ أَجْمَعِينَ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
 أَعَزَّمُ عَلَيْكُمْ بَعْزًا يُوسُفُ بْنُ دَاوُدَ وَعَلَيْهَا السَّلَامُ وَجَمِيعِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَالْعُمُودِ حَبِيبَتِكُمْ  
 وَتَرَدُّتِكُمْ أَبَعْدَ تَكْوُنِ هَذَا الْكِتَابِ وَعَنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَتَعُودِهِ وَمَقَامِهِ وَنَوْمِهِ  
 وَيَقِيظِهِ حَبِيبَتِكُمْ بِاسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ وَبِحَاتِمِ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
 وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ  
 الرَّاحِمِينَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا تَقْلُوبُوا عَلَيَّ وَ  
 أَتُونِي مُسْلِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَلَا حَوْلَ  
 وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

پوری کرنے والے رب کی برکت ہے جو کہ مکان میں موجود ہے چھٹا عہد اس ذات سے جس  
 نے بلند آسمان کو بغیر ستونوں اور ٹھکانے کے اونچا کیا اور منافقوں سے بری الذمہ ہوا اور مخلوق  
 کے لیے رزق کو آسان کر دیا یہی ہے رب ساتوں آسمانوں اور عرش کا ۱۲ ساتواں عہد اور اس ذات  
 کے حق سے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں جو پوشیدہ سے پوشیدہ ہجید سے واقف ہے اور  
 تیری کرسی اور تعویذات اور نبوت اور اس مہر کے حق سے جس کی وجہ سے جنوں و انسانوں اور کل  
 پرندوں اور نیز ہواؤں کا مالک ہوا ۱۲ لے ترجمہ یہ ہے بد بخت ملعونہ ام الصبیان اور کل  
 اس کے جنوں و مددگاروں سے جو کہ دریاؤں میں ہوں یا رہنے پر غاروں میں ہو یا جائے  
 نجاست پر پانی کی جگہوں اور قصبوں یا راستوں اور چٹیل میدانوں یا جنگلوں میں ہو میں اڑا  
 کرتے ہوں یا آسمان سے باتیں سنکر لانے والے ہوں یا پانی کے اندر جا بیٹھنے والے ہوں دیویا  
 پری ہوں اور کل قسم کے جنوں اور سرکشوں سے مشرق و مغرب میں ہوں یا خشکی یا تری پر میں تم کو  
 منتر کرتا ہوں حضرت سلیمان ابن داؤد کے منتر اور کل ان کلمات اور عہدوں سے اور تم کو روکتا ہوں اور  
 ہٹاتا ہوں اور دفعہ کرتا ہوں اس لکھے کو باندھنے والے سے اور اس کے کھانے پینے پینے پیر  
 سونے جاگنے سے اور تم کو حجاب کرتا ہوں اللہ کے اس اسم اعظم سے اور سلیمان علیہ السلام

## فصل ام الصبیان کے بیان میں

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں مدینے کی گلیوں میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک عورت کامل چہرے و رنگ والی اور نیلی آنکھوں والی ملی میں نے اس سے کہا تو کہا جاتی ہے۔ کہا جاتی ہوں تاکہ گود والے بچوں کا گوشت کھاؤں اور خوں پیوں اور ہڈیاں توڑوں میں نے کہا اے ملعونہ لعنت اللہ علیک اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو لعنت نہ کیجئے میرے بارہ نام ہیں جو شخص ان کو اپنے پاس رکھے میں ان کے نزدیک نہیں جاتی میں نے کہا وہ کیا ہیں کہا یہ ہے لوہین نخلص۔ دوس۔ ملطوس۔ سیوس۔ سلما س۔ طوح۔ طوسدا۔ صرع رب قروح

عیقرد و سلمان ایضاً ریشی کا قول ہے کہ جس عورت کی اولاد نہ جیتی ہو اس کو چاہیے کہ اسما ذیل لکھ کر پاس رکھے۔ ردم ایقات و قُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ۔ ایضاً دعا ذیل بطور تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے اس دعا کا نام دعائے سو جا ہے اور وہ یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا

اللّٰهُ وَاللّٰهُ الْاَكْبَرُ وَاللّٰهُ الْاَكْبَرُ وَاللّٰهُ الْاَكْبَرُ وَاللّٰهُ الْاَكْبَرُ وَاللّٰهُ الْاَكْبَرُ وَاللّٰهُ الْاَكْبَرُ

كَثِيْرًا وَسَيِّحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّ اَمِيْلًا بِسْمِ اللّٰهِ الثَّانِي بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِي بِسْمِ اللّٰهِ

الْمُعَاقِي بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعْرَاشِمَهْ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ

الْعَلِيْمُ وَنُزِّلَ مِنْ الْقُرْآنِ اِنْ مَا هُوَ شِفَاؤُ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يُوْدِي الْعَظْمِيْنَ اِلَّا

حَسْبَارَاهُ اللّٰهُ اَنَا التَّرْتِي وَاَنْتَ الشَّافِي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَ اللّٰهُ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ

حاشیہ صفحہ سابقہ کے خاتم سے ان آیتوں کا ترجمہ گزر چکا ہے اور آخری پکار ہماری ہے کہ سب

تعریف اللہ کے لیے خاص ہے جو جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ۱۲

۱۱۔ اس حدیث کی بھی ہمیں باوجود تلاش کے سند نہیں ملی اور نہ ہی صحاح میں ذکر ہے

جھوٹی حدیث معلوم ہوتی ہے۔ ۱۰۔ تو کہہ اے رب میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں شیطانوں

کے چک سے اور پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں ۱۲ ع۔



بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَيُّهَا الْمَلَكُ الْأَكْبَرُ إِنَّ الْأَسْوَدَانَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا قَضَى اللَّهُ رَبِّي  
 وَرَبُّكُمْ مَا وَخَالَقِي وَخَالِقُكُمْ مَا وَرَازِقِي وَرَازِقُكُمْ مَا وَحَافِظِي وَحَافِظُكُمْ مَا وَمُصَوِّرِي وَمُصَوِّرُكُمْ  
 وَخَالِقُ الصُّورِ وَرَازِقُ الْبَشَرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَمِيعِ الْأَفَاتِ وَمِنْ جَمِيعِ الْعِلَلِ وَالْأَمْرَاضِ  
 وَالْإِسْقَامِ وَالنَّكَسِلِ وَالْجُؤُنِ وَالْجَذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْخَلَلِ وَأُعِيدُ نَفْسِي وَنَفْسَ هَامِلٍ  
 هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْعِظَامُ يَا أَيَّتُهَا النَّامَةُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ يَا مَنْ  
 لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَبْرُوتُ سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأْنُكَ يَا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا مَلِئَ السَّمَوَاتِ  
 يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ يَا ذَا الْعِظَمَةِ وَالسُّلْطَانِ يَا ذَا الرَّأْفَةِ وَالْإِحْسَانِ يَا جَبَّارُ يَا مَنَّانُ يَا كَاهِرُ  
 لَا يَقْهَرُ جَبَّارُ الْجَبْرُوتِ يَا مَنْ يُجَبِّرُ وَيُجَبِّرُ عَلَيْهِ وَالْعِظَمَةَ مَعْرُوفٌ حَكِيمٌ وَبِالْحِكْمَةِ  
 مَشْهُورٌ سُبْحَانَكَ تَسْنِيحًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْبَدَنِ عَنْ تَيْمِيْنِي وَعَنْ شِمَالِي وَرَأْسِي  
 وَقَدَمِي وَأَمَامِي وَخَلْفِي وَجَمِيعِ جِهَاتِي وَجَلْدِي وَفَوْقَ جَلْدِي وَتَحْتَ جَلْدِي وَالْبَدَنِ  
 جَمِيعًا مِنْ شَرِّ الرِّيحِ الْأَحْمَرِ وَمِنَ الدَّاءِ الْبَرِّ فِي النَّفْسِ وَالرُّوحِ وَالذَّامِ وَالْحَمْرِ وَالشَّحْمِ  
 وَالْعُرُوقِ وَالْعِظَامِ وَأَعْضَابِ فُسْبَحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا قَانَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ  
 يَا بَارِي يَا مُبْدِي يَا قَاهِرُ يَا رَافِعُ يَا رَافِعُ يَا مُرْتَفِعُ يَا عَفَّارُ يَا مُسْتَعَانَ يَا فَاعِلُ  
 يَا مُفْعَلُ يَا ضَارُّ يَا نَافِعُ يَا دَافِعُ يَا بَاسِطُ يَا مُقْسِطُ يَا قَانِمًا بِالْقِسْطِ يَا صَرِيحُ الْمُسْتَعْرِفِينَ  
 يَا شَاكِرُ يَا شَكُورُ يَا مَرْجُودُ يَا غَاطِثُ يَا عَطُوفُ يَا رَاضِي يَا مَرْضِي يَا نَاصِرُ يَا مُنْتَصِرُ يَا  
 مُنْصُورُ يَا مُسَدِّدُ يَا فَاطِرُ يَا نَاصِرُ يَا مُسَلِّطُ يَا قَوِيُّ يَا قَادِرُ يَا مُقَدِّرُ يَا شَدِيدُ الْبَطْشِ  
 يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينِ أَيُّهَا شَدَائِصُ الْأَشْيَاءِ يَا هُوِيَ مَوْي لَوْهِيَ يَا كَهَيْعِصِ  
 يَا حَمْسَتْقُ يَا دَبِّ يَا مَنْعُورُ يَا مَانِعُ يَا جَابِرُ يَا مُتَجَبِّرُ يَا جَبْرُوتُ يَا مَنْ كُوْرًا بِكُلِّ لِسَانٍ  
 يَا كَبِيرُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا عَظِيمُ يَا عَظَمُ يَا مُتَعَطِّمُ يَا قِيَوْمُ يَا قَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ يَا  
 مُسْتَوْدِعُ يَا مُتَتَعِرُّ يَا رَبُّ يَا مَلِكًا يَا غَايَةَ رِجَاءٍ يَا مُنْتَهَى رَغْبَتَاةٍ يَا مُفَرِّقُ يَا مُبِينُ يَا  
 مُرْسِلُ يَا مُخْسِرُ يَا حَيُّ يَا قِيَوْمُ يَا مُهْلِكُ الظُّلْمَةِ يَا مُخْفِي دِيَارِي يَا مُرْتَعِدُ يَا مُرْتَعِدُ يَا مُرْتَعِدُ  
 يَا مُحْكَمُ يَا حَكْمُ الْحَاكِمِينَ يَا أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ يَا وَبِي الْمُتَقِينَ يَا مَوْلَانَا يَا سَامِعُ يَا مُسْمُوعُ  
 يَا مُسْمِعُ يَا سَمِيعُ يَا عَوْنُ الضُّعْفَاءِ يَا كَافِي دِيَارِي كُلِّ مَرِيضٍ يَا مُكَرِّدُ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ

يَا مُكَرَّمِ النَّهَارِ عَلَى اللَّهِ يَا مُسْغَرِ الْفَيْلِ يَا قَاصِدَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَشَيْطَانٍ مَرِيدٍ يَا نَعْوَا لِمَوْلَى  
وَنِعْمَ النَّصِيرُ يَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ يَا خَيْرَ الرَّازِقِينَ الْمُفْلِينَ يَا رِجَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَا رَحِمَ  
الرَّاحِمِينَ يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينِ يَا غِنَاكَ الْمُسْتَفِئِينَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ يَا مُقِيلَ عَثْرَاتِ  
الْكَافِرِينَ يَا حَبِيبَ التَّوَابِينَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِينَ يَا خَيْرَ الْوَارِثِينَ يَا خَيْرَ الْخَافِظِينَ يَا  
مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيْنِسَ الْمُسْتَوْحِشِينَ يَا أَيْنِسَ الْفُقَرَاءِ يَا حَبِيبَ الْغُرَبَاءِ يَا  
مُقْزَا لِدَلَاءِ يَا هَادِي الْمَضِلِّينَ يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ يَا كَ  
تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَفِيكَ أَرْغَبُ لِمَنْ عَلَّقَ عَلَيْهِ هَذَا الْكِتَابَ الْمُبَارَكُ  
وَأَخْرَسَهُ مِنْ جَمِيعِ الْعَلَلِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْإِسْقَامِ وَالْأَوْجَاعِ وَالْكَرَامِ السُّوءِ وَالنَّصَبِ  
وَكُلِّ عَارِضٍ مِنَ الْعَوَارِضِ النَّارِيَةِ وَالْهَوَائِيَّةِ وَالْأَرْضِيَّةِ وَالْحَشْرِيَّةِ وَالْبَهَائِيَّةِ وَالشَّيْطَانِيَّةِ  
وَالرُّوحَانِيَّةِ وَالْإِنْسِيَّةِ وَالْجِنِّيَّةِ وَأَعَدَّهَا لَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْ النَّارِ وَمِنْ الْمَاءِ  
وَهُودًا مِنَ الْهَوَاءِ وَمِنْ صَالِحَاتِ رَجْفَةِ الْأَرْضِ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا عَالِمَ السِّرِّ الْخَفِيِّ  
وَيَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مَا تَحْتَ الثَّرَى يَا وَاحِدُ يَا شَاهِدُ يَا شَهُودُ يَا مُقَدِّمُ يَا مُؤَخَّرُ يَا قَاطِرُ  
يَا رَاشِدُ يَا غَفُورُ يَا رَحِيمُ يَا رُؤُوفُ يَا بَحِيقُ آدَمَ وَصِفْرَتَهُ وَيَحْيَى إِبْرَاهِيمَ وَخَلْتَهُ وَيَحْيَى  
مُوسَى وَكَلِمَاتِهِ وَيَحْيَى عِيسَى وَرَفَعْتَهُ وَيَحْيَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا  
دَائِمًا وَمَحَبَّتِهِ وَيَحْيَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَشَيْبَةَ وَيَحْيَى عُمَرَ الْفَارُوقِ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ وَعَدْلَهُ وَيَحْيَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَعَادَتَهُ وَيَحْيَى سَيِّدِنَا  
عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَشَجَاعَتَهُ وَوَصْلَتَهُ وَيَحْيَى هَذِهِ الْحُرُوفَ وَالْأَسْمَاءَ  
الْعَظِيمَةَ أَعَدُّ مَنْ عَلَّقَ عَلَيْهِ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ وَجَعِ الْعَبْتَيْنِ وَوَجَعِ الرَّاسِ وَوَجَعِ  
الْمَقَاصِلِ وَأَحْفَظْهُ مِنْ شَرِّ الرِّيحِ الْأَحْمَرِ وَأَخْرِجْهَا مِنْ يَدَيْهِ بِعِزَّةِ اللَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ بِجَلَالِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَهْدِ اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ وَيَحْيَى كَهَيْعَتِهِ  
وَيَحْيَى حَمْسَتِكَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا  
فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَيَحْيَى مِائَةَ أَلْفٍ وَارْبَعَةَ وَعِشْرِينَ أَلْفًا  
نَبِيِّ أَوْلَاهُمْ آدَمَ وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَبِحَقِّ لَوْلَاهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَ أَيُّهَا الرَّبُّ الْأَهْمَرُ مِنْ هَذَا الْبَدَنِ وَبِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ  
 وَعَقَدَتْ بِحَقِّ طَهْ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَى قَوْلِهِ الْمُحْسِنِ وَعَقَدَتْ بِحَقِّ  
 تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِحَقِّ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى  
 إِلَى قَوْلِهِ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى وَحَقَدَتْ بِحَقِّ الرَّحْمَنِ عَلَّمَ الْقُرْآنَ لَوْلَا خَلَقَ  
 الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ وَبِحَقِّ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ إِلَى قَوْلِهِ  
 سَمِيعًا بَصِيرًا وَعَقَدَتْ بِحَقِّ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَعَقَدَتْ بِحَقِّ قَدْ  
 هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَى آخِرِهَا وَعَقَدَتْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً عَشَرَ سُورَةً سَرَجِنَادَةً إِذَا قَامَ مِنْ

لہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں سب تعریف اللہ کو خاص ہے اور اس کے سوا  
 کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ بڑی شان والا اور بہت عزت والا اور بہت مہربان ہے آل  
 چیز سے جس سے میں ڈرتا ہوں اور خوف کرتا ہوں اللہ بڑی شان والا ہے اور سب تعریف  
 اللہ کو ہے بہت بہت اور اللہ پاک ہے صبح و شام اللہ کے نام سے جو شفا دیندہ ہے  
 کفایت کرنے والا ہے عافیت دینے والا ہے اللہ اس کے نام سے جس کے نام کی برکت  
 سے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی نہ زمین میں نہ آسمان میں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے  
 اور ہم اترتے ہیں قرآن سے شفا اور رحمت ایمان والوں کے لیے اور نہیں بڑھاتا ظالموں  
 کو مگر نقصان میں اسے اللہ میں دعا پڑھنے والا ہوں اور تو شفا بخشنے والا ہے میں پناہ  
 چاہتا ہوں اس چیز کی بدی سے جس کا تو حکم کر چکا ہے۔ اے دونوں بڑے سیاہ فرشتوں میں  
 پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ اس چیز سے جس کا اللہ میرے اور تمہارے رب اور پیدا  
 کنندہ نے فیصلہ کر دیا ہے اور اس خدا کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جو تمہارا اور میرا رزق اور  
 حفاظت کنندہ نقشہ بنانے والا صورتوں کو بنانے والا اور انسانوں کو رزق دینے والا ہے  
 میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کل آفتوں تکلیفوں۔ مریضوں۔ بیماریوں۔ کمزریوں۔ جنوں۔ جذام  
 پھل بہری۔ ہر طرح کے ہرج مروج سے میں اپنے اور اس تحریر کے باندھنے والے کے  
 لیے تری نامہ آیات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ اسے صاحب شان اور بزرگی اسے صاحب

تَنْ كَسْرِي بِكُونِيَا يَد تَارُور قِيَامَةٌ بِحَقِّ يَا اللهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ  
وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَامًا عَلَى الْمُرْسَلِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ  
هُمُ أَحْسَنُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ الطَّيِّبِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اشْفِنِي بِشِفَائِكَ وَرَاوِنِي بِدَاوَائِكَ وَعَافِنِي مِنْ بَدَائِكَ وَأَدِّمْ  
عَلَيَّ مِنْ نَوَائِرِ نِعْمَاتِكَ اللَّهُمَّ اكْفِنِي جَمِيعَ الْأَسْقَامِ وَالْأَمْرَاضِ وَجَمِيعَ الْعِلَلِ وَالْخِيَلِ

ملک اور فرشتوں کے اے وہ ذات جس کے لیے عزت اور غلبہ ہے تو پاک ہے کسی بلنبے  
تیری شان اے آسمانوں اور زمینوں کے پیرا کتندہ اے بے کسوں کے جائے پناہ اے  
مسکینوں کے رحم دل کرنیوالے اے عظمت اور غلبہ نرمی اور احسان والے رب اے غلبہ  
والے احسان والے غالب کہ تیرا غلبہ کوئی نہیں روک سکتا اے وہ ذات جو پناہ دیتا ہے  
اور خود کسی کی پناہ میں نہیں آسکتا وہ اپنی عظمت سے پہچانا جاتا ہے حکیم ہے حکمت کے  
ساتھ مشہور ہے وہ پاک ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اپنی بدی کی تکلیف سے اور  
اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے اور کل طرفوں اور چہرے کے اوپر نیچے کے اشیاء کی  
تکلیف اور سرخ ہوا کی بدی سے اور بڑی بیماری سے جو نفس میں ہو یا روح میں خون یا  
گوشت۔ ہڈیوں یا جمبلی اور رگوں اور شہوں میں وہ پاک ذات ہے جب کسی کام کو کرنا  
چاہتا ہے (ہو جا) کا حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ لے  
پیدا کرنے والے ابتدا کرنے والے۔ پھر لوٹانے والے۔ اے غالب بلند کرنیوالے  
بخشنے والے۔ سدھ کرنیوالے۔ اے کل کام بنانے والے۔ ضرر و نفع دینے والے اے  
جھلائی اور انصاف کرنیوالے اے انصاف کے ساتھ قائم اور پکارنے والے کی پکار کا  
جواب دینے والے اے شاکر۔ اے موجود۔ اے پھیرنے والے۔ اے راضی اور نصرت  
کرنے والے اے پیدا کرنیوالے اے سخت پکڑنے والے اور زبردست قوت والے  
اے غلبہ کے ساتھ غالب اے زبان میں ذکر کئے گئے اے ہر نفس پر جو کچھ کہ اس  
نے کیا قائم کرنے والے اے اندھیرے کو دور کرنے والے اے پوشیدہ۔ لے جلدی

وَالْأَوْجَاعِ وَالْإِنجَاسِ وَالْأَمْعَاسِ وَالْأَرْجَاسِ وَالْبُرْسَامِ وَالْكَفْنِ شَرًّا لَشَرِّهِ وَالْهَبْرِ وَالنَّعْرِ وَالْمَخْنِ  
وَالسَّجْنِ اللَّهُمَّ اكْفِنِي شَرَّ الْوَحْشِ وَالْمَهْرَامِ وَمَشَاحِنِ الْعَوَامِ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَالْقَجْطِ وَ  
الغَدَا وَالزَّلَازِلِ وَالْوَبَاءِ وَهَدِّمِ الْبِنَاءِ وَشَسَاتِقِ الْأَعْدَاءِ اللَّهُمَّ اكْفِنِي كَيْدَ الْفَجَّارِ وَمَا اخْتَلَفَ  
عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ الْإِنْسِ وَالْحَيَاتِ الْأَطَارِقِ بِيَمِينِي مِنْكَ بِخَيْرٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ  
شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ رَبِّ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِنَّ  
حَسْبِيَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمُنِيرُ وَالْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

کرنے والے۔ اے کل حاکموں سے بڑھ کر حکم کر نیوالے اے جلدی حساب لینے  
والے۔ اے پرہیزگاروں کے والی۔ اے ہماری والی۔ اے کمزوروں کے معاون اے  
رات کو دن پر چھانے والے اور دن کو رات دینے والے۔ اے ہاتھی کو تابع کر نیوالے  
ہر سرکش اور شیطان کو نیچا دکھانے والے۔ اے اچھے والی۔ اے اچھے مددگار۔ اے  
اچھے مددگار اور اچھے رزق دہندہ۔ اے غریبوں کو رزق دینے والے اے ایمانداروں  
کے جلے امید اور فریادوں کے فریاد سننے والے اور جہانوں کے معبود اے گناہگاروں  
کے گناہوں سے درگزر کرنے والے اور توبہ کنندوں کو پسند کر نیوالے۔ اے اچھے بخشش  
کنندہ اے اچھے وارث و حافظ اور جزا کے مالک۔ اے ڈانینوالے کے نکل سار اے  
غریبوں اور مسکینوں کو دوست رکھنے والے اے ذلیلوں کو عزت دینے والے اے  
منفلسوں کو عزت دینے والے اے اگلوں اور پھلوں کے معبود اے روزا جزا کے مالک  
تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تجھ ہی پر میں نے بھروسہ  
کیا اور تیری ہی طرف راغب ہوا۔ اور تیری ہی طرف کو چلتا ہوں مجھے اور میرے والدین  
اور کل مومنین و مسلم مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور مغفرت کر اس کی جو اس دعا کو  
باندھے اور اس کو ہر قسم کی مرضوں دکھوں تکلیفوں اور آگ۔ ہوا۔ پانی و خاک کے عارضوں  
اور حشرات الارض اور چوپایوں شیطانوں جن اور انسانوں کی روحوں سے حفاظت ہیں  
رکھ اور اس کو پناہ میں رکھ جیسا تو نے حضرت ابراہیم کو آگ۔ نوح علیہ السلام کو پانی  
ہود کو ہوا۔ صالح کو زمین کے زلزلے سے محفوظ رکھا اے سب سے بڑھ کر کریم کر نیوالے

## باب ۱۵ چھوٹے بچوں کے امراض کے بیان میں

بچوں کی ام الصبیان کا علاج۔ اسکو جدہ۔ شہناقتہ۔ الحمرہ۔ ام الیل۔ الخنفہ بھی کہتے ہیں اس کے سات نام ہیں اور سات عہد ہیں اگر کسی بچہ کو دیکھو کہ اس کو تھوڑے وقت کے ہونے ہیں اور آنکھیں اندر گر گئی ہوں تو جان لو کہ اسکو یہی بیماری ہے اور اس کا علاج یہ ہے۔

اور پوشیدہ بھیدوں سے واقف۔ اور زمین کے نیچے کی چیزوں سے باخبر اے مہربان رب آدم اور اس کی برگزیدگی اور ابراہیمؑ اور اس کی دستنی اور اس کی کلام اور عیسیٰ اور اس کی آسمان پر جانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی محبت اور ابوبکرؓ اور ان کے ہر صحابہؓ اور حضرت عمرؓ اور ان کے عدل اور حضرت عثمانؓ اور ان کی سخاوت اور حضرت علیؓ اور ان کی بہادری اور ان حروف اور عظیم الشان اسماء کے حق سے اس شخص کو جو اس لکھے کو یا ندھے آنکھوں کی اور سر اور جوڑوں کے وردوں سے محفوظ رکھ اور سرخ ہوا کی برائی سے اور نکال دے ان تکلیفات کو اللہ جہانوں کے پیدا کنندہ کی عزت اور جلال اور اس کے عہد میثاق اور حروف مقطعات کی برکت ہے اور ہم نے کر دی ان کے آگے دیوالیہ اور ان کے پیچھے روک پس ان کو اوندھا کر دیا دیکھ نہیں سکتے اور ان ایک لاکھ تو بیس ہزار نبی کی برکت سے جن کے پہلے حضرت آدمؑ اور آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ساتھ حق کلمہ طیبہ کے نکل جا رہے اس بدن سے ان اسماء کی برکت سے ہم نے تجھے سختی میں ڈالنے کو یہ قرآن نازل نہیں کیا اور ساتھ برکت آیت برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں ہے کل ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ساتھ حق ستاروں اور جس کو وہ دور کرتے ہیں کی قسم کی برکت اور آیت اندازہ دو کمانوں کا بلکہ اس سے بھی قریب تر اور آیت رحمن تے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا اور اسکو بیان کرنا سکھایا اور ساتھ برکت سورہ دہر اور سورہ قدر اور سورہ اطلاق اور ساتھ برکت ایک سو چودہ سورتوں کے تحقیق اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پڑھنا شروع کریں اختیار کریں اور وہ نیکی کرنیوالے ہوں اے اللہ مجھے اپنی شفا سے راحت دے اور اپنی دوا سے علاج کر اور اپنی بھیجی ہوئی مصیبت سے عافیت دے اور ہمیشہ نعمتیں اتار

کہ قطران (روغن درخت عمر) اس کے سر پر ملیں اور اسماء ذیل پڑھتے جائیں۔ نیز یہی اسماء اس کے ہر دوکان میں پڑھ کر دم کریں اسماء یہ ہیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عِیْسٰی صَفِیًّا وَ مُوسٰی نَجِیًّا وَ مُحَمَّدًا نَبِیًّا اَدْ تَفْعَرُ اَیُّهَا اللّٰیْلُ بِالذِّنِّی رَفَعَا ذُرِّیَسَ مَكَانًا عَلَیًّا وَ بِالذِّنِّی قَالَ لِلسَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِتَّبِیَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتِ اَبْنَا طَاعَتِیْنَ اللّٰهُ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ فَسَیَكْفِیْكُمْ اللّٰهُ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَ لَاحَوْلَ وَ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

ایضاً (جعدہ) بیج کو کوفتہ بنجتہ کر کے شہد میں ملا کر چٹائیں شفا ہو جاوے ایضاً بچے کے سر پر نیل ملیں اور اسماء ذیل پڑھتے جائیں اور یہی اسماء لکھ کر اس کے گلے میں لٹکائیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نُوَا نَزَّلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لِّرَاٰیَتِهِ خَاشِعًا مُّصَدِّقًا مِّنْ خَشِیَةِ اللّٰهِ ترجمہ گزرجکا وَقُلْ اَوْحٰی اِلَیَّ اِنَّهُ اسْتَسْعَفَ فَقَرَّ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا قُرْآنًا عَجَبًا یَّهْدِیْ اِلٰی الرُّشْدِ قَاصِدًا یُّهٰی وَلَنْ نُشْرِكَ بِدِیْنِنَا اَحَدًا وَاِنَّهُ تَعَالٰی جَدًّا رِیْبًا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وِلْدًا۔ وَاِنَّهُ لَخَمٌ ف ابابیل کے گھونسلے میں دو پتھر پائے جاتے ہیں ایک سرخ دوسرا سفید سفید پتھر میں یہ خاصیت ہے کہ اگر شروع

تارہ اسے اللہ مجھے کل بیماریوں۔ دکھ۔ دردوں۔ غموں۔ رنجوں۔ نقصانوں۔ مصیبتوں۔ فیروں۔ وحشی جانوروں۔ حشرات الارض لوگوں کی شرارتوں شیطانوں کی بدی قحط زلزوں۔ وباؤں۔ مکان کے گرنے۔ دشمنوں کے گالی گلوچ۔ تاجروں کے مکروں اور ہر چیز کی شرارت سے جس پر دن رات آ جاتا ہے اور جن اور انسان آنے جانوالے سوائے اس آنیوالے کے جو تیری طرف سے بھلائی لیکر آئے اور ہر قسم کے چوپائے کو جن پر تو قابض ہے کی شرارت اور بدی سے بچائے رکھ تحقیقی میرا رب سیدھے سننے پر ہے اسے رب میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تو مجھے کافی ہے اور اچھا محافظ اور اچھا مولے اور اچھا مددگار ہے۔ ولاحول ولاقوة الا باللہ العلی العظیم۔ حاشی صفحہ مذراہ عیسیٰ برگزیدہ شدہ موسیٰ سرگوشی کر نیوالے اور محمد صلعم نبی اسے بیہوش دور ہو جا اس ذات کی برکت سے جس نے ادریس کو بلند مکان پرائھا یا اور جس نے زمین و آسمانوں کو موجود ہونے کا حکم دیا انہوں نے کہا کہ ہم جہانوں کے پروردگار رب کے فرمانبردار ہو کر حاضر ہیں عنقریب کفایت کرے گا تجھ کو ان سے اللہ اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

کے گلے میں لٹکایا جاوے تو صرع دور ہو جاوے اور سرخ پتھر بنی یہ خاصیت ہے کہ نیند میں ڈرانے والے بچے کے گلے میں لٹکانے سے یہ مرض دور ہو جاتی ہے۔ ایضاً امراض بچکان کے لیے خاتم بطلد جس کی شکل ذیل میں درج ہے۔ کسی کاغذ پر لکھ کر سداب کے ساتھ دہونی دیں نیز یہی خاتم اس کے گلے

۲	۹	۴
۷	۵	۳
۸	۱	۶

میں لٹکائیں، خاتم یہ ہے۔

ایضاً اسماء ذیل تین کاغذ پر لکھ کر زیتوں و حنظل

و سداب سے دہونی دیکر بچے کے گلے میں لٹکائیں اسماء یہ ہیں ہبیب یکب

كَقَالِحِقَامَا هَسْرَقَيْلٍ بِاَلْوَعِيدِ الْقَاصِفِ وَالسَّعَابِ الْمُرَّكِيبِ بَرِيَّتِ جَبْرَائِيلَ وَصِيكَائِي  
وَاسْرَافِيلَ وَعَزْرَائِيلَ وَسَسَائِيلَ وَحَصَلَةَ الْعَرْشِ الْكُرُوبِيِّينَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ  
تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تَوَكَّلُوا بِصَاحِبِ هَذَا  
الترجمہ حقیقی قل هو الله احد ایضاً اسماء ذیل سات پرچوں پر لکھ کر لٹکائیں۔ سَكْسِيَاكُ  
قَرَطُشِ الْهَشِاطِشِ طَلُوشِ طَلُوشِ اخْرَجِي أَيُّهَا الزَّيْلَةُ هَذِهِ السَّاعَةُ بِالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْعَجَلِ أَيضاً اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالْقَرْيَةِ الَّتِي جَعَلَ بَعْدَ الْقَرْيَةِ فِي تَضْلِيلٍ  
وَأَرْسَلْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَيْدِ  
الْقَرْيَةِ كَعَصْفٍ مَأْكُودٍ يَا عَاقِبِ إِذْ آتَاكَ الطَّوْلِ عَاقِبِ أَيضاً إِذَا الشَّمْسُ  
كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ  
عَطَّلَ اللَّهُ مِنْكَ الْقَرِيْنَ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَرِيضًا مَرَصَرًا

لے ترجمہ پس انٹھار کر اس کا کہ آسمان دھواں لادے گا جو لوگوں کو ڈھانک لیگا یہ درد ناک عذاب ہوگا اس مریض کی خدمت کو و سورہ اخلاص کی برکت سے ۱۲۔

۱۲ ترجمہ کیا تو نے دیکھا تیرے رب نے قرینہ بیماری کیسنا تھو کی کیا کیا اس بیماری کے فریب کو گمراہی میں نہیں کیا اور مرضی پر ابابیل پرندہ بھیجا جو انکے سنگریزوں سے ہلاک کرتھے پس اس نے مرض کے مکر کو گاہے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا اسے عافیت دینے والے طاقت دے اس بچے کو شفا دے۔



فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ النَّاسَ اللَّهُمَّ أَنْزِعْ هَذِهِ الْقَرِيئَةَ مِنْ  
هَذَا الْمَوْلُودِ وَانْقِهِ شَرِّهَا وَاحْفَظْهُ بِحِفْظِكَ وَقَوِّتْكَ وَاحْسَانِكَ  
وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔

بچے کی تفتے کے واسطے | مندرجہ ذیل خاتم بظدر کسی کاغذ پر لکھ کر اس کے گرد و لفظ  
خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَيْلِ الْوَارِثِينَ  
وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ گلے میں لٹکادیں انشاء اللہ آرام ہو جائے

خاتم بظدر یہ ہے

### بچوں کی ڈاٹن کا علاج

۲	۹	۴
۷	۵	۳
۶	۱	۸

کشیز باریک کر کے گائے کے مکھن میں  
ملا کر تین روز تک کھلائیں دفع ہو جائے گی

### تفتے مفرط کے واسطے

خاتم بظدر لکھ کر انگوترش کے پانی اور مصطکی سے محو کر  
کے یا نعتاع کے پانی اور داتہ لونگ سے محو کر کے پینے سے نہایت فائدہ ہوتا ہے  
صحیح و مجرب ہے۔ ایضاً اسی کے پاک کپڑے میں اسماء ذیل لکھ کر بچے کے بازو پر  
باندھ دیں اسماء یہ ہیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ

لے جب سورج اندھا ہو جائے گا اور ستارے سیاہ ہو جائیں گے اور سارا ڈاڑھ لگے جائیں گے جب  
اونٹیناں خالی کیجا ونگی خالی کرے اللہ تعالیٰ تمہے بیماری سے قرآن عظیم کی برکت سے ہم تمہا پتھر ہوا کو  
نامبارک دن میں جاری کر دیا لوگوں کو بچھاڑتی ہے اسے اللہ دور کر دے اس مرض کو اس بچے  
سے اس کی اس شر سے بچا اور اپنی حفاظت اور قوت اور احساس میں رکھ اور ہمارا معبود ایک اکیلا  
معبود ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس رحمان رحیم کے ۱۲ منہ ۵۲ ترجمہ اور البنتہ تحقیق ہم نے  
انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے دل میں دسواس (رضالات) گزرتے ہیں اور ہم  
انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں لہٰذا ترجمہ اس اللہ کے نام سے جس کے نام کی  
برکت سے کوئی چیز آسمان میں ہو یا زمین میں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے اور (باقی آئندہ)

وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي  
مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ اقْبَلِي وَعَيْضُ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْمَاءُ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

**بچے کی ہچکی کے واسطے** | خاتم بطلد ایک تھنی کے پیالہ میں لکھ کر سترق گلاب  
سے دھو کر اس میں زبرہ و انیسون پانی پکا کر نہار  
استعمال کریں بہت جلد آرام ہو جاوے بعض کہتے ہیں مصطکی اور تیخ کو پکا کر پلائیں۔  
نہایت مفید ہے۔

**نیند میں ڈرنے کے واسطے** | آیات ذیل لکھ کر اس کے گلے میں لٹکائیں  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْمُسْتَقِيمِينَ وَ  
الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسَّحَابِ شَرِهُدَا اللَّهُ أَنَّهُ لَدَالُهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا  
بِالْقِسْطِ لَدَالُهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَلَا حَوْلَ  
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ایضا یہ حجاب لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں  
حجاب یہ ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ  
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَلَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ

جانشینہ سابقہ جاننے والا بسم اللہ ہر مرض سے شفا دیتی ہے اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نکل جا اور  
اے آسمان اوپر کو اٹھالے اور جذب کر گیا پانی اور پورا کیا گیا اس کا حکم اور کہا گیا سب تعریف جہنوں  
کے پیدا کنندہ رب کو ہے پس قریب ہے ان کو کفایت کر گیا اللہ تعالیٰ اور وہ سننے جانتے والا ہے۔  
اے ترجمہ شروع اللہ رحمن رحیم کے بھرنے والے بیچ بولنے والے رجوع کرینو اے خروج کرینو اے سمی  
وقت بخشش مانگنے والے گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور فرشتے اور  
صاحب علم لوگ انصاف سے قائم ہے اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں۔  
تحقیق پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے ولا حول الا للہ ترجمہ تحقیق تمہارا رب وہ  
اللہ ہے جس نے چھ روز میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا یہ عرش پر مستوی ہو گیا  
باقی آیت کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے۔

اس بچے کے لیے جس کو نیند نہ آوے | آیات ذیل لکھ کر اس کے گلے میں لٹکادیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَتَحْسِبُهُمْ اَيُّهَا وَهُمُ رُتُوْدٌ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اِذَا نَهَرْنَا فِي الْكُهْفِ سِنِيْنَ عَدَا يَوْمِيْدٍ يَتَّبِعُوْنَ الدَّاعِي لَا عُوْرَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا اِنَّ اللّٰهَ وَمَلِيْكَةَ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ كُلِّ عَفْرِيْتٍ وَمِنْ شَرِّ الْحِجْرِ وَالْاِنْسِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَمِنْ عَيْنِ الْحَاسِدِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا۔

ایضاً ہرن کے چمڑے میں اسماء ذیل لکھ کر اس کے ساتھ بچے کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھیں اور عود و مصطکی سے دھونی دے کر سوتے وقت بچے کے سر کے نیچے رکھ دیں ایسا سووے گا کہ اگر اس کا گوشت بھی کاٹ لیا جاوے تو اسے خبر نہ ہو اسما یہ ہیں

يَضَافُ مِنَ السُّطِّ الْعَلْمُ عَطْفُ فِطْمَ هَسٍ جَعَلَ مَلَامَهُ مَهْمَهً۔ { ایضاً حروف ذیل

لکھ کر بچے کے گلے میں لٹکائے سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہیں

ایضاً پھٹکری کی ایک ڈلی سر بانہ کے نیچے رکھ کر سونے سے ہر

ایک قسم کا فزع و گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے ایضاً آیات ذیل کسی سختی پر لکھ کر بچے کی گردن میں لٹکادیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاَوْ نَفْسُ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي

۱۔ اور توان کو بیدار گمان کرے گا حالانکہ وہ سوئے پڑے ہیں پس ہم نے غار میں سلوں

ان کے کانوں پر تھپڑ اس دن پکار کرنے والے کو تلاش کریں گے جسکو کوئی کبھی نہیں اور نیچے ہو جائیں گے آوازیں اللہ کے خوف سے پس تو سو اسے گنگناہٹ کے کچھ نہ سنے گا تحقیق

اللہ اور اس کے فرشتے اس کے رسول پر رحمت بھیجتے ہیں ایماندار تو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو

میں اللہ کو پورے کلمات سے کل مخلوق کی اور جنوں کی اور انسانوں کی شرارت اور شیطانوں کی بدی اور حاسوروں

کی آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اٹھے اور فوت کر لیتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت اور انکو جو اپنی نیند میں

نہیں مرتے پس جن پر موت جاری ہوتی ہے ان کو رک لیتا ہے اور دیکھوں کو بھیجتا ہے تحقیق اس میں مگر نیرولا کے لیے نشانیاں ہیں۔

لَمْ نَمُتْ فِي مَتَامَهَا فِيمَسِكُ الَّتِي تَقْضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُوسِلُ الْآخِرَىٰ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ  
 آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

چشم بد کے واسطے | الو کے ناخن بچے کے گلے میں لگانے سے چشم سے

محفوظ رہتا ہے۔

اس بچے کے لیے جو چار پائی پر بول کر دے | مرغی کی کلغی (تاج) بچے کے گلے میں بطور تاج

لشکانا اس مرض کو قطعاً دور کر دیتا ہے۔ ایضاً بکری کا کھر جلا کر شہد میں ملا کر اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر پینا اس مرض کو دور کرتا ہے۔ ایضاً اخساع کا پانی پلانے سے بھی نہایت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کئی دفتہ کا تجربہ ہے۔

اس بچے کے لیے جو مٹی کھاتا ہو | خالص گندم کے آٹے کی روٹی پر آیات ذیل لکھ کر کھلاویں

قَاصِدِرْ صَبْرًا جَمِيلاً  
 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَارَابُطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

عورت کا دودھ زیادہ کرنے کے واسطے | خاتم بطلر جبکا ذکر پہلے آچکا

ہے کسی کاغذ پر زعفران سے لکھ کر گل آس کے پانی یا عرق گلاب سے دھو کر پلا یا کریں ایسے ہی گائے بھینس بکری وغیرہ مویشی کے دودھ وغیرہ زیادہ کرنے کے واسطے اس خاتم کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر مویشی کی کھری میں ڈال دیا کریں انشاء اللہ فائدہ ہوگا ایضاً سداب کے کھانے سے بھی دودھ بڑھتا ہے۔

بچے کا دودھ چھوڑانے کے واسطے | آیات ذیل روٹی پر لکھ کر بچے کو کھلاویں

اے ترجمہ پس تو صبر کرا چھا صبر اور رک رکھ تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی رضا کے طالب ہیں اے ایماندارو صبر کرو ایک دوسرے کو جو صلہ دلاؤ اور اتحاد کو بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم خلاصی پاؤ ۱۲۔

تو دودھ پینا چھوڑ دے وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَوْأَضِعَ مِنْ قَبْلِهَا مَحْرَمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ  
سَنَةً قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ  
لَكَ يَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَضْوَانِكَ أَيْضًا بکری کے جگر کا ایک حصہ بھون کر اس پر پہلی آیت وَحَرَمْنَا  
لَفْظِ يَعْلَمُونَ تک اور بیت ذیل لکھ کر بچے کو کھلاویں بیت یہ ہے۔

النَّفْسُ كَالطُّغْيَانِ أَنْ تَهْمِلَهُ شَيْءٌ عَلَى حُبِّ الْمَرْضَاعِ وَإِنْ نَقَطْتَهُ يَنْقَطِمْ

ایضاً اسم ذیل کھجور یا روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر بچے کو کھلاویں یا سما دیے ہیں۔

عَثَوْتُ مَعْصَعَةً حَرَمْتُ عَلَيْكَ نَدَى أَوْلَادِكَ يَا كَذَّابًا وَكَذَّابًا الْخَيْرُ زَيْدٌ

بِعَقِّي اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ۔

بچے کے رونے کا علاج | سورہ اخلاص والمؤمن اللہ غالب علی امرہ ولا

يُغْلِبُ اللَّهُ غَالِبٌ وَلَا يُعْزِزُهُ هَارِبٌ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لے ترجمہ اور ہم نے اس پر پہلے سے دوسری دودھ دینے والی عورتیں حرام کر دی تھیں تحقیق یہ ان  
پر چالیس سال حرام ہے کہ تو کون حرام کرتا ہے اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی  
اسے نبی تو کیوں اللہ کی حرام کردہ چیز کو عورتوں کی رضامندی کے لیے حرام کرتا ہے لہذا اور نفس بچے  
کی طرح ہے اگر تو اسے ڈھیل دے گا دودھ کی محبت سے بے اختیار ہو جائیگا اور اگر تو اس  
کا دودھ چھڑا دے گا تو وہ دودھ چھوڑ دے گا ۳۷ میں بچہ پرتیری ماں کی چھاتیاں خستہ کے  
گوشت کی طرح حرام کر دیں اللہ کی برکت سے ۱۲ آیت ترجمہ اللہ اپنے حکم پر غالب ہے وہ مغلوب  
نہیں کیا جاسکتا اللہ غالب ہر کوئی بھاگنے والا اس کے حکم کو تعویق و ڈھیل میں نہیں ڈال سکتا  
مشرق و مغرب کا پروردگار ہے اور ہر چیز پر قدرت والا ہے لکھ دیا ہے اللہ نے کہ میں اور میرے  
رسول ضروری غالب ہوں گے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس کی طرف لوٹائے جائیں گے  
خاموش ہو جائے رٹ کے مجبور بادشاہ کی قدرت سے آہستہ ہو گئی آواز اللہ کیلئے پس تو سنے  
گا مگر بہن بیٹا ہٹ کٹی چہرے اس دن شاداب ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے اور  
کٹی چہرے اس دن ہنستے ہوئے لبناش ہوں گے

كُنِبَ اللَّهُ لَا غَلْبَانَ أَنَا وَرُسُلِي بِحَبِيٍّ وَبِمَيْتَةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  
 فَلَا تَسْمَعُوا لَهُمْ سَوًّا وَلَا حِسَابًا وَلَا تُنصِتُوا لَهُمْ سَوًّا وَلَا حِسَابًا  
 اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قُلْ مَنْ يَكْفُرْ لَكُمْ لَفْظٌ مُعْرَضُونَ تَكُ اسْكُنْ أَرْضًا الْقَبِيئَةَ بِالْعِزَّةِ وَلَا  
 حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَيْضًا آيَاتُ ذِيلِ لَكُّهُرِ كَلِمَاتٍ فِي لُكَاوِينَ بِسْمِ  
 نَحْنُ عَلَى أَنْوَاعِهِمْ يَكْسِبُونَ تَكُ أَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ سَلَمٌ كَرَوَاعِدُ وَأَتَكُ فَاسْكُنُوا  
 وَارْقُدُوا وَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ إِذْ يُغَشِّيكُمُ التُّعَاسُ أَقْدَامُ تَكُ -

**غضب و غصہ دور کرنے کے واسطے** ایک چھری پر اسماء ذیل حق حقیقی باری

تَارُكُوْنِي بِيَدِيٍّ أَوْ سَلَامًا أَوْ سَلَامًا لَكُّهُرِ كَرَوَاعِدُ كَرَوَاعِدُ فِي مَاءٍ فِي بَحْرِ كَرَوَاعِدُ  
 أَيْضًا رُوْنِي كَلِمَاتٍ فِي سُوْرَةِ الْمُنَشَّرِ لَكُّهُرِ كَرَوَاعِدُ فِي مَاءٍ فِي بَحْرِ كَرَوَاعِدُ  
 أَيْضًا رُوْنِي كَلِمَاتٍ فِي سُوْرَةِ الْمُنَشَّرِ لَكُّهُرِ كَرَوَاعِدُ فِي مَاءٍ فِي بَحْرِ كَرَوَاعِدُ  
 كَانُوْنَ فِي كَسَاتِ كَهْرٍ كِي رَكْمٍ فِي بَحْرِ كَرَوَاعِدُ كَرَوَاعِدُ فِي مَاءٍ فِي بَحْرِ كَرَوَاعِدُ  
 اس کو پلائیے غصہ جاتا رہے اسماء یہ ہیں - الْآرَاتُ أَوْ لِيَاءَ اللَّهِ لَا تَخَوْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
 يَخْرُتُونَ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ لَا تَخَوْتُ عَلَيْكَ وَلَا يَأْسُ أَذْهَبِ الْبَاسَ  
 رَبِّ النَّاسِ قَسِيكَفِيكَمُ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا  
 لَتَقْلُبُنَّ وَأَصْبِرُوا وَمَا صَمَكُ إِلَّا بِاللَّهِ أَيْضًا آيَاتُ ذِيلِ كَلِمَاتٍ فِي لُكَاوِينَ فِي مَاءٍ فِي بَحْرِ كَرَوَاعِدُ  
 پلائیے غصہ و خوف جاتا رہے قُلْنَا يَا تَارُكُوْنِي بِيَدِيٍّ أَوْ سَلَامًا عَلَى أَرْضِهِمْ اسْكُنْ أَيْضًا  
 الْخَيْرَةَ كَمَا سَكُنَ عَرَشُ الرَّحْمَنِ تَحْتَ الرَّحْمَنِ وَلَهُ مَا سَكُنَ الْعَلِيمُ تَكُ إِنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ  
 السَّمَوَاتِ فِي كَرَوَاعِدُ قَاصِبِرُ صَبْرًا جَمِيلاً وَأَصْبِرُوا مَا صَبِرْنَا إِلَّا بِاللَّهِ قَاصِبِرُ كَرَوَاعِدُ وَأَخْرَجَتْ

۱۔ خبردار تحقیق اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف و غم نہیں ہے خبردار اللہ کے ذکر  
 سے دل کو اطمینان حاصل کرتے ہیں۔



قَبْلُ قَاجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَدْنَانِ رِحْلَةَ الشَّرَاءِ وَالصَّيْفِ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا فَأَخَدُوا نَاهُمْ  
بِالْبَاسَاءِ وَالْقَرَائِعِ قَدْ آذَاهُمْ مَبْلِسُونَ وَقُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا.

ٹریوں کے ہانکنے کے واسطے | خاتم بطور کو اسماء ذیل کے ساتھ لکھ کر کھیتی کے  
چاروں کونوں میں دفن کر دیں۔ آیات یہ ہیں۔

أَذْهَبَ مِمَّنْ تَبِعَكَ إِذْ هَبَّ بِيحْتَابِي هَذَا أَقَالَ فَآذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قَلَمٌ  
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ.

ایضاً سات ٹکڑے کاغذ کے لیکر پہلے میں قَاسِرٌ بِأَهْلِكَ تک دوسرے میں وَلَا  
تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تیسرے میں قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا - عَدَّ حُورًا تک چوتھے  
میں وَجِبِلَ بَيْنَهُمُ وَتَبَيَّنَ مَا يَشْتَهُونَ۔ پانچویں فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَوَقَّبُ۔

پھٹے میں وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ ساتویں میں سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ  
بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ۔ لکھ کر کاڑیوں توڑٹریاں وہاں  
سے نکل جاویں ایضاً سوموار کے دن سورج نکلنے کے وقت لیموں کی شاخ لیکر اس  
پر سورۃ الجن لکھیں اور ٹریوں کی کثرت میں داخل ہو جائیں اور الفاظ ذیل پڑھتے جائیں اور  
وہ چھڑی ان کے درمیان ہلاتے جائیں انشاء اللہ ٹڈی دل کو ترح کر جاوے گا اسماء یہ ہیں  
بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ  
الْعَلِيِّ رَحَلُ أَيُّهَا الْجَرَادُ يَا ذِئْبِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي وَخَلَقَكَ۔

جب وہ خوش ہو گئے ہم نے ان کو ٹکیوں اور مصائب سے پکڑا پس ناگہ وہ مبتلا ہونے والے تھے بلکہ  
ان کے دل اس کی طرف سے ڈبکتے میں ہیں اے ترجمہ چلا جا پس جو تیری اطاعت کر گیا میری اس کتاب کو لیا  
پس چلا جا پس تحقیق تیرے لیے زندگی ہے یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گیا تم نے کہا پاک ہے وہ ذات جس  
نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے لیکر مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے کر واپس لے کر لیا  
قریب جاؤ اس درخت کے پس ظالموں سے بوجاؤ گے تھے۔ کہا اس سے ذلیل ہو کر نکل جائے تھے حائل  
کیا گیا ان کے اور انکی خواہشوں کے درمیان بھے چلی جائے ٹڈی اس اللہ کے حکم سے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا  
ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کی اچھی طرح پیدا نش کی اور اللہ نے برکت والا پانی آمارا اور زمین کو ہم نے پھایا  
ہم نے اچھا پچھا نیوالے ہیں۔



بھیڑوں کے نکالنے کے واسطے | جہاں بھیڑوں کا خطرہ ہو وہاں اگر بھیڑ یا کاسریا  
اس کی دم زمین میں دفن کر دیجئے تو پھر وہاں  
بھیڑیے نزدیک نہیں آتے۔

درخت سے چیونٹی قطع کرنے کے واسطے | جس درخت پر چیونٹیاں بکثرت  
چڑھتی ہوں اس پر گائے کا  
پتہ طلا کرنے سے رک جاتی ہیں۔

تمام اقسام کے موذی جانوروں کے نکالنے کے واسطے | کینر کے چار  
پتوں پر اسماء

ذیل لکھ کر اور ہر ایک پتہ ایک ایک شاخ پر لگا کر زمین کے چاروں کونوں پر نصب کر دیں کوئی  
موذی وہاں نہ پھسکے اسماء یہ ہیں: الْحَفِیْظُ اللهُ وَالْاَمِیْنُ جِبْرَائِیْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ الْحَفِیْظُ  
اللهِ الْاَمِیْنُ مِیْکَائِیْلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عِیْدُ اللهِ بْنِ سَلَامِ الْحَفِیْظُ اللهُ الْاَمِیْنُ عَزْرَائِیْلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ  
عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ الْحَفِیْظُ اللهُ الْاَمِیْنُ اِسْرَافِیْلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عِیْدُ اللهِ بْنِ زُبَیْرِ رَضِ  
قَسَبْكَ فِیْكُمْ اللهُ وَصَلَّى اللهُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا ۝

درختوں و کھیتوں کی برکت کے لیے | خاتم بطلد کسی برتن میں لکھیں اور بارش  
کے پانی سے دھو کر درختوں و کھیتوں

کی جڑوں میں تھوڑا تھوڑا چھڑک دیں اور اس خاتم کے ارد گرد آیات ذیل بھی لکھ دیں۔  
اللهُ الَّذِیْ اَحْسَنَ كُلِّ شَیْءٍ خَلْقَهُ وَ اللهُ اَنْزَلَ مَاءً مِّمَّارًا كَا وَ الْاَرْضِ مَدَّ نَا هَا  
فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔

اس درخت کے لیے جو پھل نہ لاوے | خاتم بطلد لکھ کر اس کے چاروں طرف  
آیات ذیل لکھیں اور اس میں خاتم

بطلد درخت کے پتے پر سوئے سے لکھنی چاہیے اور پانی سے دھو کر اس درخت کی جڑوں  
میں چھڑک دیں۔ آیات یہ ہیں: وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءً مُّبَارَكًا سَلَى كَرْدًا لِّكَلِّ  
الْخَرُوْجِ نَكَ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ تُؤْتِي

أَكْلَهَا كُلَّ جَبْنٍ يَأْذِنُ رَبِّهَا وَتَثْبُتُ لَكُمْ بِهِ الزَّمْعُ إِلَى الثَّمَرَاتِ -

اس گائے کی وحشت دور کرنے کیلئے جو اپنے بچے سے نفرت کرے

اسما ذیل لکھ کر اور پانی سے دھو کر اس گائے کو پلاویں اسما یہ ہیں بِسْمِ اللّٰهِ يَا بِنَا  
تَبَارَكَ اللّٰهُ جِبْطًا نُنَا بَيْسَ سَقْفُنَا كَهَيْعِصْ كَفَا يَتْنَا حَمِصَقِي جِنَا يَتْنَا فَيَكْفِيكَ هُو  
اللّٰهُ قَالَ اللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا لَّانَّ وَرَبِّي اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا  
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اَدَايْمًا اَبَدًا -

یہ جانور سرداب و جنگلی پیاز کی  
چھتے اور بھڑیے کے ہانکنے کے لیے | دھونی سے بھاگتے ہیں ان کی

دھونی دیں۔

درخت کی جڑ سے چیونٹیاں دور کرنے کے لیے | انیون کو پانی میں خوب حل  
کر کے درخت کی جڑ میں

چھڑک دیں چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔

کھیتی سے ٹڈی دور کرنے کے لیے | منزل سمندر کے پانی میں پکا کر اس  
کا پانی زراعت پر چھڑکنے سے ٹڈی

پاس نہیں آتی اگر کتے اور بھڑیے کا پاخانہ انسان کے بول میں ملا کر اس راستہ پر چھڑک  
دیا جائے جہاں سے بھڑیے اور چیتے کھیتی میں داخل ہوتے ہیں تو پھر یہ موذی پاس نہ  
بھٹکیں۔

جو تک کے دور کرنے کے لیے | اگر یہ انسان کی کسی جگہ پر تک جاوے تو اس

لے ترجمہ بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے تبارک اللہ ہماری دیواریں ہیں پس ہماری پھت ہے کہ ہمیں  
ہماری کفایت ہے جمیع ہماری حمایت ہے پس قریب ہے کہ کفایت کریگا انکو اللہ پس اللہ  
بہتر محافظ ہے۔ تحقیق میرا والی اللہ ہے اور آخرت میں اللہ پاک رسول اور ان کی اولاد اور

اصحاب پر ہمیشہ اور بہت بہت درود سلام بھیجے۔ ۱۲۰

جگہ پر نمک پانی میں پیس کر چھڑک دینے سے چونک مر جائے گی۔

اس درود کے دور کرنے کے لیے جو بہائم کے پاؤں میں ہو جایا کرتی ہے

اس کے واسطے اسماء ذیل وانتری پر لکھ کر اور آگ میں گرم کر کے پانی میں بھا دیں اور وہ بہائم پر چھڑک دیں یہ عمل ایک دن میں تین دفعہ کیا کریں۔ اسماء یہ ہیں کفۃ ۲ خفف ۲ بِحَقِّ اَهْلِ الْكَهْفِ وَبِحَقِّ اَدَمَ وَنُوْحٍ وَمُحَمَّدٍ اَجْمَعِينَ حَجْمًا وَنُقَطَعًا وَقَطَعًا۔

آیات ذیل کاغذ کے پرچے پر لکھیں اور  
چھوٹوں کے دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ نمک یا راکھ یا پانی شامل

کر کے چھوٹوں کی غار پر لکھ آویں انشاء اللہ پھر نہ نکلیں گی آیات یہ ہیں قَالَتْ نَمْلَةٌ  
يَسْعُرُونَ تَاك يَا مَمْلَاتُ التَّمَلِ وَيَا قَطْعَاتُ الشَّكْلِ يَبْلَغُ لَكُمْ سَيِّدُ نَاسِبَهَا ن  
اِبْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ لَكُمْ اَقْبِلُوا فِي اِقْبَالٍ مِّنْ عَقْدَةِ اشْكَالٍ۔

کینز کے چارپتوں پر اسماء ذیل  
زمین سے کیڑوں کو بھگانے کے لیے لکھ کر چاروں کونوں میں ایک

پتا دفن کر دیں سب بھاگ جائیں گے اسماء یہ ہیں۔

يَا عَلِيُّ يَا قَدِيْرُ مَا لِيْ سِوَاكَ نَصِيْرُ۔

اسماء ذیل کسی کاغذ پر لکھ کر  
اس حیوان و انسان کیلئے جسکا بچہ گر جاتا ہو عورت یا مویشی کی گردن میں

لکھاویں اسماء یہ ہیں۔ يَتَفَعْتُوْا فِيْ اَزْدِهَا مَآئِشَاءُ رَالِيْ اَجَلٍ مُّسْقٰی۔

اسماء ذیل لکھ کر بکریوں  
بکریوں کو شیر یا بھیڑ سے بچانے کے لیے کے گلے میں لٹکائیں

کوئی شیر یا بھیڑ بان کے نزدیک نہیں آئے گا۔ کہی بعض وَاَللّٰهُ مِنْ دَنَاثِهِمْ مُّحِيْطٌ وَ  
الْقُرْآنِ وَاللّٰهُ مِنْ دَنَاثِهِمْ مُّحِيْطٌ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَا هُوَ بِالْحَقِّ نَزَلٌ۔

لے اے جاننے والے اور قدرت والے تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں۔ ۱۲

کبوتروں کو مکان سے ہانکنے کے بیان میں | چمگادڑ کا سر مکان میں دفن کرنے سے اس مکان میں

کبوتروں کا داخل ہونا بند ہو جاتا ہے۔ اگر دنبہ کا سیگ کسی پھلدار درخت کے نیچے دفن کیا جائے تو بہت پھل لادے۔ ف اگر بلوط کے پتے سانپ پر ڈالے جائیں تو اسی وقت مر جائے۔

### باکے پرندوں اور مچھلیوں کے شکار کرنے میں

اگر دانہ ارنڈ و گندھک سرخ پانی میں پیس کر اس میں ملایا یا گندم کے دانے بھگو کر پرندوں کو ڈالیں تو جو پرندہ وہ دانہ کھائے گا پش ہو جائے گا ایضاً اگر گندم کو انگور کے شہرہ میں اتنا بھکویں کہ گندم پھول جائے پھر اس کو خشک کر کے پرندوں کے آگے ڈالیں تو اس کے آگے ڈالیں تو پرندے اس کے کھانے سے بیہوش ہو جائیں یہاں تک کہ پھر ان کو ہاتھ سے پکڑ سکیں۔ ایضاً تازہ بھنگ کا پانی نکال کر اس میں گندم اچھی طرح پکائیں پھر خشک کر کے پرندوں کے آگے ڈالیں جو وہ دانہ کھائے گا بیہوش ہو جائے گا۔ ایضاً اگر قلعی کے ٹکڑے پر آیت ذیل لکھ کر وہ قلعی کا ٹکڑا شکار کر کے جال میں لگا دیں اور پھر اس جال کو پکھادیں پرندے خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے آیت یہ ہے۔

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِيَجْرِيَ فِيهَا فَمِنْ مَرْءٍ وَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِمَّا فِي ذَالِكِ لَا إِلَهَ إِلَّا قَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ ۔

لے ترجمہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے لیے دریا کو تاج کر دیا تاکہ اس کے حکم سے کشتی اس میں جاری ہو سکے اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ اور اس نے جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب تمہارے لیے مسخر فرما بنو اور بنا دیا ہے بے شک اس میں نکر مند قوم کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔

اگر جو کا آٹا۔ بکری کا مکھن بکری کا خون سب کو ملا کر پانی پر چھڑکیں تو مچھلیاں خود بخود ویاں جمع ہو جاویں پھر چاہے ہاتھ سے پکڑ لو ایسا حیوان کی تصویر قلعی کے ورق سے بناؤ اس دم پر طوائیں پسلی پر سچ بالیں پسلی پر ہر شکم پر زلکھو پھر اس تصویر کو جال میں باندھ دو اور اس جال کو دریا میں ڈالو بہت مچھلیاں اس کی طرف کھینچی آئیں گی۔

## باب ۱۸ معدنیات کے حل کرنے کے بیان میں

### سنہری سیاہی بنانے کے بیان میں

سونے کے ورقوں کو شہد میں ملاؤ اور پانی کا چھینٹا دو۔ پھر پانی کے ساتھ شہد کی مٹھاس دھو ڈالو۔ پھر پانی نکال کر اس میں گوند محلول ملا کر رکھ چھوڑو اور ضرورت ہو لکھنا ہو نہایت روشن چکدار نمودار ہوگی ایسا سونے کے ورق کو گوند محلول میں ملا کر انگلی سے یا کسی دستہ سے خوب حل کریں پھر کیتھر خشک کر کے فقیلہ بنا کر رکھ چھوڑیں بوقت ضرورت فقیلہ پانی میں کھول کر جو چاہو لکھو نہایت چکدار سنہری حروف نمودار ہوں گے ایسا جس معدن کی سیاہی بنانا چاہو اس کو ریتی سے خوب باریک کر لو پھر ایک حصہ میں چار حصہ صمغ عربی ملا کر خوب رگڑو یہاں تک کہ اس کا تمام نہایت باریک حلوی کی طرح ہو جاوے پھر ان کی تلبیاں یا قرص بنا کر رکھ چھوڑو بوقت ضرورت پانی میں حل کر کے جو چاہو لکھو۔ اسی معدن کے رنگ کے حروف ظاہر ہوں گے واللہ اعلم۔

## باب ۱۹ کالی سیاہی بنانے کے بیان میں

صمغ عربی ساٹھ درم۔ زراج تبرسی۔ اور ہم ملع اندر لنی پانچ درم تیل نہدی چار درم ہم نیلہ تھو تھہ پانچ درم مازو کا پانی پچیس درم سب چیزوں کو خوب باریک کر کے مازو کے پانی میں گوندھیں۔ پھر ایک لاکھ تھوڑے کی ضرب لگا کر قرص بنا کر رکھ چھوڑیں بوقت حاجت پانی میں حل کر کے کام میں لایا کریں۔ ایسا دیا کا گل (پنجابی پھولہ) ایک صمغ پانچ

درہم زاج قبرسی دو درہم شکر تری ایک درہم۔ ملح اندرانی نصف درہم۔ مازو کا پانی سات درہم  
سب کو باریک کر کے مازو کے پانی میں ملا کر ایک لاکھ ضرب لگا کر مثل سابق بنا کر کام میں لاویں  
ایضاً مازو دو اوقیہ صمغ عربی چار اوقیہ زوج ایک اوقیہ۔ ملح اندرانی ایک اوقیہ۔ شکر تری نصف  
اوقیہ۔ سرکہ ایک اوقیہ مازو کو باریک کر کے جوش دے کر پانی نکالیں اور اس میں سرکہ و صمغ  
عربی ملاویں جب سب چیزیں حل ہو جائیں تو باقی ادویہ ڈالیں اور آگ پر جوش دیں اور  
صاف پانی کر کے بوتل میں بھر کر کام میں لاویں۔ ایضاً مازو دو اوقیہ زاج ایک اوقیہ۔ صمغ عربی  
چار اوقیہ پانی ایک سو درہم ادویہ میں ڈال کر جوش دیں جب بخوبی رنگ نکل آوے تو چھان  
کر رکھ چھوڑیں اور بوقت ضرورت کام میں لائیں ایضاً مازو دو اوقیہ۔ صمغ عربی چار اوقیہ  
راج ایک اوقیہ پانی چالیس اوقیہ جوش دے کر اور صاف کر کے بوتل میں بھر کر کام میں لایا  
کریں ایضاً مازو ایک اوقیہ۔ زاج ایک اوقیہ، صمغ عربی ایک اوقیہ شہد سرکہ دو اوقیہ۔ پانی  
ایک رطل ادویہ کو پانی میں ملا کر آگ پر چڑھائیں جب پانی خشک ہو جاوے تو اس کو باریک  
کر کے قرص بنا کر رکھ چھوڑیں بوقت ضرورت پانی میں حل کر کے کام میں لایا کریں ایضاً مازو  
ایک اوقیہ صمغ عربی تین اوقیہ۔ زاج ایک اوقیہ۔ ملح اندرانی ایک اوقیہ۔ شکر تری نصف اوقیہ  
سرکہ ایک اوقیہ سنگ راسخ ایک اوقیہ۔ مازو باریک کر کے اور جوش دے کر پانی نکالیں  
اور اس میں سرکہ ملا کر صمغ عربی حل کریں پھر باقی ادویہ ڈال کر آگ پر خفیف سا جوش دیکر  
اتار لیں۔ اور دھوپ میں خشک کر کے رکھ چھوڑیں بوقت ضرورت پانی میں حل کر کے کام  
میں لاویں۔ ایضاً مازو دو اوقیہ ۲ رطل پانی میں جوش دیں جب دوڑوں پانی رہ جائے صاف  
کر کے اس میں چار اوقیہ صمغ عربی حل کریں پھر ایک اوقیہ زاج قبرسی ملا کر ایک گھڑی آگ  
پر جوش دے کر رکھ چھوڑیں اور بوقت ضرورت کام میں لاویں ایضاً نیل کی جڑیں رات کے  
وقت پانی میں بھگو دیں صبح کو جڑوں کی ایک تہائی خبث الحدید شامل کر کے نرم آگ پر جوش  
دیں یہاں تک کہ نصف پانی جل جاوے۔ نیچے اتار کر پانی کے چھٹے حصہ برابر سرکہ ملا کر رکھ  
چھوڑو اور بوقت ضرورت کام میں لاؤ۔

## باب ۱۸ سرخ و سبز نیلی سیاہی بنانے کے بیان میں

شنگرف خوب باریک پیس کر پانی میں ملا دیں اور ایک  
**سرخ سیاہی بنانا** | دو روز پڑا رہنے دیں پھر صاف کر کے رکھ چھوڑیں اور  
 بوقت ضرورت کام میں لاویں۔ ایضاً شنگرف کو انڈے کی زردی میں پیس کر اس پر اتنا  
 پانی ڈالیں جس سے پوشیدہ ہو جائے پھر انجیر کی لکڑی سے خوب ہلا جا کر پانی صاف نکل  
 کر رکھ چھوڑیں اور بوقت ضرورت کام میں لایا کریں۔

زنگار ایک حصہ۔ زریخ نصف حصہ۔ دونوں کو خوب باریک  
**سبز سیاہی بنانا** | پیس کر پانی ملا کر چھان لیں اور بوقت ضرورت کام  
 میں لاویں۔

نیلی ایک حصہ۔ سفیدہ کاشغری نصف حصہ۔ دونوں کو پیس  
**نیلی سیاہی بنانا** | کر پانی ملا کر چھان لیں اور بوقت ضرورت کام میں  
 لاویں۔

## باب ۱۹ لیس بنانے کے بیان میں

صغ عربی ایک حصہ۔ پانی تین حصہ۔ گوند کو پانی میں تر کر کے کسی  
**سفید لیس بنانا** | شیشی میں ڈال کر ایک روز دھوپ میں رکھ چھوڑیں بس تیار  
 ہے۔ پھر جس کام میں چاہیں لاویں۔

شنگرف ایک حصہ۔ صغ عربی تین حصہ۔ شنگرف باریک کر  
**شنگرفی لیس بنانا** | کے اور گوند کو پانی میں حل کر کے دونوں کو ملا دیں یہاں  
 تک کہ ایک دوسرے کے اجزاء باہم خلط ملط ہو جاویں پھر اپنے کام میں لاویں۔  
**پہر تال کی لیس** | پہر تال نذر رے کے کر اس میں تمھوڑا تمھوڑا پانی ڈال کر خوب پیس  
 کر گوند تلوں ملا کر رکھ چھوڑیں اور اپنے کام میں لاویں اگر

بھڑتال زرد نہ ملے تو سفیدہ کاشغری، زعفران اور گوند محلول سے یہی کام ہو سکتا ہے۔

**سبز لیس** | زریخ اصفرا ایک حصہ۔ نیل ۱۰ حصہ۔ صیغ محلول چار حصہ سب کو ملا لیں۔

زنگار کی لیس۔ زنگار کو سرکہ میں پیس کر گوند محلول ملا لو اور کام میں لاؤ

پستی لیس۔ زریخ کی لیس میں زعفران ملانے سے پسئی رنگ ہو جاتا ہے۔

لاجوردی لیس۔ سنگ رخام سفید کو ایک رات دن آگ میں جلا کر خوب باریک کریں پھر اس میں نیل کی جھاگ (پنجابی کٹ) جو نیلاری کے نیل منگے پر آیا کرتی ہے (ملاوین اور دونوں کو خوب سمیٹ کر پیس کر گوند محلول ملا کر کام میں لاویں۔

**سٹہری لیس** | ایک اوقیہ ابرق بیکری قنچی سے باریک کتر میں اور کسی چینی کے

برتن میں ڈال کر اس میں اتنا سرکہ ڈالیں جس سے وہ چھپ جائے پھر پندرہ روز تک دھوپ میں رکھ چھوڑیں پھر اس ابرق کو موٹے کپڑے میں ڈال کر اس میں سنگریزے ڈال کر پانی میں خوب ملیں تاکہ اس کی تاثیر پانی میں آجائے پھر اس میں زعفران اور گوند محلول ملا کر کام میں لایا کریں۔

**سفید لیس** | سفیدہ کاشغری میں گوند محلول ملا کر بنالیں اور کام میں لاویں ف تمام رنگ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے ایک نیا رنگ پیدا کرتے ہیں۔

## باب ۱۸۲ زنگار کے بنانے میں

لوہا ایک حصہ۔ پھکری ایک حصہ۔ نوٹ اور ایک حصہ۔ نیک تین حصہ سب کو باریک سمیٹ کر کے اور ایک تانبے کے برتن میں ڈال کر سرکہ سے بھر دیں پھر اس کو ایسی جگہ رکھ دیں جہاں آگ کی حرارت پہنچتی رہے یہاں تک کہ منعقد ہو کر زنگار کی شکل میں آجائے ایضاً لوہا دو رطل۔ نوٹ اور ایک رطل۔ آرد باقلا دو رطل سب کو کوٹ کر تانبے کی برتن میں ڈال کر سرکہ سے پیلے پر گڑ دیں اور برتن کے منہ سے بند کر کے ایک گڑھے میں لپی



کے اندر دستل روز تک دفن کر دیں بیس روز کے بعد نکالیں کہ وہ سارا زنگار کی شکل میں برآمد ہوگا ایضاً نمک طعام تین اوقیہ نوشادر ایک اوقیہ لوہا تین اوقیہ سب کو باریک کر کے دو تین روز دھوپ میں رکھ دیں پھر سرکہ میں ملا کر آگ کے پاس رکھا سہنے دیں یہاں تک کہ زنگار کی شکل میں آ جاوے ایضاً نمک طعام تین اوقیہ آرد باقلا تین اوقیہ لوہا تین اوقیہ نوشادر ایک اوقیہ سب کو باریک کر کے گھوڑی کے دو دھوسے ایک تانبے کے برتن میں پر کر دیں اور دھوپ میں یا آگ پر منجمد کر کے زنگار بنا لیں ایضاً نمک ایک رطل سلوہ دو اوقیہ نوشادر ایک اوقیہ سب کو باریک کریں کہ سرکہ کی طرح ہو جاوے پھر نیز سرکہ سے تر کر کے کسی تانبے کے برتن میں ڈال کر نمناک مٹی میں دفن کر دیں۔ ہینٹس روز کے بعد نکال کر کام میں لاویں کسی نے صنعت زنجار کو عربی اشعار میں نظم کیا ہے۔ چنانچہ وہ نظم ذیل میں درج ہے۔

دَمَنْ يُحِبُّ عَمَلِ الزَّجَّارِ فَلْيَبْتَدِ بِجَوْقِ التَّمَّاسِ وَقَدَّارِ رَطْلِ بِالْقِيَّاسِ	الطَّيِّبُ النَّاقِدُ لِلْعَطَّارِ فَيَصْفُهُ ثَلَاثِينَ بغير هَزَلٍ نَسَادِرًا مُقْتَدِرًا إِنَّ الْكَنَةَ يُؤَدُّنُ بِالذَّرِّ رَاهِمِ الْمُعْتَنَةِ	وَبَعْدُ كَمَا مَلَحَ الطَّعَامِ أَوْ قِيَّةً يُسْحَقُ فِي الْمُهَوَّاسِ أَرْجَبَةً وَيَسْحَقُ الْكُلَّ بِقَهْرٍ قَاسِيٍّ يُبَاحُ فِي طَاسِهِ مِنْ عَجَابِ	بِالْجَلِّ بِالْغَايَةِ كَوْنُ مَا صَفَى فِيهِ الْبَيَانُ مِنْ مَقَالِ الْقَضَى
---	---	---	--

ترجمہ جو شخص عمدہ زنگار بنانا چاہے جس کو عطار لوگ قبول کریں تو چاہے سے کہ تانبہ سوختہ ایک رطل معتدل عمدہ نوشادر نصف یا ۲۴ نمک طعام ایک اوقیہ سب کو کونڈے میں یا ہاون میں کسی مضبوط دست سے باریک کریں اور کسی تانبے کے برتن میں ڈال کر سرکہ تیز شامل کر کے زنگار تیار کریں۔

باب ۸۳ زردیہ سیاہ دھوڑی تیار کرنے اور عقیق و توہر

بنانے کے بیان میں

گائے کا زرد چمڑا تھوڑا سا لے کر اسکو چونہ بل کر بالوں کو دور کر دیں اور پانی سے دھو کر اس کے گوشت کو نکال دو پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک نی ہانڈی میں ڈالیں اور نیچے آگ جلائیں اور لکڑی سے ہلاتے جائیں جب اس کا قوام صابون کا سا ہو جائے نیچے اتار لیں پھر تھوڑا سا بادام کا چھلکا زعفران، سندروس، روغن السی، سب کو ملا کر اس پٹی چیز میں ملاویں اور پھر آگ پر چڑھا لیں ایک دو جوش کے بعد جب یکساں ہو جائیں تو اتار کر رکھ لیں، بوقت ضرورت جس چمڑے کو رنگ کرنا ہو اس کو صاف کر کے اس پر وہ چیز مل دیں اور دھوپ میں رکھ دیا کریں اس سے زرد رنگ ہو کرے گا اگر سیاہ کرنا چاہیں تو پھنکڑی لے کر باریک کریں اور اس میں اتنا ہی صابون انڈے کی زردی، روغن السی، اخروٹ کا چھلکا سب کو ملا کر یکذات کریں اور بوقت ضرورت چمڑے پر لگا کر دھوپ میں رکھ دیں۔

**جوہر بنانے کی ترکیب** | دودھ یعنی عمدہ صاف کوڑیاں جس قدر چاہو لے لو اور باریک پیس کر صابون سے دھو ڈالو۔ دھوپ میں خشک کر لو پھر کسی چینی کے برتن میں ڈال کر لیموں کا پانی جس سے وہ پوشیدہ ہو جائیں ڈال دو اور ایک رات دن رہنے دو پھر اگلے روز یہی عمل کرو یاں تک کہ کوڑیاں گوندھے ہوئے آٹے کی طرح ہو جائیں پھر ہاتھ صابون سے صاف کر کے اس کی بقدر خواہش گولیاں بنا کر ہر ایک گولی میں تانبے کی تار لگا دو اور گولیوں کو خشک کرو۔ پہلا عمل ختم ہوا اب گندم کا آٹا دس حصہ نمک طعام ایک حصہ ملا کر گوندھ کر ٹکیا بنا لو اور اس ٹکیا یا پیڑے میں ایک گڑھا بنا کر اس میں شب یمانی پیش کر بچھا دو اور اس پر وہ گولیاں رکھو اور پھر اس پر پھنکڑی ڈال کر پیڑے کا منہ کو خوب ملا دو اور توڑے پر پکاؤ جب روٹی ٹھنڈی ہو جاوے تو اس میں سے گولیاں نکال کر بکری کے دودھ میں پکاؤ پھر گائے کے گوشت میں ایک رات رکھ کر کام میں لاؤ۔

بایک بقول و محبوب و معاون سے تیل نکالنے کے بیان میں

انڈے کی زردی کا روغن نکالنا | انڈے کی زردی دس عدد بکریخت مصفی

نصف اوقیہ دونوں کو کھل کریں پھر کسی روغن دار برتن میں ڈال کر آگ پر رکھیں جب جلنے لگے اور شعلہ دینے لگے تو برتن بیڑھا کر کے اور دبا کر روغن نکال لیں۔

گندک کا تیل نکالنا | گندک ایک آملہ سا چار اوقیہ خوب باریک کریں پھر روغن سرسرد ایک درخت کا نام ہے آٹھ اوقیہ میں ملا کر بذریعہ

پتال جنتر یا قرع انبلی تیل نکال لیں۔

کچی اینٹ کا تیل | کچی اینٹ جس قدر چاہو ٹکڑے ٹکڑے کر پھر کسی برتن میں ڈال کر آگ پر رکھو جب وہ ٹکڑے گرم ہو جائیں تو ہر ایک

ٹکڑے کو روغن زیتون میں بچھا ڈ دیتے جاؤ۔ اس کے بعد ٹکڑوں کو کوٹ کر تریش (در دراسا) بنا لو پھر بذریعہ قرع انبلی یا پتال جنتر تیل نکال دو یہ تیل بہت کارآمد چیز ہے۔

گندھک کا تیل | گندھک باریک کر کے قرع انبلی سے تصحید کر کے روغن نکال لو ایضا گندھک باریک کر کے روغن زیتون میں ڈال کر چالیس روز تک ایک گڑھے میں جس میں لید ڈالی گئی ہو دبا دیں پھر نکال کر کام میں لاویں۔

ہترتال کا تیل | ہترتال بقدر ضرورت کسی روغن دار برتن میں ڈال کر اس پر اتنا پانی ڈالیں کہ پوشیدہ ہو جاوے پھر نرم آگ پر چڑھاویں جب پگھل جاوے تو تیل اوپر سے صاف کر کے کسی شیشی میں بھر لیں اور کام میں لاویں۔

زند یعنی راسن کا تیل | درخت راسن کے دانہ لے کر خوب باریک کریں پھر ایک اوقیہ دانہ زند کے واسطے ایک سیر پانی ملا کر نرم آگ پر پکائیں۔ تیل اوپر آجائے گا وہ الگ کر کے کام میں لاویں۔

روغن بطم نکالنا | اس کا تیل بھی دانہ زندگی طرح نکل آتا ہے اور البیسا ہی جب بلسان کا

گندہک زرد کامل کرنا | کھل کر کے روغن سے تر کر کے کسی روغن دار برتن میں ڈال کر آگ پر چڑھائیں اور تھوڑا تھوڑا روغن زیتون ڈالتے جائیں۔ تمام گندھک حل ہو جاوے گی روغن بمبہ سائلہ و صبح مفاصل و اورام بارہ کے کام آتا ہے۔ اور اعضا گرم کرتا ہے۔ نیز گردہ و مثانہ کی حرارت عزیز بزی کو قائم کرتا ہے اور وہ یہ ہے۔ میسر یا بسہ ایک اوقیہ قسط ایک اوقیہ روغن گنجد چھا اوقیہ ہر دو اوقیہ کو روغن میں پکائیں یہاں تک کہ ان کی تاثیر روغن میں آجاوے۔

روغن بالونہ بنانا | بالونہ کے پھول مصفی ایک اوقیہ۔ جلد نصف اوقیہ قسط نصف اوقیہ روغن گنجد سولہ اوقیہ سب کو ملا کر کسی روغن برتن میں ڈال کر چالیس روز تک دھوپ میں رکھیں پھر صاف کر کے کام میں لاویں۔

روغن گل بنانا | روغن گنجد ایک رطل، ورتی گلاب دو اوقیہ، روغن میں ڈال کر کسی بوتل یا روغن دار برتن میں چالیس روز تک دھوپ میں رکھیں اور صاف کر کے کام میں لاویں۔

کان میں ڈالنے کا روغن | روغن زیتون ایک رطل، مرزنجوش، دونامراتلسی، نیازبو کا پانی نصف رطل، دونوں کو آگ پر پکائیں جب پانی جل جاوے روغن کام میں لاویں۔

ترب یعنی مولی کا روغن | مولیاں کوٹ کر اور تھوڑا سا نمک لگا کر اس کا پانی نکالیں پھر جس قدر پانی ہوا اتنا ہی روغن گنجد یا روغن زیتون ملا کر آگ پر پکائیں جب پانی جل جاوے تو تیل صاف کر کے کام میں لاویں۔ یہ روغن کان کے درد کے واسطے نیز وجع مفاصل کے لیے نہایت مفید ہے اسی طرح تمام سہریات کا تیل نکل آتا ہے۔

باب ۱۸۵ ایسی دوا تیار کرنی جو پانی پر جلے اور ایسا پانی بنانا جو کپڑے

کو جلنے سے بچائے

سندروس ایک رطل و شق ایک رطل دونوں کو باریک کر کے کسی تانبے کے برتن میں ڈال کر سرپوش دے کر گل حکمت کریں اور ہانڈی کے سر پر ایک سوراخ کر دیں اور نرم آگ پر چڑھائیں جب وہ دوا پگھل جاوے اور پگھلنے کی علامت یہ ہے کہ سوراخ میں باریک تار داخل کر کے معلوم کریں اور اس پر چار رطل قطران (درخت سرس کا روغن سوراخ کے راستے سے ڈال دیں جب آپس میں مل جاویں تو اتار کر رکھ چھوڑیں اس میں سے پانی پر ڈالنے سے جل اٹھے گا، ایضاً سندروس ایک رطل روغن السی نصف رطل روغن گندھک ایک رطل سندروس کھل کر کے ہانڈی میں ڈال کر آگ پر گرم کریں یہاں تک کہ پگھل جاوے، جب پگھل جاوے تو باقی روغن ملا کر بکری کی مینگنی میں پانچ مہینہ تک دفن کر دیں اور ہر ایک مہینہ میں وہ مینگنی چار دفعہ تازہ کرتے رہا کریں، پھر نکال کر رکھ چھوڑیں اس میں سے تھوڑی سی لے کر جب اس پر پانی ڈالو گے تو بھڑک اٹھے گی

تانبہ سرخ ایک رطل تلعی

مصفی نصف رطل دونوں کو

عجیب دوا ساختہ ارسطو وزیر سکندر اعظم

گلا کر اس سے ایک نتیجہ بنا کر کسی جگہ میں گاڑ دیں اور روغن سے ترکہ کے آگ لگا دیں تو یہ ایک سال بلکہ دس سال تک نہیں بجھے گی۔ روغن یہ ہے قطران، صمغ صنوبر، گندھک زردانڈے کی زردی کا تیل ہر ایک مساوی پہلے گندھک کو گپھلائیں اور پھر باقی تیل ان میں شامل کریں اور اس کے برابر بوتق ملا کر سب کو باریک کر کے اس مصنوعی تیل کو آگ لگا دیں تو تماشا مذکور نمایاں ہو۔

ایسا پانی بنانا جو تیل کی طرح جلے اور کپڑے کو جلنے سے محفوظ رکھے

نمک ایک حصہ شراب ایک حصہ نمک کو شراب میں خوب حل کریں پھر قرع انبلیق سے

تصعید کریں پس اس پانی میں اگر تہی ڈبوئی جائے تو آگ لگ جاوے مگر تہی نہ جلے رازی نے اپنی کتاب خواص میں لکھا ہے کہ اگر شراب و سرکہ ملا کر اور اس میں بقدر ایک چوتھائی نمک ملا کر قرع ابلیق سے تقطیر کریں تو اس سے بھی وہی بات حاصل ہوتی ہے

ایسے لفظ بنانا جس میں بونہ ہو

قطران، صمغ صنوبر، چربی، موم سفید مساوی سب کو آگ پر پکھلا دیں پھر اس میں قزقل، مصطکی

سنبل کوفتہ بنختہ کر کے ملا دیں اس مجموعہ کو آگ میں ڈالیں تو جھٹ بھڑک اٹھے اس طرح صمغ صنوبر گند بک و سندروس کو کوفتہ بنختہ کر کے آگ پر ڈالنے سے بھی یہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔

ایسی آگ بنانا جو پانی پر شعلہ دے

روغن، چربی، مساوی دونوں کو گلا دیں پھر اس پر لفظ لہیض (سفید رال) ڈال دیں

پھر اس پر پانی ڈالو تو وہ شعلہ دے گا۔

## باب ۸۶ شگرف بنانے کی ترکیب میں

گندھک زرد، پارہ مساوی، اور ایک نستمہ میں لکھا ہے کہ گندھک زرد چار حصہ پارہ تین حصہ پھر دونوں کو ملا کر کسی مضبوط کوزے میں منہ گل حکمت سے خوب مضبوط کر دیں اور اس کے منہ پر کوئی وزنی پتھر یا کوئی اور وزنی چیز رکھ دیں تاکہ دوا کے زور سے اس کے کھلنے کا اندیشہ نہ رہے، پھر اس کے نیچے آگ جلا لیں، دوپہر تک آگ نرم رہے پھر تیز کر دیں چارپہر تک آگ عین پھر اس برتن کو سرد ہونے دیں جب سرد ہو جاوے تو نکالیں نہایت عمدہ شگرف تیار پاؤ گے، ایضاً گندھک زرد ایک حصہ، سندر ہوتین حصہ دونوں کو ملا کر آگ پر رکھیں تاکہ دونوں باہم خلط ملط ہو جاویں پھر اس میں ایک حصہ پارہ ڈال کر کسی برتن میں بند کر دیں اور گل حکمت کر کے اور برتن کے منہ پر کوئی وزنی سنگین چیز رکھ کر اس برتن کے نیچے آگ دیں، پہلے دوپہر نرم آگ پھر تیز کر دیں، چارپہر کے بعد آگ چوبیس سے نکال کر دوا کو سرد ہونے دیں جب سرد ہو جاوے تو نکالیں

عمدہ شنگرف تیار پادیں گے۔ ایٹا انڈسے کی سفیدی ایک حصہ۔ پھٹکڑی سرخ نصف حصہ دونوں کو کسی روغنی برتن میں ڈال کر آگ دیں جب دونوں باہم مل کر یکذات ہو جائیں تو اتار لیں اور سرد ہونے دیں شنگرف بنا ہوا پائیں گے۔

باب ۱۸۶ اریہ یعنی دوا بنانا جس سے بدن انسان پر جو چاہیں

لکھ لیں کے بیان میں

نو شادر ایک حصہ نمک ایک حصہ بعضوں نے نمک کی بجائے زنگار لکھا ہے ہر دو کو سرکہ میں خوب حل کریں اگر سرکہ نہ ہو تو پانی سے بھی کام چل جاتا ہے سیاہی کا کام دے گی دوسری طرف روغن اسی میں موم گلا کر رکھ چھوڑیں جب کبھی کوئی نقش و نگار یا کچھ لکھنا منظور ہو تو بدن کے کسی حصہ پر پہلے دوسری دوا کا پتلا سا طلا کر دیں۔ پھر اس پر لوہے کی قلم سے اول دوائی کے ساتھ لکھیں اور ایک رات ایسا ہی رہنے دیں پھر دھو ڈالیں نقوش و خطوط بدن پر نمودار ہو جائیں گے۔

سنگ راسخ مساوی کو سرکہ میں ملا کر آگ پر باہم ملا لیں یہ **دوسری ترکیب** سیاہی کا کام دے گا۔ پھر بدن پر وہی دوسری دوا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، طلا کر کے اس سیاہی سے بذریعہ کسی نب کے لکھیں اور رات ایک رکھ کے دھو ڈالیں نقوش نمودار ہو جائیں گے۔

لوہے کو فولاد ہندی بنانے کے بیان میں **پیازہ تھوم بکری کا سنگ سوختہ صابون نمک سب**

مساوی پیس کر کسی لوہے کے برتن میں ڈالیں پھر اس پر اتنا پانی ڈالیں جس میں وہ ادویہ چھپ جائے اور سات روز تک رہنے دیں خمیر ہو جاوے گا۔ اب جس چیز مثلاً چاقو۔ چھری تلوار وغیرہ اوزار کو فولادی بنانا چاہو تو وہ چیز لے کر اس پر شہد ملو پھر آگ میں گرم کر دیں تک کہ سفید ہو جائے پھر نکال کر وہ دوا ملو اور پانی میں غوطہ دو فولاد ہندی خالص ہو جاوے گا اگر ایک دفعہ کامیابی نہ ہو تو پھر ایسا ہی عمل کریں انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔

ایضاً بکری کا سینگ سوختہ، نیک سنگ مقناطیس، بکری کی ہڈی سب کو پیس لیں بوقت ضرورت اس میں سے تھوڑا سا لے کر پانی میں بھکودیں اور جو اوزار فولادی بنانا ہو اس پر شہد ملو پھر آگ میں گرم کرو پھر اس پانی میں غوطہ دے دو فولادی ہو جائے گا اگر ایک دفعہ خالص نہ ہو تو دوبارہ یہی عمل کرو۔

## باب ۲۸۸ کلک بنانے و صابون سازی کے بیان میں

قلموں کے رنگنے کی ترکیب | گیرو کو سرکہ میں حل کر کے قلموں پر طلا کریں

اور خشک ہونے دیں جب خشک ہو جاویں تو ان کو گندھک کے دھواں پر سینکیں جب خوب دھواں قلموں میں اثر کر جاوے تو گیرو کو دھو ڈالو۔ قلموں کی جگہ سفید و سیاہ نمودا ہوگی چونکہ ایک حصہ لانی بوٹی کی راکھ دو حصہ دونوں کو ملا کر ایک گھڑی کے نیچے

صابون بنانا | سوراخ کر کے اور اس سوراخ میں ایک بتی دے کر اس میں بھردو اور

کسی تپائی یا گھڑنی پر رکھ کر اس گھڑے کے نیچے دوسرا گھڑا رکھ دو اور اوپر کے گھڑے میں پانی ڈالو جو ادویہ کے اوپر ایک انگل تک آ جاوے اور اس پانی کو ٹپکنے دو جب ٹپک چکے تو اس پانی کو کسی برتن میں الگ کر لو اور پھر اور پانی گھڑے میں ڈالو اور مقطر لیتے جاؤ جب

دوا میں شوریت نہ ہے تو بس کر دو اور مقطر پانیوں کو ملا کر کسی گھڑی میں ڈال کر پانی کا میٹرلر حصہ نیل یا چربی ملا دیں اور آگ پر پکاؤں جب وہ ناخن پر چنے لگے اتار کر سانچوں میں بھر لیں اور کام میں لادیں، ایضاً چونکہ ایک حصہ سحی دو حصہ ان دونوں کو کوٹ کر چھو گنا

پانی میں ملا کر بطریق بالا مقطر کریں، اور مقطر پانی میں ایک تہائی یا نصف نیل یا چربی ملا کر پکاویں جب پکنے کی علامت ظاہر ہو اتار کر سانچوں میں بھر لیں اور کام میں لادیں ایضاً چونکہ خشک ایک رطل، سوڈا ایک رطل دونوں میں اتنا پانی ڈالیں کہ ایک اونچ اوپر

آ جاوے پھر ات بھر رکھا رہتے دیں صبح کو آب مقطر کر کے اس پانی میں آدھ سیر نیل یا چربی ملا کر آگ پر پکا لو جب پکنے پر آوے اتار لو۔ یہ نہایت نفیس

صابن تیار ہوتا ہے۔



## باب ۹۱ نوشادور صبر سفید بنانے کی ترکیب میں

**مصبر بنانے کے بیان میں** | مکو تازہ، کاسنی تازہ، اکسن تازہ سب کر کوٹ کر پانی نکالیں، اور کسی برتن میں ڈال کر نرم آگ پر پکا دیں جب منعقد ہونے کے نزدیک آ جاوے تو اس میں بکری کا پتہ ملا دیں جب منعقد ہو جائے تو دس رطل اس چیز کے مقابلہ میں نصف اوقیہ زعفران ملا دیں پھر آگ سے اتار کر سرد کریں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کام میں لا دیں۔

**مصنوعی نوشادور کی ترکیب** | جن بھٹیوں میں لید وغیرہ کوڑا کرکٹ جلا یا جاتا ہو ان کی دیواروں و پختوں کا دھواں جما ہوا لے کر اس سے ایک ہانڈی بھر لیں اور اس کے منہ کو کسی کوری نئی چینی سے برابر بند کر دیں اور اس چینی میں بہت سے سوراخ کر ڈالیں اور ہانڈی کو گل حکمت کر کے نرم آگ پر چڑھائیں جب تک اس سے دھواں سفید رنگ کا نکلنا شروع نہ ہو نرم آگ دیتے جائیں جب سفید دھواں شروع ہو، ہمارے آگ بند کر دیں اور ہانڈی کو ٹھنڈا ہونے دیں پھر ہانڈی کا منہ کھول کر جو چیز سریش پر جمی ہوئی ہو جمع کریں یہ نوشادور۔ معدنی نوشادور سے افضل ہوتا ہے۔

**سفید بنانے کی ترکیب** | کوئی مرتبان سرکہ تیز سے پر کر دیں، پھر اس کے اوپر کوئی تار وغیرہ باندھ کر اس قلعی کے ٹکڑے لٹکا دیں جو سرکہ کی سطح کے قریب رہیں اور سرکہ کو نہ لگیں، آٹھ دس روز کے بعد ان ٹکڑوں پر ایک سفیدی چیز لگی ہوگی اس کو دور کر لو اور پھر ٹکڑوں کو ویسے ہی لٹکا دو جب ان پر سفیدی آجاتا کرے اتار لیا کرو یہی عمل کرتے رہو یہاں تک کہ قلعی کے ٹکڑے فنا ہو جائیں اور سارے کے سارے سفیدہ کی شکل میں آجائیں۔



کا حافظہ بہت بڑھ جاوے دعا یہ ہے، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ فَلَ تَسْأَلُ عِنْدَكَ اَسْأَلُكَ  
بِحَقِّ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَعِيسَى رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ وَاسْأَلُكَ بِتُورَةِ مُوسَى وَانْجِيلِ عِيسَى وَزُبُورِ  
وَدَاوُدَ وَفُرْقَانَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْأَلُكَ بِكُلِّ وَحْيٍ اَوْحَيْتَهُ وَقَضَا  
قَضَيْتَهُ وَسَائِلِ اَعْطَيْتَهُ مَدِيَّتَهُ وَغَنِيَّ اَفْقَرْتَهُ وَفَقِيرَا غَنِيَّتَهُ وَاسْأَلُكَ بِاسْمِكَ  
الَّذِي اَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى فِي التَّوْرَةِ وَاسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي ثَبَّتَ بِهِ اَرْضَ اَق  
الْعِبَادِ وَاسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْجِبَالِ فَارَسَتْ وَعَلَى النَّهَارِ فَاَضَاءَ وَ  
عَلَى اللَّيْلِ فَاظْلَمَ وَاسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَاسْأَلُكَ  
بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى السَّمَوَاتِ فَارْتَفَعَتْ وَاسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَرَّ بِهِ  
عَرْشُكَ وَاسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ الْوَاتِرِ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ وَبِكِتَابِكَ الْحَقِّ الْمُنَزَّلِ  
الْقَامِ التَّوْرِ الْمُبِينِ اَنْ تَسْلُكَهُ فِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَتُخْلِطَهُ فِي لَحْمِي وَدَمِي  
وَقَهْرِيهِ وَتَسْتَعْمِلَنِي بِدِيكَرِكَ فَاتَدُلَّ لِحَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

ہشام بن القاضی بن الحارث بن عباس۔

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے سوا ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے میں تجھ سے محمد  
تیرے نبی اور عیسیٰ تیرے کلمہ اور روح موسیٰ کی تورات اور عیسیٰ کی انجیل اور داؤد کی زبور  
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن جو ان سب پر حکم ہے حق سے سوال کرتا ہوں اور میں  
تجھ سے تیری برکت سے جو تو نے اس کو دیا ہو اور اس گمراہ کی وجہ سے تو نے غنی کر دیا ہو  
مانگتا ہو مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ کو ان ناموں کی وجہ سے سوال کرتا ہوں جن سے آج  
تک تیرے پکارنے والے نے پکارا اور تو نے ان کی دعا قبول کر لی اور میں تجھ سے ان  
ناموں کی وجہ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات میں اتارے اور  
اس نام کی برکت سے جس نے بندوں کے زرق مقرر کیے ہیں اور اس نام کی برکت  
سے جس کے ساتھ تو نے پہاڑ محکم کر دیئے اور آگ کو روشن کر دیا اور رات کو اندھیری  
کر دیا اور زمین کو ٹھہرا دیا اور آسمانوں کو بلند کر دیا اور عرش کو ٹھہرا دیا اور میں تیرے پانچوں  
ناموں کی وجہ سے سوال کرتا ہوں اور تیری کتاب کی برکت سے جو کہ نور میں ہے (باقی آئندہ)

کی ذہنی روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہا کہ کیا میں تجھ سے وہ بات بتلاؤں جو جبریل علیہ السلام نے مجھ سے بطور ہدیہ دی ہے جس سے حافظہ بڑھتا ہے اور نسیان دور ہوتا ہے ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے آپ نے فرمایا کسی تھاں یا کٹورے میں زعفران و گلاب کے عرق سے سورۃ الفاتحہ و سورۃ الحشر و سورۃ الواقعة لکھو پھر آب زمزم یا آب بارش یا کسی صاف پانی سے دھو کر صبح کے وقت تین مثقال لوبان دس مثقال شہد دس مثقال شکر ملا کر پی جاؤ اور اس کے بعد دو رکعت پڑھو ہر ایک رکعت میں پچاس دفعہ قل ہو اللہ احد اور پچاس ہی دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں ابن عباس کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد جیسا کہ میں اس روز خوش ہوا کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس کا نفع چالیس روز کے بعد ہی شروع ہوا۔ شہاب الزہری اس کو لکھ کر اپنی اولاد کو پلا یا کرتا تھا۔ عامم کا قول ہے کہ میں نے پچپن سال کی عمر میں اس کا استعمال شروع کیا۔ پس ہر ایک مہینہ میں میرا حافظہ و فہم بڑھتا گیا۔ ایضاً سات دانہ انجیر لے کر پہلے دانہ پر سنقر ٹڈک فلا تَحْسَبِي دوسری پر خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْاَلْبِيَابَ تیسری پر كَاَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا چوتھی پر رَبِّ قَدْ اَشْتَيْتَنِي پانچویں پر قُلْ رَبِّ اِنِّى فُقِىْتُ عَلِمًا چھٹی پر وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا لَسَاوِيں پر تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ لکھ کر تین روز تک صبح کے وقت ان کو کھایا کرے۔ انشاء اللہ حافظہ میں ترقی ہو ایضاً سیدنا علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ اگر منقہ سیاہ تین اوقیہ۔ اصل السوس تین اوقیہ شکر تری تین اوقیہ۔ شہد تین اوقیہ۔ گندم بریان تین اوقیہ سب کو ملا کر سات دن تک استعمال کریں تو حافظہ بڑھے اور نسیان دور ہو۔ ایضاً حرمی نصف رطل۔ شہد ایک رطل حرمی باریک کر کے شہد میں ملاویں اور چالیس روز کے بعد اس کو سات روز میں ختم کریں تو قوت حافظہ زبردست ہو جاوے۔ ایضاً ہدیہ کا دل بریان کر کے شہد کے ساتھ کھانا بھی یہی فائدہ دیتا ہے۔ ایضاً بدھ کے

(حاشیہ سابقہ) یہ کتاب کو میرے کان آنکھ میں جاری کر دے اور میرے خون و گوشت میں بلا دے اور دل میں جگہ دے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے کیونکہ آپے رب العالمین تیری مدد اور قوت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ۱۲

روز طلوع آفتاب سے پہلے سات مکیا چھوٹی چھوٹی پکائیں اور ہر ایک پر آیات ذیل لکھ کر کھاویں تو حافظہ بڑھے اور نسیان دور ہو ایک پر اللہ نَزَلَ الْكِتَابَ مُتَشَابِهًا أَبُو بَكْرٍ دوسری پر اَللّٰهُ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ عَلَيَّ تیسری پر تَبَيَّنَتْ لِيْ اَجْوَابُ مَسْئَلَتِيْ وَاللّٰهُ جَمْعٌ عَمَّا چوتھی پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِذَا هَرَدَ مَا هَلَّ صَاحِبِكُمْ وَمَا رَأَى عَمْرُوهُ پانچویں پر اَللّٰهُ نَشْرَحُ مُحَمَّدًا اِجْمَعِيْ بِرِسُوْرَةِ اَفَاغٍ وَعَاثِيَةِ سَالُوِيْں بِرَأْمَنِ الرَّسُوْلِ قَاطِبَهُ وَالْحَسَنُ وَالْحَمِيْنُ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص چینی کے نئے پیالے میں عرق گلاب و زعفران کے ساتھ تین دفعہ پڑھیں دفعہ م و خاتم سلیمان لکھ کر اس کے پیچھے عَلُوْا اِلٰى نَسَانٍ مَا لَمْ يَعْلَمْ لکھے اور بارش کے پانی یا پاک پانی سے دھو کر پیوے تو حافظہ ترقی کرے اور نسیان دور ہو ایضا جو کی باریک روٹی پر اسماء ذیل لکھ کر بدھ کے روز طلوع آفتاب کے پہلے جو شخص اس کو کھاوے حافظہ کی ترقی پاوے اسماء یہ ہیں۔

رُوْحِيَّ اَيْل . رُوْقِيَّ اَيْل . مَرِيَّ اَيْل . دَرْدِيَّ اَيْل . صَفَا صَفَا اللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَقْرَبْتَنِيْ عَلٰى فُلَانٍ بِنِ فُلَانِكَ بِالتَّعْلِيْمِ وَالتَّفْهِيْمِ مِنْ عَلُوِّ تَافِعِ يَادِىْ الْعَالَمِيْنَ . اَيْضًا آيَاتِ ذِيْلِ كَسٰى كَانِزِ لِكَلِّهِ كَرَمَتِيْ فِيْ لَيْسَ كَرَمَتِيْ كَرَمَتِيْ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ . قَلَا تَنْسِيْ اَتَكَ اَللّٰهُ نَشْرَحُ اِقْرَابًا بِاسْمِ يَعْلَمُ تِك اَيْضًا دَعَا يَهْ اَكْتَرِ طَرْمَا كَرَمَتِيْ . اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْ نَفْسِيْ دُمُطِيْمَةً تُوْمِيْنَ بِبِقَائِكَ وَتَرْضٰى بِقَضَائِكَ اَللّٰهُمَّ اِذَا مَرَقْتِيْ فَهَوِّ النَّبِيِّيْنَ وَحِفْظِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلَاوِيْكَ الْمَقْرَبِيْنَ اَللّٰهُمَّ عَمِّرْ سَانِيْ يَنْ كِرْكٍ وَقَلْبِيْ بِجَنَّتِيْكَ وَسَرِيْ بِطَاعَتِكَ وَصَلِّىْ اَللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا . اَيْضًا سَاتِ

دائے کھجور پر آیات ذیل لکھ کر کھا یا کرے پہلی پر دِنِيْ زِدْنِيْ عَلِيًّا دوسری پر وَ عَلِمْتَهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِيًّا . تیسری پر قَالَ لَهُ مُوسٰى اَهْلُ اَيْتِكَ تِك چوتھی پر دِنِيْ اَشْرَحْ لِيْ مَعْدَرَةً اَوْ كَيْتَرِيْ اَمْوِيًّا

اے ترجمہ اے اللہ میرا نفس مطمئن کر دے تیری ملاقات پر ایمان لاوے اور تیرے فیصلہ پر راضی ہو جائے اے اللہ مجھے نبیوں اور رسولوں اور مقرب فرشتوں والا حافظہ مرحمت کر اے اللہ میری زبان کو اپنے ذکر اور دل کو اپنے خوف اور خواہشوں کو اپنی فرمانبرداری سے آبار کر دے اور درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ رسول اور آپ کی اولاد اصحاب پر ۱۲

پانچویں میں سُنْقَرُكَ فَلَا تَنْسَىٰ جھٹی پر عَلَّمَ الرَّسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُوا۔ ساتویں پر الرَّحْمٰنِ عَلَّمَ السُّرَانَ۔۔۔۔۔

ب	ط	د
ز	ھ	ج
و	ا	ح

ایضاً خاتم غزالی شدت یعنی بطور سچ جس کی شکل یہ ہے لکھ کر اس کے ارد گرد آیات ذیل پاک پانی سے دھو کر پیا کریں

سات دن تک یہ عمل کریں آیات یہ ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَكَلَّمْنَا لَهٗمُ الْقَوْلَ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ عَلِيمًا۔

ایضاً دُوبے کی زبان بر زبان کر کے اس کے تین حصے کریں اور پہلے حصے پر قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا دوسرے پر سُنْقَرُكَ فَلَا تَنْسَىٰ تیسرے پر عَلَّمَ الرَّسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُوا لکھ کر کھایا کریں کم از کم تین دن تک یہ عمل کرتے رہا کریں ایضاً قر نفل، کندر، حرمل، شکر تری، مساوی لے کر سفوف بناویں اور ہر ایک بقدر ایک درہم اس میں سے استعمال کیا کریں۔ دن میں دو دفعہ استعمال کریں۔ ایضاً محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس آکر حافظہ کی شکایات کی، آپ نے کہا ہر روز دو مثقال شکر تری اور ایک مثقال لوبان ذکر ملا کر کھایا اور اس کے بعد اپنی بائیں ہتھیلی پر زعفران کے ساتھ آئینہ لکری لکھ کر زبان سے چاٹ لیا اور اس نے ایسا ہی کیا چند روز کے بعد محمد بن سیرین کو اس سے ملاقات کا اتفاق ہوا پوچھا اب تیرا کیا حال ہے۔ کہا میں نے دس ہزار احادیث یاد کر لی ہیں۔ محمد بن سیرین نے کہا یہی عمل کیے جاؤ چند روز کے بعد دوبارہ اتفاق ملاقات ہوا پوچھا اب کیا حال ہے۔ کہا اب جو بات سنتا ہوں یاد ہو جاتی ہے، ف کہتے ہیں کہ بیٹریا کا پتہ پینے سے بھی نسیان دور ہو جاتا ہے، ایضاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب ریل آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا اے محمد تیری امت میں سے جس کا حافظہ کمزور ہو اس کو چاہیے کہ جمعہ کی رات تھے برتن میں پانی ڈال کر اس پر سورۃ الفاتحہ ستر دفعہ آئینہ لکری ستر دفعہ قل ہو اللہ احد ستر دفعہ والمعوذین ستر دفعہ پڑھے اور پڑھتے وقت اپنی انگلی پانی میں ڈبو رکھے پھر کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پھر دفعہ پھر اس پانی کو پی جاوے تین روز تک یہی عمل

کر کے نیر پانی ہر ایک بیماری و بلا سے بھی امان دیتا ہے سات روز تک کریں ایضاً  
 یہ ایک مبارک پانی ہے جس کو شیوخ الاسلام مثل عبداللہ بن مسعود و زید بن حلاب و زید بن  
 حبیب و الولید بن عمر و زید بن سحنون و زید بن عربی و زید بن شہب پھر ابن ماجنون پھر  
 امام غزالی جیسے بزرگوں نے قرآن سے استخراج کیا ہے کہ اگر گندم میں مثقال شکر تری میں  
 مثقال اصل السوس مفسر مغز بل میں مثقال منقہ کشمش - ملح اندرانی نمک طعام ہر ایک  
 میں مثقال سب ادویہ ملا کر سفوف تیار کریں اس کے بعد ایک نیا پیالہ لیکر اس میں بسم اللہ  
 سورۃ الفاتحہ سورۃ الاخلاص المعوذتین آیۃ الکرسی - اسن الرسول نے آخر سورہ بقرہ و قُلِ اللّٰهُمَّ  
 مَا لَكَ الْمَلِكِ اِلَىٰ حِسَابٍ - وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ابْتِغَاءَ هَادٍ اَيُّهَا اِلَىٰ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَقَالَ رَبِّ  
 اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۙ اِلَىٰ يَصِيْرًا ۝ وَقَدْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۙ اِلَىٰ اٰخِرُهَا وَ سُوْرَةُ بَاسِمِ الْاَلٰه  
 تَشْرَحُ الْخَوَاقِعَ الْاَوْ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوْجًا  
 وَ تَبَارَكَ الَّذِي اِنْ شَاءَ عَلٰى ذٰلِكَ تَبَارَكَ الَّذِي رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَ تَبَارَكَ الَّذِي اِلَىٰ مَا  
 بَيْنَهُمَا تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى  
 اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ  
 نَسْتَغِيْثُ يَا اَللّٰهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ يَا اَللّٰهُ -

۳ لکھے اور بارش کے پانی یا پاک صاف پانی سے دھو کر تیر ہویں چود ہوں پندر ہوں چاند  
 کی راتوں میں ستاروں کی روشنی میں پڑا رہنے دیں پھر اس پانی کے سات حصے کریں اور  
 اس دوا کے بھی سات حصے کریں اور ہر روز ایک حصہ دوا اور ایک حصہ پانی صبح کے  
 وقت سات روز تک استعمال کریں نہایت مجرب ہے۔ ایضاً معجون ذیل جس کو معجون  
 الشافعی کہتے ہیں زیادتی حفظ و دفع نسیان کے لیے خوب ہے۔ پستہ مفسر ہر روز منقہ  
 سعد کوفی، لوبان ذکر ہر ایک ایک حصہ شہد خالص تین حصہ معجون بنا کر ہر روز دو مثقال  
 استعمال کریں اور ریاضت و عمدہ غذا و پرہیز ضروری سمجھیں۔ ایضاً جمعہ کے روز سورۃ یاسین  
 اور اس کے بعد رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي اَمْرِي وَ اَخْلِلْ عَقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يُفْقَهُ مَا  
 قَوْلِي دَعَلُوا الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْزُقْ سَنُقِرُّكَ فَلَا تَنْسِي اور اس کے ساتھ خواتم ذیل ۱۱۱۱ م

آا ہے فانرجہاد شکر و شایب ظہیر خیر و ذکی عرق گلاب وزعفران کے ساتھ کسی نیکے پیالہ میں لکڑی کے سات روز تک استعمال کریں۔ ایضاً بعض طبیوں کا قول ہے کہ جو شخص چکڑی کا پتہ سرد پانی سے پی جاوے اس کو نسیان نہ ہو ایضاً ہدہ کا دل عرق گلاب وزعفران و شہد میں پکا کر کھانا بھی یہی عمل دیتا ہے ایضاً ہیلہ کا بلی۔ لوبان ذکر ایک ایک اوقیہ مصطکی نصف اوقیہ موز منقی دو اوقیہ شہد خالص بارہ اوقیہ ادویہ کو کوفتہ کر کے شہد میں ملا کر معجون بنائیں اور ہر روز اس میں سے بقدر تین درہم استعمال کریں ف حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حاملہ عورتو اپنے پیٹ کے بچوں کو لوبان کی دھونی دیا کرو کہ ان کا حافظہ و عقل زیادہ ہو۔

## باب طعام وغیرہ اشیا میں برکت ڈالنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص گندم کے پچیس دانے لے کر ہر ایک دانہ پر محمدؐ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشَدُّ اَعُوْذًا عَلٰى الْكُفٰرِ اٰخِرُ سُوْرَةِ بَكْرِ ط ہے اور ان دانوں کو کسی اونی کپڑے میں باندھ کر طعام وغیرہ اشیا کے نیچے رکھ دیں اور مہمانوں کے آگے رکھیں نجد اس سے ایک لاکھ آدمی بھی کھا جائے گا تو سب سیر ہو جائیں گے اور کھانا ویسا ہی ویسا تو کج رہے گا ایضاً شیخ سیدی منصور علی کا قول ہے کہ اگر آیات ذیل و ما من دایۃ فی الارض الیٰ صبیئ و ایہا اذکی اطعاماً لایلدیٰ قریش کوزیتون کے ٹکڑے پر لکھ کر کھیتی میں کارویں کھیتی نہایت بابرکت پیدا ہو ایضاً سو دانہ گندم یا جو کا لیکر اس پر سورۃ الفاتحہ ایک ہزار پانچ سو دفعہ اور آیتہ الکرسی ۹۶ دفعہ پڑھ کر دم کریں پھر اس میں سے ایک دانہ جس چیز میں برکت دینی چاہیے اس کے نیچے رکھ دیں بشرطیکہ رکھنے والا طہارت سے ہو ایضاً جس پیالہ میں کھانا ڈال کر کھانا چاہے اس میں خالص چاندی کے ٹکڑے سے اسماء ذیل نقش کریں پھر کھانا ڈال کر کھاویں تو نہایت بابرکت پیدا ہو اسماء یہ ہیں اِنَّ هٰذَا الْبُرْءُ قُنَا مَالَهُ مِنْ نَقَاذِ اللّٰهِ مَوْضِعِ الْبُرُوْكَةِ فِیْ طَعَامِنَا هٰذَا۔

لے ترجمہ تحقیق یہ ہمارا رزق باکل ختم نہ ہو گا اے ہمارے اللہ اس کھانے میں برکت ڈال ۱۲ منہ





مَثَلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ إِلَى عَلِيٍّ وَأَيَّةٌ مِّنكَ إِلَى رَازِقِينَ  
 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهَا وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي إِلَى  
 الْمُنزَلِينَ أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ يَقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ هُوَ وَخَلَّاقُ الْعَالَمِينَ وَجَدْتُ عَدْنٍ  
 مَّفْتَحَةً أَبْوَابُهَا رِزْقٌ كَرِيمٌ مَالَهُ مِنْ نَفَائِدِ رِزْقِ اللَّهِ هُوَ الرِّزْقُ الرِّزْقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ  
 وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ..... عبد اللہ بن سلام عبد اللہ

بن مسعود عبد اللہ بن عمر عبد اللہ بن عباس عبد اللہ بن الزبیر اویس قرنی الربیع بن خنیتم  
 ہرم بن حیان مسروق ابن الاحدع عامر بن عبد اللہ بن قیس مسعود بن اسلم الخولانی  
 الحسن البصری ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین ایضاً اگر ایسبجول کے لعاب سے  
 آٹا گوندہ کر روٹی پکائی جاوے تو آدھی سے زیادہ ہو جاوے۔ ایضاً عید کے روز زنج  
 کی ہوئی بکری کا بائیں شانہ کے کراسما ذیل لکھ کر غلہ کے ڈھیر میں ڈال دیں تو غلہ میں بہت  
 برکت پیدا ہو۔ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ -  
 تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ تَبَارَكَ الَّذِي يَجْعَلُ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا تَبَارَكَ  
 الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَمْلِيحٌ تَمْلَاهَا تَمْلِيحٌ لِحِجْلِي لَمْ يَنْفُوشِ انطوس  
 طلطوس طيطوس وَكَلْبُهُمْ قَطْمِيرٌ ایضاً سیدی احمد زوق کا قول ہے کہ جو شخص آسمان ذیل  
 جمعہ کے روز وہ جمعہ جو ایام بیض رتیر ہویں۔ چودہ ہویں پندرہ ہویں چاند کی رات میں آدے  
 مٹی کی ڈھیری پر لکھ کر کھینچی یا غلہ وغیرہ میں دفن کر دے تو برکت عظیم مشاہدہ کرے اسماویہ ہیں۔  
 يَا كَافِي يَا غَنِي يَا فَتَّاحُ يَا رَازِقُ يَا مُنْعِمُ يَا جَوَادُ يَا يَاسِطُ يَا ذَا الطُّوْلِ يَا مُغِيثُ رَاتِ  
 هَذَا الرِّزْقِ مَالَهُ مِنْ نَفَائِدِ -

## باب ۱۹۲ مسائل متفرقہ کے بیان میں

قضاے حوائج کے لیے جو شخص اپنی کوئی حاجت پوری کرنی چاہے اسے چاہیے  
 کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سورۃ الفاتحہ و آیتہ الکرسی و الم نشرح پڑھے پھر اپنی حاجت  
 طلب کرے ایضاً اگر کوئی شخص کسی زنی حاجت شخص کے پاس اپنی حاجت کے لیے جانا



ادا کر کے دو رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ ہر ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ دفعہ  
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھیں جب سلام پھیر چکیں تو اس کے بعد دعاء ذیل اللّٰهُمَّ يَا مَنْ  
 إِذَا اقْتَضَيْتِ الْأُمُورَ رُجِعَتْ إِلَيْهِ وَإِذَا اكْتَرَأَ النَّحْوَاتِجُ رُفِعَتْ إِلَيْهِ وَإِذَا  
 غُلِقَتِ الْأَبْوَابُ فَتَحَ بَابَهُ لِتَهْتَدِيَ الْعُقُولُ إِلَيْهِ تَوَسَّلْتُ بِأَدَبِ الْفُقَرَاءِ  
 الْعَظِيمِ وَمَا فِيهِ مِنْ أَسْمَائِكَ الْعَظِيمَةِ وَبِمُعْتَمِدِي صَلَوَاتِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامٍ تَبَتُّ  
 بِتَبَتِي الرَّحْمَةَ يَا مَحْتَدًا تَوَسَّلْتُ بِكَ إِلَى رَيْكَ -

فائدہ عجیبہ شیخ سیدی ابوالعباس السبئی کا فرمان ہے اگر کوئی شخص سفر کو جانا چاہتا  
 ہو اور راستہ میں سابق راہزن دینہ دشمنوں کا خطرہ ہو تو اس کو چاہیے کہ ستر دفعہ سورۃ فاتحہ  
 اور ستر دفعہ ہی سورۃ الاخلاص اور اتنی دفعہ ہی لایلاف قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 پر درود پڑھ کر اپنے بدن پر دم کرے اور منہ میں یا اللہ یا حَفِيفُ یا حَفِيفُ کہنا چلا جاوے  
 تو اس کو کوئی چیز تکلیف نہ رہے گی اور ہر ایک بلا سے محفوظ رہے گا۔

فائدہ ہر ایک خوف و خطر سے بچنے کیلئے

کنواری لڑکی کے ہاتھ کا  
 کاٹا ہوا کچا سوت لے کر

اس میں نوگرہ لگائیں اور ہر ایک گرہ پر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھتے جاویں پھر اس  
 دھاگے کو اپنے پاس رکھیں اور ہر بلا سے محفوظ رہیں فایہ دعاء دشمنوں کے شر  
 سے محفوظ رکھتی ہے نیز ہر ایک سلطان جابر و شیطان سرکش و درندہ موذی سے امان  
 دیتی ہے دعایہ ہے کہ ہر روز طلوع آفتاب کے وقت سات دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں  
 اس روز ہر بلا سے محفوظ رہیں رَأْسُوقَ نُورِ اللَّهِ وَظَهَرَ كَلَامُ اللَّهِ وَتَبَتَّ أَمْرُ اللَّهِ وَنَفَذَ

اے اللہ اے وہ ذات جب کام مشکل ہو جائیں اور اسی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں اور جب حاجات زیادہ  
 ہو جائیں اسی سے طلب کی جاتی ہیں اور جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں اس دروازہ عقولوں  
 کو اس کی طرف لبریں کرنے کے لیے کھولا جاتا ہے اے میرے رب میں تیری طرف قرآن شریف اور  
 ان ناموں کو جوا نہیں ہیں اور محمد تیرے نبی رحمت کو وسیلہ گردانتا ہوں اور اے محمد میں تجھے تیرے  
 رب کی طرف وسیلہ گردانتا ہوں ۱۲ لے اور مجھے ہر چیز سے کفایت کرنے والا ہے ۱۳۔

حُكْمُ اللَّهِ اسْتَعْنَتْ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ تَخَصَّنْتُ بِحَفِي لُطْفِ اللَّهِ وَبِلَهْفِ صُنْعِ اللَّهِ وَبِجَمِيلِ سِتْرِ اللَّهِ وَبِعَظِيمِ ذِكْرِ اللَّهِ وَبِقُوَّةِ سُلْطَانِ اللَّهِ دَخَلْتُ فِي كَنْفِ اللَّهِ وَاسْتَجَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرِيَّتُ مِنْ حَوْلِي وَتَوَاتِي وَاسْتَعْنَتْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَتَوَاتِيهِ اللَّهُمَّ اسْتُرْنِي فِي نَفْسِي دِينِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي بِسِتْرِكَ الَّذِي سَتَرْتَ بِهِ ذَاكَ فَلَا عَيْنٌ تَرَاكَ وَلَا بَدَأُ تَصِلُ إِلَيْكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اُحْبِبْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بِقُدْرَتِكَ يَا قَوِي يَا مَتِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا۔ اس کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے۔

**فائدہ دشمنوں کے بھگانے کے لیے** اسماء ذیل اپنے ہر دو پاؤں کی مٹی پر پڑھ کر دشمنوں کی طرف پھینکے

اسماء یہ ہیں۔ قُلْ كُونُوا حِيَارَةً۔ وَأَدْجَسْ فِي نَفْسِهِ خَيْفَةً مُوسَى۔ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَجَعَلْنَا فِي آعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا لَا يَمُورُونَ۔

**جن وغیرہ موزی دشمنوں سے حفاظت کے واسطے** اگر کوئی دعا پڑھنا چاہیں اور جن بھوت

کا خطرہ ہو تو چاہیے کہ عصا کے ساتھ زمین پر ایک دائرہ کھینچیں اس طرح پر کر آیت الکرسی پڑھتے جائیں اور عصا سے آہستہ آہستہ زمین پر دائرہ کھینچتے جائیں اور آپ اس دائرہ کے اندر رہیں اور آیت الکرسی کو جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر ہی ختم کریں پھر جو چاہیں اس دائرہ کے اندر بیٹھ کر پڑھیں۔ ف اگر قیدی آدمی اسماء ذیل ہزار دفعہ ایک ہی مجلس میں پڑھ کر اپنی بیڑیوں پر دم کرے نیز خاتم ذیل لکھ کر پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلدی خلاص کرے اسماء یہ ہیں۔ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ اور خاتم یہ ہے۔

اے کہہ ہو جا پتھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف کو محسوس کیا اور ہم نے اس کے آگے اور پیچھے روک کر دی ہے اور ان کی گردنوں میں رنجیر پس وہ دیکھ نہیں سکتے ۱۲

ایضا کسی نیک بخت سے روایت ہے کہ اگر تمھوڑی سورہ الفاتحہ ایک سو گیارہ دفعہ پڑھ کر اپنی بیڑیوں پر کس دفعہ تمھوک رسے تو بیڑیاں خود بخود کھل جائیں اور وہ اس سے نجات پاوے۔

## فائدہ عورت کو محبت میں پھنسانے کیلئے

سورہ والضحیٰ کسی تعویذ میں لکھ کر اس کے آخر یا جامعہ الناس لیومہ لا ربیب فیہ اُرْدُوْنَ ذُوْجَةَ كَذَّارَاتٍ۔۔۔۔۔ لکھ کر کسی جگہ میں دفن کر دیں اور اس جگہ پر چار کھات نماز ادا کریں اور جو کچھ تعویذ میں لکھا ہے وہ بھی پڑھیں۔ ایضا اسماء ذیل کا غدین پر لکھ کر جلاویں اور اس کی راکھ کو بطور سرمہ لگا کر اس عورت کے سامنے جائیں جس سے محبت کا ارادہ ہو انشاء اللہ مطیع ہو جاوے۔ اسماء یہ ہیں یَا كَاذِبُ الرِّقِّ يَخْطِفُ اَيْتَادَهُمْ قَامُوا۔۔۔۔۔ تک ایضا اس عورت کے لیے جو فاوندر چاہتی ہو سورہ والفجر کسی برتن میں لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر اس میں مہندی گوندھے اور ہاتھ پر لگا کر اس کے سامنے چلے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہ اسکو نکاح میں لے آوے۔

اسماء ذیل لکھ کر دائیں بازو پر بطور تعویذ لٹکا رکھیں اسماء  
**حفاظت کے واسطے** یہ ہیں۔ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ أَلَىٰ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ يَوْمَ الْاِحْدِ فَا بَطَلْنَا هُ يَا نُوَاحِدِ الْاِحْدِ الْاِحْدِ الْاِحْدِ  
الَّذِي كَفَرْنَا بِكَ يَوْمَ الْاِحْدِ فَا بَطَلْنَا هُ بِثَلَاثَةِ مَلَائِكِ  
جِبْرَائِيلَ وَاسْرَافِيلَ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ يَوْمَ الْاِحْدِ فَا بَطَلْنَا هُ  
جِبْرَائِيلَ وَاسْرَافِيلَ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ يَوْمَ الْاِحْدِ فَا بَطَلْنَا هُ  
بِثَلَاثَةِ مَلَائِكِ جِبْرَائِيلَ وَاسْرَافِيلَ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ يَوْمَ الْاِحْدِ فَا بَطَلْنَا هُ  
فَا بَطَلْنَا هُ بِاِذْنِ كُتُبِ التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيلِ وَالْزُّبُورِ وَالْفُرْقَانِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ يَوْمَ الْاِحْدِ فَا بَطَلْنَا هُ بِتَمَانِيَةِ حُرُوفِ  
وَهِيَ هَذِهِ بِسْمِ اللَّهِ لَا اِسْمَ اِلَّا بِاللَّهِ تَبَارَكَ جِبْرَائِيلُ سَقَفْنَا

كَيْبَعْنَ كَفَايْتَنَا حَسَقَ حَيَاتِنَا فَسَبِّكُمُ اللَّهُ إِلَىٰ آخِرِهَا سُبُّ الْعَرْشِ  
مَسْبُؤَلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاطِرَةٌ إِلَيْنَا يَحُولُ اللَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنَ الْإِنْسِ وَلَا  
مِنَ الْجِنِّ عَلَيْنَا وَمَا عَمِلْتُمْ أَيْدِيهِمْ يَوْمَ السَّبْتِ فَأَبْطَلْنَا لَهُ فِي كَيْبَلَةٍ  
الْقَدْرِ إِلَىٰ آخِرِهَا -

**ناقص وغیر روج سکہ یا چیز کو رواج دینا** | **سرخ چھوٹی کی مٹی لیکر اس پر**  
**اسما ذیل سات دفعہ پڑھ کر**

دم کرے پھر وہ مٹی اس کھوٹی چیز پر چھڑک دیں انشاء اللہ بازار میں چل جائے گی  
اسما یہ ہیں: اللَّهُ يَا صَدْرَ كُلِّ مَصْنُوعٍ يَا مُجِيبَ كُلِّ دَعْوَةٍ يَا مُقَرِّبَ كُلِّ الْكَرْبَةِ  
وَيَا عَالِمَ كُلِّ خَنِيئَةٍ وَيَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوَىٰ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيبٍ وَيَا عَالِمًا غَيْرَ  
مَعْلُوبٍ يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ أَنْ تَنْقِذَ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا وَشَيْئًا كَذَا وَكَذَا -

**خرید و فروخت میں برکت کے لیے** | **کسی کوڑی سے تین ہڈیاں لاکر ہر**  
**ایک پر آیات ذیل لکھ کر تعویذ بنا کر**

دکان میں یا مالک دکان اپنے پاس رکھے دکان میں برکت ہو اسما یہ ہیں: وَإِذَا رَأَوْا  
تِجَارَةً أَوْ لَهْرًا اتَّقُوا اللَّهَ لَيْسَ بِهَا تَرْكُوكَ قَائِمًا وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -

**نمرد و عورت و دیگر مخلوق کی باہمی صلح کرانے کے بیان میں**

سوموار یا خمیس کے روز یا وضو ہو کر عرق و زعفران کے ساتھ طلوع آفتاب کے  
وقت اسما ذیل کسی چمڑے یا کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر پہلے اس شخص کے کندھے پر ستے  
پر مارو جس کے ساتھ محبت و صلح چاہتے ہو پھر اس تعویذ کو اپنے دائیں بازو پر باندھیں  
اسما یہ ہیں: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَيْسُكُوَّةٍ  
فِيهَا مِصْبَاحٌ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا هُوَ الَّذِي آتَاكُمْ مِنْهُ حَيَاتَهُمْ لِيَجْزِيَكُمْ  
بِأَعْمَالِكُمْ

اسے اللہ ہر نبی ہوئی چیز کے بنا نیولے اور ہر پکار کو قبول کرنے والا ہر کلین کو روک کرنے  
و اسے ہر راز کو جانتے و اسے سرگوشی کے شاید ہر بیکیس کے ساتھ اسے غالب جو (باتی اُسفہ)

كُتِبَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالْقِيَمَةُ عَيْنُكَ مَحَبَّةٌ مِنِّي فَإِذَا الَّذِي بِيَدِكَ  
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ عَسَى اللَّهُ إِلَىٰ رَحِيمِهِ نَكَّ اللَّهُ رَبَّنَا وَرَبُّكَ مَصِيرٌ  
تَكَوَّلْنَا وَتَوَكَّلْنَا قُرْآنِي وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي بَعْضٍ وَدُرُّدٌ ۳ رُوِيَ عَطُوفٌ  
۳ اللَّهُمَّ يَا مَنْ أَلْفَتْ بَيْنَ النَّارِ أَيْفَ بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ  
قُلُوبِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ عَلَىٰ مَحَبَّتِكَ وَطَاعَتِكَ وَكَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ جِبْرَائِيلَ وَ  
وَمِيكَائِيلَ تَحْتَ عَرْشِكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ  
مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَرَحْمَةً لَّكَ أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ بِالْمَرَدَّةِ وَالرَّحْمَةَ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ وَرَبُّكَ حَاجِنَا  
أَتَيْنَا هَارِبًا هَيْبًا كَذَلِكَ تَهْوَىٰ فُلَانًا وَفُلَانًا اللَّهُمَّ أَيْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَا حَوْلَ  
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

زواج و زوجہ کے مابین صلح و محبت کے واسطے **خمیس کے روز**

عرق گلاب و زعفران کے ساتھ اسماء ذیل لکھ کر جس کو چاہیں دھو کر پلائیں اور محبت  
کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا اسے میرے رب میں سوال کرتا ہوں کہ تو میری فلاں جنس یا چیز چلی کر دے۔  
اللہ آسمانوں کا اور زمینوں کا نور ہے اسکے نور کی مثل اس فتیل کی طرح جسمیں چراغ روشن  
ہو اور سب کی سب مضبوط اللہ کی رسی کو پکڑے رہو اور وہ ایسی ذات ہے جس نے اپنی مدر  
سے تیری تابید کی وہ انکو اللہ کی طرح دوست رکھتے ہیں اور ایماندار اللہ ہی سے زیادہ محبت  
رکھتے ہیں اپنی طرف سے مجھ پر محبت ڈال دے بس ناگیاں وہ شخص ہے اور تیرے درمیان  
دشمنی ہے گویا کہ وہ حمایت کریں والا دوست ہے قریب ہے کہ اللہ ان سب پر لے آوے اللہ ہمارا  
تمہارا رب ہے تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے اور ہم نے چھوڑ دیا بعض اس کا بعض پر جوش  
لانا ہو گا اے وہ ذات جس نے برف اور آگ میں الفت ڈال دی تملل فلاں میں محبت ڈال جیسا کہ تو نے نیک  
بندوں میں اپنی اطاعت و عبادت میں اور اپنے عرش کے نیچے جبریل و میکائیل میں محبت ڈالتا ہے کیونکہ تو نے خود  
کے لیے اور تمہارا فرما سنی ہے آگے آیت ذرا آیتہ تو ان کے دلوں میں محبت و رحمت سے الفت ڈال دے تحقیق اس  
میں قدرتہ تو ان کے لیے اس جیسا ہیں ۱۲





کے پانی میں رنگ دیں کہ نہایت سرخ نمودار ہوگا۔ ف منتقال طبی کا وزن پیم ماشہ ہوتا ہے۔ دانگ چھٹا حصہ درہم کا ہوتا ہے۔ قیراط چاررتی کا ہوتا ہے درہم طبی پیم ماشہ کا ہوتا ہے اور قیراط توریہ الخروب (خروب کی لٹھی) بھی کہتے ہیں۔

## باب ۱۹۲ چند مفید شربتوں کے بیان میں

شربت جوہر ایک مرض کے واسطے مفید ہے۔ معدہ کو طاقت دیتا ہے سردی کو دور کرتا ہے امراض صفراویہ کو ناکارہ کرتا ہے۔ فے و غشیان کو روکتا ہے ہضم بڑھاتا ہے چہرہ کا رنگ سرخ کرتا ہے۔ انار ترشش کا پانی ایک رطل شکر تری ایک رطل آگ نرم پر قوام کر کے شربت بنالیں اس طرح ہر بیوہ کا شربت خالص تیار کر سکتے ہیں

یہ سینے، امراض دماغی بول در رہ کر غیرے حرارت  
**شربت بنفشہ کا بنانا** | صفراء کو تسکین دیتا ہے۔ طبیعت کو نرم کرتا ہے معدہ کو طاقت دیتا ہے۔ یہ ہے گل بنفشہ دو اوقیہ پانی دو رطل دونوں کو ملا کر نرم آگ پر چڑھائیں جب اس کی تاثیر پانی میں آ جاوے اور پھولوں کا رنگ سفید ہو جاوے اتار کر صاف کریں اور اس پانی میں ایک رطل مصری یا شکر تری ملا کر پھر آگ پر چڑھائیں جب قوام پختہ ہو جاوے اتار کر کھ چھوڑیں اور وقت ضرورت کام میں لاویں۔ مقدار خوراک ایک اوقیہ پانی یا کوئی عرق ملا کر استعمال کیا کریں۔ اسی طرح تمام پھولوں کا شربت بنایا جا سکتا ہے۔

یہ شربت بولواسیر کے واسطے نہایت مفید ہے  
**شربت ہندبا یعنی کاسنی** | کاسنی تازہ لے کر قطع کر کے اتنے پانی میں ڈالیں کہ پانی اوپر آ جاوے پھر آگ پر پکائیں جب اس کی تاثیر پانی میں آ جاوے اتار کر صاف کریں پھر جس قدر پانی ہو اس میں نصف حصہ شکر تری یا مصری ملا کر نرم آگ پر پکائیں اور شربت کا قوام تیار کر کے اتار لیں اور بوقت ضرورت کام میں لاویں بولواسیر والا اس میں سے صبح کے وقت مقدار آٹھ یا دس تولہ پانی ملا کر پیا کرے اس طرح

ہر بوٹی کا شربت تیار کر سکتے ہیں۔

یہ شربت تھے وقتیان جی متلانا کو فائدہ کرتا ہے  
**شربت نعناع کی ترکیب** | ترکیب یہ ہے انار شیریں و ترش لیکڑی مع اس  
 کے گودے کے کوٹیں۔ پھر جتنا اس کا پانی نکلے۔ اس کے برابر نعناع (کھٹی انبی یا تیتی  
 ٹوپی) کا پانی۔ شہد شکر تری ملا کر حسب دستور شربت بنالیں۔ مقدار خوراک دو اوقیہ  
 تک پانی میں ملا کر۔

## باب ۱۹۵ معاجین نافعہ کے بیان میں

معجون المسک اس میں چالیس فائدے ہیں ان میں سے درد دل۔ درد کمر عسر البول  
 درد ریجی کو فائدہ کرتی ہے۔ منی کو بڑھاتی ہے عروق و اعصاب و معدہ و دل کو طاقت دیتی  
 ہے سدہ کو کھولتی ہے ترکیب یہ ہے کستوری۔ سلینہ۔ سنبل۔ ساوج۔ ہندی۔ خطیانا  
 (پکھان بید) ہر ایک دو درہم خوب باریک کریں۔ پھر بزر الکرنس۔ مصطکی۔ زیرہ سیاہ۔  
 کافور۔ زعفران ہر ایک تین درہم۔ مرکی۔ قرنفل۔ عود ہر ایک نصف درہم سب کو کوختہ بیختہ  
 کر کے سرگنا شہد کے ساتھ ملا کر نرم آگ پر قوام کریں مقدار خوراک ایک درہم۔

یہ ریباغ کو دور کرتی ہے قویخ کر کھولتی ہے معدہ گرم کرتی ہے  
**معجون نعناع** | منی کو بڑھاتی ہے بوا سیر کو دور کرتی ہے پتھری کو توڑتی ہے۔  
 زنگ کو سرخ کرتی ہے منہ کی بد بو کو دور کرتی ہے۔ دانتوں کو مضبوط کرتی ہے۔  
 درد دل کو دور کرتی ہے قوت باہ کو بڑھاتی ہے۔ جماع کی طاقت پیدا کرتی ہے۔ آنکھوں  
 کی طاقت بڑھاتی ہے جو شخص اس کا استعمال کرتا رہے۔ طبیوں کا محتاج نہ رہے صحیح  
 و مجرب ہے ترکیب اس کی یہ ہے۔ کلونجی۔ بزر نعناع۔ تخم شلغم۔ تخم پیازہ۔ تخم رشادہ۔  
 بادیان۔ خردل۔ ہر ایک دس درہم۔ مصطکی۔ قرنفل۔ نیج۔ عاقرقراط۔ انیسون۔ ہر ایک ایک  
 درہم۔ چرونی۔ جاوتری ہر ایک ایک درہم۔ زعفران ایک مثقال۔ عود ہندی۔ کستوری۔  
 ہر ایک نصف درہم سب کو کوختہ بیختہ کر کے ایک سو درہم شکر تری ملا کر ۲۴ سو درہم

شہد خالص ملائیں اور نرم آگ پر قوام کر لیں پھر زبان میں ڈال کر بیس روز تک دانہ گندم میں دفن کر دیں اور صبح و شام ایک مثقال کھایا کریں اور کھانے کے بعد دو گھنٹہ تک پانی نہ پیا کریں۔

**حلوی الحماوی کی ترکیب** | یہ حلوی جسم کو صحت بخشتا ہے روح کو خوش کرتا ہے۔ جاع کو طاقت دیتا ہے۔ یسست عضو کو قوی کرتا ہے۔ منی کو بڑھاتا ہے۔ ترکیب مفید پیاز کا پانی ایک اوقیہ شہد خالص ایک اوقیہ دونوں کو ملا کر آگ پر رکھیں جب منعقد ہو جاوے اتار کر اس میں عود ہندی۔ سنبل ایک ایک درہم قرنہ (ریح) زعفران۔ دارنفل۔ الاچی خورد۔ جالفل ہر ایک دو درہم کتوری چار رتی سب کو کوٹ کر شہد میں ملا دیں اور ایک ہفتہ رہنے دیں پھر ہر روز بقدر ایک اوقیہ کھایا کریں۔ اور اس کے منافع کا تماشا کریں۔ **معجون فلاسفہ** اس کو مادۃ الحیات بھی کہتے ہیں بقول بلغم کو نکالتی ہے۔ نفس کو تقویت دیتی ہے۔ مفرح ہے ہضم کرتے والی اور رنگ روئے سرخ کرنے والی۔ قوت حافظہ و زکاہ عقل اور زبان کی تیزی کو بڑھاتی ہے۔ سردی کو دور کرتی ہے۔ سلس البول کو قطع کرتی ہے۔ رباع کو توڑتی ہے منی کو بڑھاتی ہے ذکر کو طاقت دیتی ہے۔ دانتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ درد کمزور جمع المفاصل۔ وجع خاصہ۔ درد پسلی کو دور کرتی ہے۔ ترکیب یہ ہے۔ قلفل زنجبیل۔ دارچینی۔ آملمہ بھیرہ شیطرح زراوند حرج۔ بالونہ۔ حب السنوبر۔ جوز ہندی۔ خصیۃ الثعلب۔ ہر ایک ایک اوقیہ تخم بالونہ نصف اوقیہ استعمال کیا کریں۔ تریاق اربعہ کی ترکیب پکھان بیدہ۔ حب الثار۔ زراوند طویل مرکی ہر ایک مساوی کو فتنہ بیختہ کر کے سہ چند شہد خالص میں گوندھ لیں اور بمقدار ایک مثقال گرم پانی سے کھایا کریں۔ یہ تریاق عقارب و عنابک کے ڈنگ اور امراض بادہ کے واسطے مفید ہے **معجون جالینوس** کی ترکیب یہ معجون گرہ و مٹانہ کو کرتی ہے سدہ کھولتی ہے۔ تمام بدن کی اصلاح کرتی ہے۔ فلفل سفید۔ فلفل سیاہ۔ تمام قسط۔ مر۔ سنبل۔ الطیب قصب الزریہ۔ سازج ہندی۔ زعفران۔ تخم کرفس۔ انیسون۔ عاقرقرہ۔ تخم سداب ہر ایک مساوی کو فتنہ بیختہ کر کے سہ چند شہد میں معجون بناویں اور شتقال سرق

بادیان کے ساتھ استعمال کیا کریں۔

**معجون جالینوس** کی دوسری ترکیب۔ درجہ کھانسی۔ خون تھوکنے کے لیے مفید ہے۔  
 زعفران دارچینی ہر ایک ایک درہم۔ مقل ازرق ۴ درہم مسک چار دانگ ازخترین درہم قصب  
 الرزیرہ دو درہم نارین دو درہم صمغ صنوبر تین درہم مویز منقہ تین اوقیہ شہد خالص ایک  
 رطل ورق نقرہ بیس عدد تمام ادویہ کو فنتہ بیختہ کر کے شہد میں ملا کر ورق نقرہ اضافہ کر کے  
 معجون بنائیں معجون خوراک ایک درہم معجون پکھان بیدریہ صلابت معدہ و صلابت طحال  
 و جگر کو مفید ہے سدہ کھوتی ہے اور پرانے بخار کو دفع کرتی ہے۔ پکھان بیدریہ قافل ہر  
 ایک دس درہم قسط۔ ساذج۔ ریوند چینی۔ ہر ایک ایک اوقیہ کو فنتہ بیختہ کر کے سہ چند شہد  
 میں ملا کر معجون بنائیں مقدار خوراک ایک درہم سداب کے پانی کے ساتھ معجون جو ضعف  
 جگر و نفث الدم کو نائدہ دیتی ہے۔ گلنار دم الاخوین۔ ورق الاصف۔ شب یمانی ہر ایک  
 ایک حصہ شب یمانی ۸ حصہ کو فنتہ بیختہ کر کے شہد میں معجون بنائیں مقدار خوراک ایک  
 مثقال گرم پانی کے ساتھ۔ معجون مسمن یعنی فریبہ کر نیوالی مغاث۔ جوز۔ جنم  
 بہن۔ سفید زرد باد۔ کثیرا۔ تخم شمشاد۔ کبر باہر ایک تین درہم کو فنتہ بیختہ کر کے روغن زرد  
 میں بریال کریں اور ایک سیر نخمہ شکر تری ملا کر سفوف بنا رکھیں پھر ہر روز اس میں سے  
 چار تولہ لے کر ایک رطل دورھ میں پکا کر اور ٹھوڑا سا روغن زرد ڈال کر دودھی بنا کر  
 استعمال کریں۔

**دواء الکبریٰ** | یہ دراجیات دائرہ بارودہ کو مفید ہے۔ حمی ریح (چوتھیا) کو دور کرتی  
 ہے بلغمی کھانسی خصوصاً پرانی و نصف المدہ۔ ضیق النفس کو نائدہ کرتی ہے۔ استسقاء  
 و طحال کو مفید ہے۔ مدربول اور پتھری کو نکالتی ہے۔ سانپ و بچھو کے ڈنگ کو نائدہ کرتی  
 ہے۔ ادویہ قتالہ کی آفت سے بچاتی ہے۔ گندک زرد، بزرالبنج سفید، فرومانا، میعہ ہر  
 ایک آٹھ درہم سداب قسط ہر ایک دس درہم۔ افیون و زعفران ہر ایک دو درہم سلینجہ بارہ  
 درہم قافل سفید بائیس درہم سب کو فنتہ بیختہ کر کے شہد ملا کر معجون بنالیں ایک سال کے  
 بعد استعمال کریں مقدار خوراک نصف درہم سے ایک مثقال تک معجون حلیف بیباری

کے بخار کو فائدہ دیتی ہے اور چوتھی تپ کو زائل کرتی ہے۔ اور پچھو اور رتیلا وغیرہ موذی جانوروں کے ڈنگ کو فائدہ کرتی ہے۔ ترکیب ہنگ، نفل، مرورق سداب ہر ایک مساوی کونٹہ بیختہ کر کے سہ چند شہد میں معجون بنائیں مقدار خوراک ایک درہم پچھو کے ڈنگ میں سداب کے پانی کے ساتھ اور بخار میں سکنجبین کے ساتھ بخار کے ایک گھنٹہ چڑھنے سے پہلے استعمال کریں۔ معجون ملح ہندی یہ معجون معدے کو طاقت دیتی ہے۔ بلغمی اور سوداری اور ریش ہے۔ اور بلغمی سرد اور درد کو فائدہ دیتی ہے۔ ترکیب ہلیہ سیلہ ہلیہ

کابل کا بیٹہ، اسطرخودوس ہر ایک تین درہم ایون ایک درہم نمک ہندی چار درہم ایون اور درہم غار یقون چار درہم کونٹہ بیختہ کر کے سکنجبین میں گوندھ لیں مقدار خوراک تین درہم بوقت صبح نیم گرم پانی سے استعمال کریں معجون قسط یہ معجون جگر اور معدے کی زردی کے واسطے مفید ہے۔ ترکیب دارچینی، سیخہ قسط، ہر ایک تیس درہم انیسون تخم کرنس دس درہم اسارون تیس درہم زعفران آٹھ درہم ریوند چینی دس درہم فقاح اذخرچوبنیل درہم سب کو کونٹہ بیختہ کر کے سہ چند شہد میں معجون بنائیں مقدار خوراک تین درہم، ہمراہ نیم گرم پانی کے استعمال کریں۔ معجون فیروز نوش یہ معجون ریاح غلیظہ کو زائل کرتی ہے، اور معض، قویح، نیان کو دور کرتی ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی امراض

باردہ کے واسطے مفید ہے۔ ترکیب بزرا لیخ، ایون ہر ایک چار درہم فرنیون ساقر حاد، سنبل زعفران ہر ایک دو درہم کونٹہ بیختہ کر کے سہ چند شہد میں ملا کر معجون بنائیں اور چھ ماہ کے بعد استعمال کریں۔ معجون کنڈی زعفران دو مثقال، سرسارون، بلو ذیر صدرا چینی

دوتون، قطر اسابون ہر ایک چھ مثقال، قسط، سیخہ، فقاح الاذخر ہر ایک مثقال حب اللسان تین مثقال مجیٹہ آٹھ درہم رب السوس، اسقو لو قندر یون، بس کپڑہ ہر ایک آٹھ مثقال، روغن بلسان، چھ مثقال روغن کے سوا سب چیزوں کو کونٹہ بیختہ کر کے سہ چند شہد میں ملا کر روغن شامل کر کے معجون بنائیں مقدار خوراک بند کی یعنی نصف اوقیہ ۱۶ تولہ معجون پودینہ یہ معجون درد جگر و معدہ اور باری کے بخاروں اور لرزہ کو فائدہ دیتی ہے۔ ترکیب پودینہ ہری اور پاڑی فطر اسالیون، سالیوس ہر ایک دس درہم

تخم کرنس ، ابوند ، حاشیہ ہر ایک چار درہم ، کاشم (زیرو کراتی) پندرہ درہم ، نفل چالیس درہم کو فنتہ بیختہ  
 کر کے سر چند شہد ملا کر معجون بنائیں معجون برون درد جگر و معدہ ، طحال اور شکم کی ریاہ  
 کو نامزد دینی ہے ترکیب یہ ہے سلینجہ ، حمار مر سنبل ، نانورخ ، بادیان ، تخم کرنس ، انیسون  
 سیسا بیوس ، چند پیدستر ، تخم شبت ، زر او زند طویل ، اسارون ، کرویا ہر ایک مساوی کو فنتہ  
 بیختہ کر کے سر چند شہد کے ساتھ معجون بنائیں اور بقدر دو درہم استعمال کریں برش  
 کی ترکیب انیون بیس درہم ، نفل سیاہ ۳۵ درہم ، سبباس چھ درہم ، مصطکی ۔  
 پانچ درہم ، ہندیاتین درہم عودقا ری پانچ درہم ، سنبل پانچ درہم ، عاقرقرہ چار درہم ، بزرالینج  
 سفید چالیس درہم ، زعفران آٹھ درہم ، لوبان پانچ درہم ، فرنیون دو درہم ، سب کو کو فنتہ بیختہ  
 کر کے سر چند شہد مصفی میں معجون بنائیں دوسرا نسخہ انیون چالیس درہم ، زعفران چھ  
 درہم ، بزرالینج سفید بارہ درہم ، قرنفل آٹھ درہم ، مصطکی آٹھ درہم ، الاچی خورد آٹھ درہم  
 گل بنفشہ چار درہم ، زربادین درہم ، عاقرقرہ پانچ درہم ، کبابہ چار درہم ، نفل بارہ  
 درہم ، حسب دستور سر چند شہد خالص میں ملا کر معجون بنائیں مقدار خوراک ۳ رتی سے ایک  
 ماشہ تک دوسرا نسخہ انیون پچاس درہم ، فرنیون تین درہم ، عودقاری تین درہم  
 سنبل دس درہم ، زعفران بیس درہم ، سنبل آٹھ درہم ، نفل دس درہم ، بزرالینج سفید دس  
 درہم کو فنتہ بیختہ کر کے سر چند شہد میں معجون بناویں ۔ دوسرا نسخہ برشعنا کا ، انیون  
 بیس درہم ، بزرالینج سفید پانچ درہم ، عاقرقرہ پانچ درہم ، نفل سیاہ پانچ درہم ، زعفران  
 بارہ درہم ، سنبل آٹھ درہم ، بزرالینج سفید پانچ درہم ، عاقرقرہ پانچ درہم ، نفل سیاہ  
 پانچ درہم ، زعفران بارہ درہم ، سنبل آٹھ درہم ، گل بنفشہ چار درہم ، نفل سات درہم  
 مصطکی سات درہم ، لوبان پانچ درہم ، الاچی خورد آٹھ درہم ، تخم السی آٹھ درہم ، گل بنفشہ  
 پانچ درہم ، یاقوت دشاں درہم ، موتی دو درہم ، سب کو کو فنتہ بیختہ کر کے سر چند شہد میں  
 ملا کر معجون بنائیں اور کام میں لائیں دوسرا نسخہ انیون دشاں درہم ، زعفران پانچ  
 درہم ، بزرالینج سفید دس درہم ، نفل سیاہ دس درہم ، نفل سفید دس درہم  
 سنبل گیارہ درہم ، سبباس پانچ درہم ، سب کو کو فنتہ بیختہ کر کے سر چند شہد ، خالص

میں ملا کر معجون بنالیں۔

فَقَدْ تَمَّ الرَّحْمَةُ بِعُوفِيهِمْ وَحُسْنِ تَوْفِيْقِهِمْ وَصَلَّى  
 اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ وَسَلَّمَ  
 تَسْلِيمًا كَثِيرًا -

